


محلّ الحدائق الكتبية

للمكتبة



Haidery
Kutub Khana

Rs. 150/-

حیدری
کتب خانہ

14/15, Mirza Ali Street, Imam Bada Road, Mumbai - 400 009. Off.: 5657 2934 • Resi.: 2371 1929 • Fax: 2372 9541 ATTN: HAIDERY
Presented by www.ziarat.com

فہرست

اسلام میں مناظرے کی اہمیت اور اسلامی مقاصد کی پیشافت میں اسکا کردار	۷
پیغمبر اسلام کے مناظروں کے چند نمونے	۱۷
امام علیؑ کا معادیہ سے مکاہب	۷۳
امام علیؑ کا وفات	۷۵
امام علیؑ کا معادیہ کو جواب	۷۷
امام سجادؑ اور ایک شایی مرد	۷۹
امام جعفر صادقؑ کے دست مبارک پر مhydr کا قبول اسلام	۸۱
انن اپنی اخو جاء اور امام صادقؑ	۸۳
انن اپنی اخو جاء کی ناگہانی موت	۸۸
عبداللہ دیصلانی کا بشام کے سامنے مسلمان ہونا	۸۹
دوپنی پرستوں کا امام صادقؑ سے مکالہ	۹۲
منصور کے دربار میں ایک مکالہ	۹۳
امام صادقؑ کا ایک "خدانما" شخص سے مکالہ	۹۵
کیا آپ اس جواب کو جائز سے لائے ہیں	۹۶
شاعر و ان امام صادقؑ کا ایک شای و انشیدن سے مکالہ	۹۷
ہشام بن حکم کا مرد شایی سے مکالہ	۱۰۰
امام کاظمؑ کے دست مبارک پر جائین کا قبول اسلام	۱۰۵
امام کاظمؑ کے پاس الویں سف کا علاج	۱۰۸
امام کاظمؑ کا ہارون سے مکالہ	۱۱۰

حمد حقوق طبع حق ناشر محفوظ ہیں

کتاب	۱۰۱
تالیف	محمد محمدی اشتہاروی
ترجمہ	ایم۔ ایچ۔ عا بدی
طبع اول	۱۰۰۰

۱۷۱	علامہ امینی کا تسلی خش جواب
۱۷۳	کیا مٹی اور پتھر پر بجھہ شرک ہے
۱۷۸	شیعہ عالم کار بنا نظیم امر بالمعروف و نهى عن المحرر سے مباحثہ
۱۸۰	اس بارے میں ایک غم انگریز داستان
۱۸۱	فاطمہ زہر آکی مظلومیت کیوں؟
۱۸۳	تریت امام حسین پر بجھہ کرنا
۱۹۰	اگر پتھر اسلام کے بعد کوئی پتھر ہوتا تو کون جاتا؟
۱۹۲	مسئلہ تحد
۱۹۳	شیعہ عالم کا سمجھی عالم سے مباحثہ
۱۹۵	شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مکالہ
۱۹۹	شیخ مفید کا عمر بن خطاب سے مکالہ
۲۰۳	آپ نماز کے سلسلے میں ماہون کا ایک سی عالم سے مکالہ
۲۰۴	غیری مولف ولنک انہی الحدیث کے درمیان مکالہ
۲۰۹	اجتہاد در مقابل فض
۲۱۳	آقائے صدر سے توسل کے بارے میں مکالہ
۲۱۵	اذان میں ولایت علی کی گواہی دینا
۲۱۶	آیت اللہ خوئی سے مکالہ
۲۱۹	تماز ظہرو عصر اور مغرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا
۲۲۲	امام جماعت الحدیث سے مباحثہ
۲۲۲	قاضی مدینہ سے آیت تطہیر کی حد
۲۲۴	آل محمد پر درود و سلام پھیلنے پر مباحثہ
۲۲۰	حدیث غذیر پر یک مکالہ
۲۲۵	ایک استاد اور شاگرد کے سوال و جواب
۲۲۶	قبر پتھر پر با آواز بلند زیارت پڑھنا
۲۲۷	شیخ نبیانی کے والد سے سی علماء کے مباحثہ

۱	امام رضا کا اوفر سے مکالہ
۱	امام رضا کا ایک مکر خدا سے مکالہ
۱۱۸	مشیت اور ارادہ کے معنی
۱۲۰	مامون کا یعنی عباس سے شان امام جوادؑ میں مکالہ
۱۲۵	عراق کے فلسفی سے ایک مکالہ
۱۲۷	ایک شیعہ خاتون ہ سبط بنتی جوزی سے مکالہ
۱۳۰	ایک ڈھیلا تمن اشیوں کا جواب
۱۳۰	پارون کے وزیر کو بھلوں کا جواب
۱۳۱	ایک شیعہ کا "جر کے قائل" کے استاد سے مکالہ
۱۳۳	فضل کا اوحنینہ سے مکالہ
۱۳۶	ایک دلیر خاتون تبعیج کے دربار میں
۱۳۷	ابوالہذیل سے مکالہ
۱۳۸	مامون کا علماء سے مکالہ
۱۳۹	ابو الفضل کا اپنے پیچے کو پتھر کے قول پر اتفاق کا جواب
۱۵۰	ابوہریرہ کو ایک شیور جوان کا جواب
۱۵۱	تو جوان کا جواب
۱۵۲	ایک شیعہ کے حکم و دلائل
۱۵۶	ایک مجتبی کا سعودی پولیس سے مباحثہ
۱۵۹	علی بن میثم کا ایک سمجھی سے مکالہ
۱۶۱	علی بن میثم کا مکر خدا سے مکالہ
۱۶۲	علی بن میثم کا ابوالہذیل سے مکالہ
۱۶۳	غمین عبد العزیز کا امت پر حضرت علیؑ کی برتری کا اعلان کرنا
۱۶۴	شیخ نبیانی کا ایک مخالف سے مباحثہ
۱۶۶	علام علی کا سید موصی سے مباحثہ
۱۶۸	شیعہ عالم کا سربراء امر بالمعروف و نهى عن المحرر سے مباحثہ

اسلام میں مناظرے کی اہمیت اور

اسلامی مقاصد کی پیشرفت میں اسکا کردار

حقائق کو سمجھنے اور واقعات کو جاننے کے لئے مناظرہ و مباحثہ کرنا خصوصاً
دور حاضر میں جب کہ داں علم و سیع ہو چکا ہے کسی مہذب مقصد تک پہنچنے کا قوی
ترین راستہ ہے۔ اگر بالفرض تعصُّب اور بہت دھرمی کے سبب اسے قبول نہ بھی کیا
جائے تو کم از کم اقسامِ جنت کے لئے تو کافی ہے کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ تکوار
کے زور پر زردستی اپنے عقیدے کو دوسروں پر مسلط نہیں کیا جاسکتا اور اگر مسلط
کر بھی دیا جائے تو وہ بے بجیاد اور عارضی ثابت ہوتا ہے۔

خدا نے بھی قرآن مجید میں اس موضوع کو کافی اہمیت دی ہے اور اسے
اصول قرار دے کر چار مواقع پر اپنے پیغمبر سے ارشاد فرمایا ہے:
فَلَهَاٰتُو بِرَهَانَكُمْ أَنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۱۱)

آیت رخوان و طعن اصحاب	۲۵۵
عشرہ مبشرہ پر مباحثہ	۲۵۹
قبور پر میے ڈالنے کے مسئلے پر مقالہ	۲۶۲
ہر طرف سے لفظ "شُرُك" کا شور سنائی دینا	۲۶۳
حج کے مسئلے پر ایک مقالہ	۲۶۶
ایمان حضرت عبد المطلب و حضرت ابو طالب	۲۷۹
ایمان ابو طالب پر ایک مقالہ	۲۸۲
کیا حضرت علیؑ گراں قیمت انگوٹھی پہنچتے تھے؟	۲۸۴
کیوں نام علیؑ قرآن میں نہیں ہے؟	۲۸۹
ندہب تسبیح کی تجدیدی صحیح ہے	۲۹۱
قبور کو دیران کرنے کے مسئلے میں مباحثہ	۲۹۳
امام علیؑ مولود کعبہ ہیں	۲۹۸
حدیث "اصحابی کالجوم" کے بارے میں مقالہ	۳۰۱
علیؑ شہید راہِ حدالت	۳۰۵
خیرات ائمہ کے بارے میں مقالہ	۳۰۹
مقام علیؑ اور مسئلے وحی پر مباحثہ	۳۱۳
رویت خدا کے مسئلے پر ایک مقالہ	۳۱۶
مسئلہ مر پر حث	۳۲۱
کیا معاذیہ پر لعن کرنا جائز ہے؟	۳۲۶
امام حسین پر گریہ و بکا	۳۲۹
حاجیت پیغمبر اسلام پر مباحثہ	۳۳۸
قاحلان امام حسین کے بارے میں مقالہ	۳۴۳
آیت ہلاکت پر ایک مقالہ	۳۴۷
ایران میں شیعیت کا فروغ	۳۵۱
بعض آیات قرآنی میں ظاہری اختلاف	۳۵۶
امام زین (ع) کے ۳۱۳ سپاہی	۳۶۰

ہے کہ مناظرہ کرنے والے مناظرے کے طور طریقے سے خوب آگاہی رکھتے ہوں تاکہ جہاں حدث و مناظرے کی ضرورت محسوس کی جائے وہاں حدث و مناظرہ کیا جائے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرمؐ نے مختلف حالات میں تمیں مختلف طریقوں کا استعمال کیا اور اس طریقے سے مختلف افراد کو اسلام کی دعوت دی۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے چار ہزار شاگردوں کی تربیت کی اور ان کو مختلف علوم کا ماہر بنایا جن میں مناظرہ اور دینگر علوم شامل تھے۔ چنانچہ جب کوئی مخالف علمی مذاکرہ کرنے اور حدث کرنے آتا اور امامؐ کے پاس وقت نہ ہوتا تو آپؐ اپنے شاگردوں میں ہی سے کسی کو حکم دیتے کہ وہ اس آنے والے سے حد و مناظرہ کرے۔ ان اہل العوجاء دیصانی اور ان مقیح جیسے دنیا پرست اور منکر خدا نے بارہا امام صادق اور ان کے شاگردوں سے مناظرہ کیا۔ امامؐ ان کی باتوں کو سنتے اور اس کا حرف بہ حرف جواب دیتے تھے یہاں تک کہ ان اہل العوجاء کتنا ہے کہ امام صادقؐ پسلے ہم سے کہتے تھے کہ تم لوگوں کے پاس جو بھی دلیل ہو لے آؤ اور جب ہم اپنی تمام دلیلوں کو آزادانہ طور پر بیان کر دیتے تو امامؐ ان دلیلوں کو خاموشی سے سنتے ہم یہ گمان کرتے کہ شاید ہم نے امامؐ کو مغلوب کر دیا ہے لیکن جب امامؐ کی باری آتی تو آپؐ بڑی محبت اور نرم لمحے کے ساتھ اس طرح ہمارے ایک ایک سوال کا جواب دیتے کہ ہمارے لئے مزید کسی قسم کے بھائے کی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔

”اے نبی! آپ مخالفین سے کہ دیں کہ اگر تم لوگ حق کہتے ہو تو دلیل لے آؤ۔“

لہذا اسلام جب دوسروں کو دلیل و مہماں اور منطق کی دعوت دیتا ہے تو ضروری ہے کہ خود بھی دلیل اور استدلال کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرے۔

مزید پیغمبر اکرمؐ کو مجااطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا:

ادع الى سهل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن۔ (سورۃ نحل آیت ۱۲۵)

”اے رسول! آپ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاعیں اور ان سے حدث و مناظرہ بھی کریں اس طریقے سے جو (لوگوں کے نزدیک) سب سے اچھا طریقہ ہے۔“

اس آیت میں حکمت سے مراد وہ محکم ترین راستہ ہے جو علم و عقل پر مبنی ہو اور ”موعظة حسنة“ سے مراد وہ معنوی نصیحتیں ہیں جو سننے والوں کے احساسات کو حق کی طرف مائل کرتی ہیں۔ البتہ بعض لوگ سخت اور بہت وحشم ہوتے ہیں جو ہر چیز سے انکار کرتے ہیں اور اپنے باطل افکار و خیالات کو ہر طرح سے منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے لیکن یہ مقابلہ حسن اخلاق اور شاکست طریقے سے ہو جس میں حق اور حسن اخلاق پایا جائے۔ لہذا فن مناظرہ میں ضروری

دوسری جگہ قرآن حضرت ابراہیم کے ایک اور مناظرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان گفتگو کا مذکورہ کرتا ہے۔ جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ آپ کا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ میں اس خدا کو سجدہ کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے نمرود جو حیلہ و بیانے سے سادہ لوح افراد کو اپنے ارد گرد جمع کئے ہوئے تھا جب اس نے دیکھا کہ لوگوں پر حضرت ابراہیم کی بات کا اثر ہو رہا ہے تو چلایا کہ اے نادان لوگو! قدرت تو مجھے بھی حاصل ہے میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ سزا نے موت کے مجرم کو آزاد کر دیتا ہوں اور جس کو سزا نہیں ہوتی اگر چاہوں تو اس کو قتل کر دیتا ہوں اور پھر اسی لمحے نمرود نے ایک مجرم کو جو سزا نے موت کا حکم سن چکا تھا حکم دیکر آزاد کر دیا اور وہ مجرم جس کیلئے سزا نے موت مقرر نہیں تھی اسے سزا نے موت دیدی۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کی ان غلط باتوں کے مقابل اپنے استدلال کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ صرف موت اور حیات ہی خدا کی قدرت میں نہیں ہے بلکہ تمام کائنات کی تمام مخلوق اسکی تباخ ہے اسی بناء پر میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم حق کہتے ہو کہ لوگوں کے خدا ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال دو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ قرآن کہتا ہے:

فِيهِتُ الَّذِي كَفَرُوا لِلَّهِ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ (سورہ بقرہ آیت ۲۵)

قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کے مناظروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن حضرت ابراہیم کے بعض مناظرات کا مذکورہ کر کے بتانا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پیروکار اپنے اجتماعی، سیاسی اور اعتقادی مسائل میں غافل نہیں تھے بلکہ مختلف مذاہوں میں بالجملہ تہذیب کے مذاہ میں دلائل اور اپنی مطہقی گفتگو سے دین خدا کا دفاع کیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت ابراہیم کی بتائی کے واقعات کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے کہ انہوں نے تمام یوں کو توڑ دیا تھا لیکن یہے بت کوبھی رکھا، جب نمرود کے دربار میں ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہوں کو کیوں توڑا؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں:

بَلْ فَعْلُهُ كَبِيرُهُمْ فَاسْتَلُوا انْ كَانُو بِنَطْقُونَ۔ (سورہ انبیاء آیت ۶۲)

”یہ کام بڑے بت کا ہے اگر وہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔“

حضرت ابراہیم نے اس جواب میں درحقیقت بت پرستوں کے اعتقاد کے مسئلے کو موضوع قرار دیتے ہوئے اس استدلال کو ان کے سامنے پیش کیا ہے گویا ان کو من توڑ جواب دیدیا ہے۔ بت پرست کرنے لگے کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم نے اس موقع کو خیانت سمجھتے ہوئے کہا تو کیوں ان پر ان کی پرستش کرتے ہو جو کسی قسم کا کوئی لفظ و لفثان نہیں رکھتے اور نہ کسی کام پر ان کو کوئی قدرت حاصل ہے۔ افسوس ہے تم لوگوں پر اور تمہارے معبودوں پر کیا تم لوگ اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔

حق کا دفاع کیا جاسکے۔

حضرت امام صادقؑ مخالفین سے مناظرے کی ضرورت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

خاصوهم ویسوا لهم الہدی الذی انتم علیہ ویسوا لهم ضلالہم
وبالھو هم فی علی علیہ السلام۔ (حار جلد ۱۰ صفحہ ۲۵۲)

”اپنے مخالفوں سے حجت اور مقابلہ کرو جس راستے کے تم رہی ہو اس پدایت کے راستے کو لوگوں کے لئے بیان کرو اور جن راستوں سے گمراہ ہوئے ہو اتنیں ان لوگوں کے لئے واضح کرو اور حضرت علی علیہ السلام کی حقانیت کے سلسلے میں ان سے مقابلہ کرو۔ یعنی باطل کے طرفداروں سے نفرت اور خدا سے ان کے مصیبت و بلائیں جتنا ہونے کی درخواست۔ کرو۔“

اسی بحاء پر تغییر اسلامؓ اور ہمارے اماموں علیہم السلام اور مذہب تشیع کے علماء نے مناسب موقع پر حجت، مقابلہ اور قائم کرنے والے شوہد و لاکل کے ذریعے مناظرات کئے اور اس کے ذریعے یہت سے لوگوں کو بدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کی اور گمراہیوں سے نجات دلائی۔

امام بالز ارشاد فرماتے ہیں:

علماء شيعتنا مرابطون في الشغر الذي يلى ابلیس وعفاریته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن ان يتسلط عليهم ابلیس وشیعنه

”حضرت ابراہیمؑ کی اس بات پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور خدا ہرگز ظالموں کی بدایت نہیں کرتا۔“

یہ تھیں حضرت ابراہیمؑ کے مناظروں کی دو مشابیں جنہیں حضرت ابراہیمؑ نے مخالفین کے سامنے پیش کر کے حجت کو تمام کیا۔ قرآن میں مخالفوں سے حضرت ابراہیمؑ کے جن مناظروں کا ذکر ہوا ہے وہ اس بات کی شاندیہ کرتے ہیں کہ مناظرے میں صحیح طریقہ کو اپنالیا جانا چاہئے اور تمذیی آثار میں ہونے والی سازشوں کے مقابلے میں (مناسب) دلائل اور صحیح مناظروں سے سچھا چاہئے تاکہ وقت پڑنے پر حق کا دفاع کیا جاسکے، ارشاد ہوتا ہے:

يَا إِيمَانَهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَذْرٌ حَذْرٌ كم۔ (سورة نساء آیت ۱۷)

”اے ایمان والو! اپنی حفاظت کے ذرائع کو اچھی طرح سے لے لو۔“
یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ تمام حالات میں اپنے آپ کو دشمنوں اور سازش کرنے والوں سے مقابلے کے لئے تیار رکھیں ان مواد میں سے علمی وادیٰ آثار بھی ہیں کیونکہ ان کے استعمال کے موقع دوسری تمام چیزوں سے زیادہ گرسے ہیں اور یہ بات بھی واضح ہے کہ فکر و تمذیب اسی وقت پایۂ محیل تک پہنچتی ہیں جب مناظرہ، حجت اور علمی تحقیق اور دلائل وغیرہ کے طریقوں سے بہتر طور پر آشنای حاصل کی جائے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں سے آشنای اور بہرہ مند ہو کر مناسب اوقات میں

وala شخص جب اسلام کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو اسے شیعہ مذہب کی حقانیت پر بنی ایسے بہت سے موارد کا سامنا ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دلائل بہت مضبوط ہیں اور شریعت اسلامی کے مقاصد اور معاشرے اور نسلوں کی تربیت کے لئے بہت سازگار ہیں اس طرح یہ چیزیں انسان کو شیعہ مذہب اور اس کی ہدایات کی طرف مائل کرو دیتی ہیں۔

پھر چند معاشرتی اور خاندانی مسائل کو نمونہ کے طور پر یہ کہتے ہوئے ذکر کیا کہ :

”جب بھی ان امور میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں شیعوں کے فتاویٰ کی بیادوں پر ان مسائل کا جواب دیتا ہوں۔“ (اخبار الیقظ بغداد شمارہ ۹۶۔ ۷ شعبان)

قاہرہ کی یونیورسٹی الازہر کے ایک ایسے مقبول اور بڑے استاد کا اعتراف بہت پر امید اور توجہ کو جلب کرنے والا ہے کیونکہ وہ شیعہ مذہب کو دلیل و برہان کی بیاد پر استوار اور اسلام کے پاک و صاف مقاصد کے موافق سمجھتے ہیں۔ آگے چل کر مذہب شیعہ کے صحیح ہونے کے بارے میں ان کے تاریخی فقرے اور قاہرہ کے بزرگ علماء کے ذریعے ان کی تائید کے بارے میں مناظرہ نمبر ۸۵ میں مذکورہ کیا چائے گا۔

زیر نظر کتاب میں ان مناظرات کا نمونہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جو

الواصِبُ الْأَفْمَنُ انتصبَ كَانَ أَفْضَلُ مَمْنُ جَاهَدَ الرُّومَ وَالْمُرْكَ وَالْخَزَرَ الْفَلَفَ مَرَةً لَا نَهَ يَدْفَعُ عَنِ الْإِيمَانِ مَجِيئًا وَذَالِكَ يَدْفَعُ عَنِ ابْدَاهُمْ۔ (الْجَاجَانُ طَبَرِيٌّ جَلْدُ اَ، صَ ۱۰۵)

”ہمارے پیروکار علماء ان سرحدی فوجوں کی مانند ہیں جو الہیں اور اس کی فوج کے سامنے صفتِ کفر رکھتے ہیں اور ہمارے شیعوں کو جب الہیں اور اس کی فوج کے محلہ کے موقع پر اپنا چاؤ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان سے چلتے ہیں اور الہیں کے سلطان اور اس کے ناصیح پیروکاروں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگاہ رہو اے شیعہ صاحبان علم جو دین اور مذہب و ملت کے دفاع میں اپنا تیقینی وقت صرف کرتے ہیں ان کی اہمیت ان سپاہیوں سے کافی درجہ بالاتر ہے جو اپنے ملک و دین اور اسلام کے دفاع میں کفار اور دشمنان اسلام سے جنگ کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے دین کے دفاع کرنے والے ہیں جبکہ مجاہد صرف اپنے ملک کی جغرافیائی حدود کے حفاظت ہوتے ہیں۔“

شیخ محمود خلیوت مصری سے گفتگو
الازہر یونیورسٹی مصر کے بلند پایہ استاد اور مفتی شیخ محمود خلیوت جو الحادث کے سربراہ اور دینے علماء میں سے تھے اپنے ایک اثریوں کے دوران کہتے ہیں کہ :
”تمام پلاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کی بیادوں پر کوشش کرنے

پیغمبر اسلام کے مناظروں کے چند نمونے

(۱)

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آله وسلم کا اسلام خالق پائی مختلف مذاہب کے گروہوں سے مناظرہ جن میں سے ہر گروہ پائی افراد پر مشتمل تھا۔ مجموعی طور پر ۲۵ افراد تھے جنہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کر مناظرہ کیا جائے۔ یہ پانچوں گروہ مدینہ طیبہ میں پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور آپ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ پیغمبر اکرم نے بودی خوش اخلاقی سے انہیں حد شروع کرنے کی اجازت دی۔

یہودیوں کے گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیزہ^۱ خدا کے پیٹے میں ہذا ہم اس موضوع پر آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں اگر اس موضوع پر حق ہمارے ساتھ ہوا اور آپ ہمارے ہم عقیدہ ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافقت

۱۔ عزیز حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے بیش اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔

پیشوایان اسلام پیغمبر اکرم و ائمہ اطہار علیم السلام اور علماء کرام نے ماضی اور حال میں مذکور اور نادان افراد سے مناسب رویے کو اپنانے کے طریقوں کی عکاسی کرتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے دین حق کا واقع کیا جائے۔ دلائل و استدلال کا فن اور صحیح مناظرہ، افراد کو متوجہ کرنے یا انہیں قائم کرنے میں بہت مؤثر ہے اور ان طریقوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے ہمیں چاہئے کہ مختلف مواقف میں پیغمبر اور نادان لوگوں کی بدایت کے لئے کمر بست رہیں۔

اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

حصہ اول میں حضرت خاتم النبیین، ائمہ ظاہرین^۲ اور ان کے شاگردوں کے مناظرے ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ اسلام کے مختلف امور کے بارے میں کئے۔

حصہ دوم میں معروف اور محقق علماء اسلام کے مختلف گروہوں کے ساتھ مناظرے ہیں جو گوایہ کتاب ۱۰۱ مناظروں پر مشتمل ہے۔ امید ہے کہ اس مجموعہ کے ذریعے مناظرہ کا طریقہ اور اسلامی مقاصد کی پہچان کی جانب پیش رفت میں مدد ملے گی اور ہم علمی وادی میں ہونے والی سازشوں سے محظوظ رہ سکیں گے۔

محمد محمدی اشتخاری
قم مقدسہ (ایران)

مکمل جواب دیا کہ تم سب نے اپنے اپنے عقائد کا انعامد کیا اب میری باری ہے کہ پہلے میں اپنے نہ بہ کا انعامد کروں۔ لہذا سنوا میں خدا نے یکتا وحدۃ الاشریک پر اعتقاد رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ ہر خدا کا انعامد کرتا ہوں، خدا نے واحد نے مجھے اس کائنات والوں کے لئے اپنا پیغام بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت خدا کی خوشخبری دینے والا اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، میں دنیا والوں پر خدا کی طرف سے جنت ہوں اور خدا ہی مجھ کو میرے مخالفین اور دشمنوں کی اذیتوں سے چانے والا ہے۔ پھر پیغمبر اسلام ترتیب کے ساتھ ہر گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ جواب دینا شروع کیا۔ پہلا مناظرہ یہودیوں کے گروہ کے ساتھ تھا جن کے ساتھ اس طرح سے مناظرہ ہوا:

پیغمبر اکرم: کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغیر دل کے تمہاری باتوں کو قبول کرلوں؟

یہودی گروہ: (دلیل یہ ہے کہ) چونکہ تورات بالکل ختم ہو چکی تھی کوئی بھی اسے زندہ کرنے والاتھ تھا اور کیونکہ حضرت عزیزؑ نے اسے زندہ کیا اس وجہ سے ہم انہیں خدا کا پیٹانا نہیں لگے۔

پیغمبر اکرم: اگر حضرت عزیزؑ کو خدا کا پیٹانا نہیں کے لئے تم لوگوں کے پاس یہی دلیل ہے تو حضرت موسیٰ اس کے زیادہ مستحق ہیں اس لئے کہ وہ تورات کو لانا والے ہیں اور صاحب مجرمات بھی ہیں ایسے مجرمات جن کا اعتراف آپ لوگ بھی کرتے ہیں تو پھر کیوں تم لوگ حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسا نہیں کہتے جن کا مقام ان سے بھی اعلیٰ تھا۔ دوسری طرف اگر تم خدا کا پیٹا ہو تو دنیا وی

نہ کی تو آپ کے ساتھ مخالفت اور دشمنی رکھتے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عیسائیوں کے گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے ہیں اور خدا نے ان کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ لہذا ہم آپ سے مذاکرہ کرنے آئے ہیں اگر آپ نے ہماری پیروی کی اور ہمارے عقیدے سے متفق ہو گئے تو ہم آپ پر سبقت لے جائیں گے ورنہ ہم آپ کی مخالفت اور آپ سے دشمنی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

مادہ پرست گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کی ابتداء اور انتہا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے۔ لہذا اس موضوع پر ہم آپ سے حد کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو معلوم ہو جائے گا کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ اتفاق نہ کیا تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔

دوقی پرست گروہ نے کہا: کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کو پالنے والے اور چلانے والے دو ہیں ایک پروردگار نور ہے ایک پروردگار قلمت ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں تاکہ آپ بھی اس مسئلے میں ہمارے ہم عقیدہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ موافق نہ کی تو ہم آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائیں گے۔

ہت پرست گروہ نے کہا: ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ مت ہمارے خدا ہیں۔ لہذا آپ سے حد کرنے آئے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس مسئلے میں قائل کریں۔ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے۔

پیغمبر اکرم کے جوابات: پیغمبر اسلام نے پہلے سب کو ایک عام سا

ہونا چاہئے کہ موسیٰ خدا کے بیٹے یا بھائی ہیں کیونکہ موسیٰ کا مقام عزیز سے بلند ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ آیا آپ لوگ مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا پیٹا یا بھائی قرار دیا جائے اور خدا حضرت موسیٰ کو احترام آپنا پیٹا یا بھائی یا استاد یا رہنمای قرار دے؟ یہودی جواب نہ دے سکے اور حیران و پریشانی کے عالم میں کتنے لگے ہمیں اتنی مہلت دیں کہ ہم تحقیق کریں۔

پیغمبر اکرمؐ: اگر آپ لوگ اس مسئلے میں خالص و پاک دل اور انصاف کے ساتھ غور و فکر کریں تو خدا ضرور حقیقت کی جانب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ دوسرا مناظرہ مسیحی گروہ کے ساتھ:

پیغمبر اکرمؐ آپ مسیحی گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے قدیم میں اپنے بیٹے حضرت مسیح کے ساتھ اتحاد کیا ہے اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آیا اس سے آپ لوگوں کی مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جو کہ قدیم ہے اپنے درجے سے بیچے آکر ایک حادث وجود (یعنی پیدا ہونے والے) کے ساتھ اتحاد کیا اور موجود میں گیا، یا اس کے برخلاف حضرت مسیحی جو ایک حادث اور محدود موجود ہیں ترقی کر کے پروردگار قدیم کے ساتھ وجود واحد میں گئے، یا اتحاد سے آپ لوگوں کی مراد حضرت مسیح کا احترام اور شرافت ہے اگر پسلا قول آپ لوگوں کا مورد نظر ہے یعنی خدا اپنے قدیم وجود سے تبدیل ہو کر وجود حادث میں گیا تو یہ محل ہے کیونکہ انسانی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ محدود اور ازل سے موجود ہونے والا وجود دونوں ایک میں جائیں اور اگر دوسرے قول کو قبول کیا جائے تو وہ بھی محل ہے کیونکہ عقل کی نظر میں ایک محدود اور

باق پیٹے کی طرح تصور کرتے ہو کہ وہ خدا سے ہوئے ہیں تو اس صورت میں گویا تم دیگر موجودات کی طرح خدا کو بھی ایک مادی و جسمانی اور محدود موجود قرار دیتے ہو جس کی مادا پر یہ لازم آئے گا کہ خدا کا بھی ایک پروردگار تصور کیا جائے اور اسے کسی خالق کا محتاج سمجھا جائے۔

یہودی گروہ: ہمارا مقصد حضرت عزیزؐ کے خدا کے بیٹے ہونے کا وہ نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے کیونکہ اس طرح کہنا سر اسر کفر اور جہالت ہے بھدھا ہمارا مقصد فقط ان کی شرافت و احترام ہے جس طرح ہمارے بعض علماء اپنے ممتاز شاگردوں کو اپنا پیٹا کرتے ہیں۔ بہاں کوئی باب بیٹے کی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ لہذا خداوند عالم نے بھی حضرت عزیزؐ کو ان کے احترام میں اپنا پیٹا کیا ہے۔ لہذا ہم بھی اسی مادا پر ان کو خدا کا پیٹا کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ: تمہارا جواب اب بھی وہی ہے جو میں نے پہلے دیا ہے کہ اگر حضرت عزیزؐ کو خدا کا پیٹا ماننے کی لیکی وجہ ہے تو ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ جو حضرت عزیزؐ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں خدا کا پیٹا مانا جائے کبھی کبھار خدا لوگوں کو ان کے دلائل کے ذریعے قائم کرتا ہے آپ لوگوں کی دلیل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں حضرت عزیزؐ سے بڑھ کر کیں۔ آپ نے مثال دی اور کہا کہ ایک ایسا استاد جو اپنے شاگرد کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہیں رکھتا اس کے احترام میں کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تو اس قسم کے جملے اس کی شرافت و احترام کو ظاہر کرتے ہیں جس کا احترام زیادہ ہوگا اس کی شان میں اسے ہی زیبا الفاظ استعمال کئے جائیں گے۔ تو پھر آپ لوگوں کے نزدیک یہ بھی روایت

بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو صرف خدا کا محتاج سمجھتے تھے۔ لہذا خدا نے ان کو اپنا خلیل قرار دیا۔ آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ ان کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کو ملاحظہ کریں کہ جب انہیں مجھیں میں نمود کے حکم سے ڈالا گیا تاکہ اس کی وہ کامی ہوئی آگ میں پھیک دیا جائے، حضرت جبرئیل خدا کی طرف سے ان کے پاس آئے اور فضائیں ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تاکہ آپ کی مدد کروں۔ حضرت ابراہیم نے انہیں جواب دیا کہ میں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہتا اور اس کی مدد میرے لئے کافی ہے، وہ اچھا محافظ ہے۔ لہذا خدا نے اس وجہ سے ان کو خلیل یعنی خدا کا فقیر و محتاج مددہ قرار دیا اور اگر خلیل کے لفظ کو ”غلہ“ کے معنوں میں لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پیدائش و حقیقت کے رموز و اسرار سے آگاہی رکھنے والا۔ لہذا اس وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل تھے۔ یعنی حقیقت خلقت کے اسرار سے آگاہ تھے۔ تو اس طرح کے معنی خلوق کو خالق سے تشید دینے کا باعث نہیں ملتے۔ اس صورت میں اگر حضرت ابراہیم اگر صرف خدا کے محتاج نہ ہوتے تو اسرار خلقت سے بھی آگاہ نہ ہوتے تو خلیل بھی نہ ہوتے لیکن پیدائشی اور اولادی رشتہوں میں ایک قسم کا ذاتی ہیوند اور رابطہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر باپ بیٹے کو اپنے سے دور کروے اور رابطہ توڑے تب بھی وہ اس کا پینا کھلانے گا اور ان کے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ باقی رہے گا۔ اب اگر تمہاری دلیل بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کیونکہ خلیل خدا ہیں لہذا حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں تو لازم ہے کہ حضرت موسیٰ کو بھی خدا کا پینا کو یا اسی طرح کا جواب جو یہود کو دیا گیا کہ مقام کے اعتبار سے نبتوں کو رکھا جاتا ہے

حادثہ چیز ایک لاحدہ و اور ازلي چیز میں تبدیل نہیں ہو سکتی اور اگر تیرے قول کو قبول کر لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ دوسرے ہندوؤں کی طرح حادث ہیں لیکن خدا کے نزدیک لاائق احترام ہیں اس صورت میں بھی خدا اور عیسیٰ کی برادری اور اتحاد قابل قبول نہیں ہوگی۔

سیجی گروہ: کیونکہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے امتیازات دیئے ہیں اور مجرمات اور جرمات انگیز کام کرنے کا اختیار دیا ہے اسی وجہ سے انہیں اپنے سے تعجب کیا ہے اور ان کا خدا کا پینا ہونا احترام کی وجہ سے ہے۔

پیغمبر اکرم: آپ لوگوں نے ساکر اسی قسم کی گنگلو یہودی گروہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو مقام و منازل کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ سے بھی بالاتر ہیں انہیں (تعوذ بالله) خدا کا پینا یا استاد یا بھائی ہونا چاہیے۔ عیسائی گروہ کے پاس اس اعتراف کا کوئی جواب نہ مخواہ اور نزدیک تھا کہ وہ اس حد و مباحث سے خارج ہو جاتے مگر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا کہ کیا آپ حضرت ابراہیم خلیل کو خدا کا دوست نہیں سمجھتے؟

سیجی گروہ: جی ہاں! سمجھتے ہیں۔

سیجی گروہ: پس اسی طرح ہم بھی حضرت عیسیٰ کو خدا کا پینا مانتے ہیں آپ کیوں نہیں اس عقیدے سے منع کرتے ہیں؟

پیغمبر اکرم: ان دونوں القاب کا آپس میں فرق ہے کیونکہ افت میں خلیل ”غلہ“ ذرہ کے وزن سے لیا گیا ہے جس کے معنی غریبی اور محتججی کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کیونکہ خدا کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے اور غیر خدا سے بالکل

لے جا رہا ہے۔ آدم و نوحؐ ہم سب کے باپ ہیں لہذا اس جملے کے ظاہری اور حقیقی معنوں سے کیوں اختلاف کیا جائے اور دوسرے معنی کا انتخاب کیا جائے۔ عیسائی گروہ نے جب اس تم کا مدلل جواب ساتو شرمندہ ہو کر کئے گے ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا جس نے اتنی بھرپور حمارت کے ساتھ ہم سے مقابلہ اور حدث کی ہو جیسی حدث آپ نے کی ہے۔ لہذا ہمیں مہلت دیں ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں۔

تیرا مناظرہ مادہ پرستوں کے ساتھ:

اب مادہ پرست اور منکرین خدا کے گروہ کی باری آئی۔ پیغمبر اکرمؐ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے کہ آپ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ موجودات کا کوئی آغاز نہیں ہے اور یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔

مادہ پرست: جی ہاں! یہی ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ نہ تو ہم نے موجودات کے آغاز کو دیکھا اور نہ ہی اس کے قابو اور اختتام کو مشاہدہ کیا۔ لہذا ہمارا اندمازہ یہ ہے کہ موجودات دنیا ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔

پیغمبر اکرمؐ: لیکن میں تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے موجودات کے ہمیشہ باقی ہونے اور رہنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اگر تم کو کہ ہم نے دیکھا ہے تو پھر یہ لازم آئے گا کہ ہمارا جسم اپنی تمام طاقت عمل و قدر کے ساتھ اذل سے بد تک موجود ہوتا کہ تمام موجودات کے اذل سے بد تک ہونے کو دیکھے جبکہ ایسی بات غیر محسوس اور خلاف واقع ہے اور دنیا کے چند افراد آپ کے اس دعوے کو جھٹلا دیں گے۔

تو کتنا پڑے گا کہ موسیٰ مجھی (أنوز بالله) خدا کے بیٹے یا استاد یا بھائی ہوں جبکہ تم ایسا نہیں کہتے۔ ایک عیسائی گویا ہوا کہ انجلیل نام کی کتاب جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں لہذا اس عبارت کی بنا پر حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو خدا کا پیٹا ظاہر کیا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ: اگر تم لوگ انجلیل کو مانتے ہو تو اس میں حضرت عیسیٰ کے قول کے مطابق تمام لوگوں کو بھی خدا کا پیٹا مانا جائے گا کیونکہ عیسیٰ کہتے ہیں کہ: ”میں اپنے اور تمہارے باپ کی طرف جا رہا ہوں۔“ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ میں بھی خدا کا پیٹا ہوں اور تم بھی خدا کے بیٹے ہو دوسری طرف جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیونکہ شرافت و احرام کے لحاظ سے ایک خاص احرام رکھتے تھے لہذا خداوند عالم نے انہیں اپنے سے تبییر کیا ہے تو تم لوگوں کی باتیں آپس میں تاقض رکھتی ہیں اس لئے کہ اس قول میں حضرت عیسیٰ صرف اپنے آپ کو خدا کا پیٹا نہیں کہتے بلکہ سب کو خدا کا پیٹا کہتے ہیں۔ چاہیے چلا کہ نہ صرف یہ امتیازات دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ آپ لوگ حضرت عیسیٰ کے قول کو نقل تو کرتے ہیں مگر انہی کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ لوگ باپ اور بیٹے کی نسبت کو جس کا ذکرہ حضرت عیسیٰ کے کلام میں ہے غیر معمولی معنی میں کیوں لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اس جملے سے مراد یہ ہو کہ میں حضرت آدمؐ و حضرت نوحؐ کی طرف جو سب کے باپ ہیں جا رہا ہوں جو معمول کے مطابق ہیں یعنی خدا مجھے ان کی طرف

وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے کی باری آتی ہے۔

مادہ پرست : جی ہاں۔

پیغمبر اکرم : تم لوگوں نے بغیر دیکھے دن اور رات کے حادث ہونے کا اقرار کر لیا تو پھر خدا کے مخренہ ہو۔ پھر پیغمبر اکرم نے اپنی بات کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق دن اور رات کی کوئی ابتداء ہے یا نہیں یا یہ بیشہ سے ہیں؟ اگر تم لوگ یہ کوکہ ان کی ابتداء ہے تو ہماری بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ حادث ہیں اور اگر تم لوگ یہ کوکہ ان کی ابتداء نہیں ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ جس کا انجام ہے اس کا آغاز نہیں ہونا چاہئے۔ (جب دن اور رات کا انجام محدود ہے تو عقل کہتی ہے کہ ان کے آغاز کو بھی محدود ہونا چاہئے اور دن اور رات کے انجام کی محدود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پرد کرتے ہیں لیکن ایک کے بعد دوسرا ایک نئے طریقے سے وجود میں آتا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ: یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بیشہ سے ہے اپنے اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے یا نہیں؟

مادہ پرست : جی ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔

پیغمبر اکرم : کیا آپ لوگ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام موجودات کا ایک دوسرے سے تعلق ہے اور اپنے وجود وہاں میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں جس طرح ایک عمارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ نہ بھری لوہا بلکہ دغیرہ سے مل کر تعمیر ہوتی ہے لہذا یہ سب اس بلندگ کی بھا میں ایک دوسرے کی محتاج ہیں جب اس جہان کی بھا ہر چیز اسی طرح سے ہے تو انہیں کیوں نہ قدم اور موجودات کے ابتدی ہونے کو ہم نے دیکھا ہے۔

مادہ پرست : ہم اس طرح کا ہر گز دعویٰ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے قدم اور موجودات کے ابتدی ہونے کو ہم نے دیکھا ہے۔

پیغمبر اکرم : تم لوگ یکطرفہ انداز فخر اختیار نہ کرو کیونکہ تم لوگ پہلے یہ کہہ چکے ہو کہ نہ ہم نے تمام موجودات کو دیکھا ہے اور نہ ہم نے ان کے بیشہ سے ہونے اور بیشہ باقی رہنے اور مایود ہونے کو دیکھا ہے تو پھر کیوں یکطرفہ انداز میں یہ فیصلہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ کیونکہ ہم نے موجودات کے مقابله ہونے اور حادث ہونے کو نہیں دیکھا لہذا وہ اذل سے بد نک ہیں۔ (پھر پیغمبر اکرم نے ان سے ایک سوال ایسا کر لیا جس میں ان کے عقیدے کو باطل کرتے ہوئے اس کائنات کی وجودات کے حادث ہونے کو ثابت کیا گیا تھا)۔

پیغمبر اکرم : کیا تم لوگ دن اور رات کو ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے ہوئے دیکھتے ہو؟

مادہ پرست : جی ہاں۔

پیغمبر اکرم : کیا دن اور رات کے بارے میں یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ بیشہ سے اسی طرح سے تھے اور آئندہ بھی اسی طرح سے رہیں گے؟

مادہ پرست : جی ہاں۔

پیغمبر اکرم : کیا تمہارے خیال میں اس بات کا امکان ہے کہ دن اور رات ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کی ترتیب الٹ جائے؟

مادہ پرست : نہیں۔

پیغمبر اکرم : لہذا یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں جب ایک کا

تم کے رنگ پائے جاتے ہیں سیاہ، سفید، سرخ، زرد و بزر وغیرہ اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کا الٹ ہے ورنگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح گری اور سردی کا ایک جگہ جمع ہونا محال ہے۔

دوفی پرسٹ : ہاں! ہم تصدیق کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ : اچھا تو آپ ہر رنگ کے لئے ایک علیحدہ خدا کو کیوں نہیں مانتے، کیا آپ ہی کے عقیدے کے مطابق ہر ضد و نقیض چیز کے لئے علیحدہ خالق ضروری نہیں ہے؟ پھر تمام حفظاد اشیاء کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ ان سب کے خالق موجود ہیں۔ دوفی پرسٹ پیغمبر اکرمؐ کے اس منہ توڑ جواب کو سن کر خاموش ہو گئے اور حیرت و فکر کے سمندر میں ڈوب گئے۔ پیغمبر اکرمؐ نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق کس طرح نور اور ظلمت دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں جب کہ نور ترقی و بلندی کی جانب روای ہوتا ہے اور ظلمت پستی کی طرف روای ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کے عقیدے و خیال میں یہ بات ممکن ہے کہ دو اشخاص ایک ساتھ حرکت کر سکیں اور جمع ہو سکیں جب کہ ایک مشرق کی سمت روای ہو اور دوسرے مغرب کی طرف۔

دوفی پرسٹ : نہیں! یہ ممکن نہیں ہے۔

پیغمبر اکرمؐ : تو پھر کس طرح سے نور اور ظلمت جو ایک دوسرے کی مخالفت سمت میں حرکت کرتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس دنیا کو چلا سکتے ہیں کیا اس بات کا امکان نظر آتا ہے کہ یہ دنیا دو ایسے ہنانے والوں

غیر محدود کہا جاسکتا ہے اور اگر ان اجزاء کو جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلہ ہیں اگر قدیم مان لیا جائے تو حادث ہونے کی صورت میں انہیں کیا کیا جائے گا۔ مادہ پرسٹ جواب دینے سے قاصر رہے اور حادث ہونے کے معنی کو میان نہ کر سکے اس لئے کہ وہ بتنا حادث ہونے کے معنی میان کرنا چاہتے اسی قدر موجودات کے قدیم ہونے کی بات کی مخالفت ہوتی اور مجبوراً قدیمی موجودات حادث من جاتیں لہذا وہ بہت پریشان ہوئے اور کہا کہ ہمیں حملت دی جائے تاکہ اس سلسلے میں غور و فکر کر سکیں۔

چوتحما مناظرہ دوفی پرسٹوں کے ساتھ :

اب دوفی پرسٹوں اور مانویوں کی باری آئی جو اس بات پر اعتقاد رکھتے تھے کہ اس دنیا کے دو خدا اور دو مدد ہیں ایک نور اور دوسرا ظلمت۔

پیغمبر اکرمؐ : آپ لوگ کس ما پر اس عقیدے کے قائل ہوئے؟

دوفی پرسٹ : کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات دو چیزوں پر مشتمل ہے اچھائی اور بدائی، دوسری طرف یہ بات مسلم ہے کہ یہ دونوں چیزوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس ما پر ہم معتقد ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی الگ الگ ہے کیونکہ ایک خالق دو عمل جو ایک دوسرے کے ضد ہوں انجام نہیں دے سکتا۔

شاہ محل ہے کہ آگ سردی کو ایجاد کرے لہذا اس بنا پر ہم ثابت کرتے ہیں کہ اس جہان کے دو قدیم خالق ہیں ایک نیکیوں کو پیدا کرنے والا دوسرا ظلمت کو پیدا کرنے والا۔

پیغمبر اکرمؐ : کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ اس دنیا میں کتنی

انجام اور آپ کی ذمہ داریوں اور وظائف سے آگاہ ہے تو اسے چاہئے تھا کہ وہ ان ہوں کی پرستش کا حکم دیتا جبکہ خدا کی جانب سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا جب پیغمبر اسلامؐ کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تو خود مرتضیٰ پرستوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ خدا نے ان ہوں کی شکل و صورت سے ملتے جلتے چند مردوں کے اندر حلول کیا ہے لہذا ان ہوں کی طرف توجہ اور ان کی پوجا سے ہمارا مقصد ان مخصوص افراد کا احترام ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہم نے ان ہوں کو اپنے بزرگوں میں سے چند پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کی شبیہ کے طور پر بنایا ہے لہذا ہم خدا کے احترام کے پیش نظر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تیرا گروہ کہنے لگا: خدا نے حضرت آدمؐ کو خلق کر کے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدمؐ کو سجدہ کریں چونکہ کہ ہم لوگ زیادہ لاائق تھے کہ آدمؐ کو سجدہ کریں تعلق ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے چنانچہ سجدہ کرنے سے محروم رہے لہذا اب ہم نے حضرت آدمؐ کی شکل و صورت کا مجسمہ بنایا ہے اور خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لئے انہیں سجدہ کرتے ہیں تاکہ ماضی کی محرومیت کی حلائی کر سکیں جیسا کہ اسی طرح فرشتوں نے آدمؐ کے سامنے سجدہ کر کے خدا کا تقرب حاصل کیا۔ جس طرح آپ لوگ اپنے باتحہ سے محراں ہاتے ہیں اور اس میں کعبے کے رخ پر سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ کے سامنے خدا کی تعظیم اور احترام کے لئے سجدہ اور عبادت کرتے ہیں ہم بھی ان ہوں کے سامنے درحقیقت خدا کا احترام کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے تینوں گروہوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ سب غلطی اور گمراہی پر ہیں اور حقیقت سے دور ہیں اور پھر باری باری تینوں گروہوں کی جانب متوجہ ہوئے اور اس طرح ترتیب وار

کی وجہ سے حرکت میں آئی جو ایک دوسرے کے ضد ہوں ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں تور اور ظلت مخلوق ہیں اور خداوند قادر و قدمیم کے حکم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دوئی پرست پیغمبر اکرمؐ کے سامنے عاجز ہو گئے لہذا اپنے سروں کو جھکا کر کتنے لگے ہمیں ملت دیجئے تاکہ ہم اس مکانے میں غوروں کفر کر سکیں۔

باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے

پانچواں مناظرہ بت پرستوں کے ساتھ :

اب پانچویں گروہ یعنی بت پرستوں کی باری آئی پیغمبر ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا آپ لوگ خدا سے منہ پھیر کر کیوں ہوں کی پوجا کرتے ہو؟ بت پرست: ہم ان ہوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قربت (نزدیکی) کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ: کیا یہ بت سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کیا یہ بت خدا کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ ان کے احترام کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں؟

بت پرست: نہیں یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی خدا کی عبادت کرنے والے اور اس کے اطاعت گزار ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ: کیا آپ لوگوں نے انہیں اپنے ہی ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ بت پرست: کیوں نہیں ہم نے انہیں اپنے ہاتھوں ہی سے بنایا ہے۔

پیغمبر اکرمؐ: تو پھر ان کے مانے والے آپ لوگ خود ہی ہیں لہذا حق تو یہ تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے۔ جب خداوند عالم آپ کے امور کے فائدہ اور

جواب ارشاد فرمایا:

پہلے گروہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آپ لوگ جو کتے ہو کہ خدا ان ہوں کی شکل رکھنے والے مردوں میں حلول کر گیا ہے لہذا ہم نے ان ہوں کو ان مردوں کی شبیہ بنایا ہے اور ان کو پوچھتے ہیں تو آپ نے اس بیان کے ذریعے خدا کو خلوقات کی طرح محدود اور حادث سمجھ لیا ہے کیا خدا کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے اور وہ چیز جو محدود ہے خدا کو اپنے اندر سمونے پر قادر ہے؟ پس اس طرح خدا اور دوسری اشیاء کے درمیان کیا فرق رہا جو جسموں میں حلول کرتی ہیں سما جاتی ہیں جیسے رنگ، خدا، بو، نری، گندگی، بھاری پن، ہلاک پن وغیرہ اس، ہنا پر آپ لوگ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم جس میں خدا حلول ہوا ہے وہ حادث اور محدود ہو لیکن خدا جو اس میں سما ہے وہ قدیم اور لا محدود ہو حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہونا چاہئے تھا یعنی سما نے والے کو حادث اور سما نے کی جگہ کو قدیمی ہونا چاہئے تھا دوسری طرف کس طرح ممکن ہے کہ خداوند عالم جو تمام موجودات میں سے پہلے ہمیشہ ہی سے خود مختار اور غنی تھا حلول پانے کی جگہ سے پہلے موجود تھا وہ جگہ کا محتاج من جائے اور خود کو کسی جگہ قرار دے دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کے عقیدے میں خدا کے موجودات میں حلول کرنے کے ذریعے آپ نے خدا کو موجودات کی صفات کی طرح حادث اور محدود فرض کر لیا ہے جس کی ہنا پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ خدا کو ایک زوال پذیر اور تبدیل ہونے والی چیز فرض کیا جائے اس لئے کہ ہر وہ چیز جو حادث اور محدود ہوگی وہ زوال پذیر اور تبدیل ہونے والی بھی ہوگی اور اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ یہ حلول کرنا تبدیلی اور زوال کا باعث نہیں

بنتا تو پھر حرکت و سکون اور سیاہ و سفید و سرخ چیزے رنگوں کو بھی تبدیلی اور زوال کا باعث نہ سمجھو پہنچا خدا کو موجودات کی طرح محدود حادث مانند دوسری خلوقات کے سمجھنا لازم آئے گا اور اگر اس عقیدے کو کہ خدا مختلف شکلوں میں حلول کر سکتا ہے بے اساس مان لیا جائے تو مت پرستی بھی خود خود باطل اور بے جیاد عقیدہ کملائے گا کیونکہ یہ بھی اسی ہنا پر صحیح مانا جاتا تھا۔ پہلے گروہ کے افراد پیغمبر اسلام کے دلائل اور بیانات کے آگے سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس سلسلے میں حملت دی جائے تاکہ کچھ سوچ سکیں۔

پیغمبر اکرمؐ دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ پر ہیزگار بندوں کی صورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور جدے کرنے میں اپنے مقدس چہروں کو ان صورتوں کے آگے سجدہ کر لئے خاک پر رکھتے ہیں اور جتنا خصوص ہو سکے اس کام کے لئے انعام دیتے ہیں تو پھر خدا کیلئے کونا خصوص باقی رکھتے ہیں؟ واضح الفاظ میں کہا جائے کہ سب سے بڑی خصوص کی علامت سجدہ ہے آپ جوان شکلوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کونا خصوص ہے جسے خدا کے سامنے انعام دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی سجدہ کرتے ہو تو اس صورتحال میں آپ نے بندوں کی صورتوں اور خدا کے آگے خصوص کو مساوی سمجھا ہے کیا واقعی خدا کی تعظیم اور ہوں کا احترام مساوی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ بالقدار حاکم کے ساتھ اس کے نوکر کا بھی اسی قدر احترام کریں تو ایک بورگ شخص کو چھوٹے شخص کے برادر درج دینے سے اس بورگ کی توجیہ نہیں ہوگی؟

دیا ہے کہ کبھی سے دور کے علاقوں میں عبادت کے وقت کبھی کی طرف رخ کریں تو ہم نے بھی اس کی قبولی کی ہے اور حضرت آدمؑ کے بارے میں جو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت آدمؑ کو سجدہ کریں ن کہ ان کی تصویر اور مجسم کو جو حضرت آدمؑ کے علاوہ ہے لہذا اجازت نہیں ہے کہ حضرت آدمؑ کی تصویر یا مجسم کا ان کے وجود سے مقابلہ کریں ہو سکتا ہے تمیں معلوم نہ ہو اور خدا تمہارے اس کام سے ہرااض ہو کیونکہ اس نے تمیں اس کام کا حکم نہیں دیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو کسی محبین دن اور محبین گھر میں داخلے کی اجازت دے تو کیا یہ صحیح ہو گا کہ کسی اور دن اسی کے گھر جائیں یا اسی دن اس کے کسی اور گھر میں جائیں؟ یا اگر کوئی شخص اپنے کپڑوں میں سے محبین کپڑے گھوڑوں میں سے محبین گھوڑے آپ کو ہدیہ کر دے تو کیا صحیح ہو گا کہ آپ اس کے کسی دوسرے لباس یا جانور کو جوانی میں سے ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے انہیں استعمال کریں؟

بت پرستوں کا تیراگروہ: ہرگز ہمارے لئے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے کچھ خاص محبین چیزوں کی اجازت دی ہے نہ کہ مساوی چیزوں کی۔

پیغمبر اکرمؐ: پھر کیوں آپ لوگ اپنی جانب سے خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر ہوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ بت پرستوں کا تیراگروہ بھی پیغمبر اکرمؐ کے مدلل اور منطقی بیانات کے آگے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا ہمیں عملت دی جائے تاکہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔

اس مناظرے کو ابھی تین دن نہیں گزرے تھے کہ ان پانچوں گروہوں

بت پرستوں کا دوسرا اگروہ: ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہو گا۔

پیغمبر اکرمؐ: لہذا آپ درحقیقت ان ہوں کی پرستش کے ذریعے جو پرہیز گارہ بندوں کی صورتیں ہیں، خدا کے عظیم مرتبے کی توجیہ کرتے ہیں۔ بت پرستوں کا دوسرا اگروہ پیغمبر اسلامؐ کی ان منطقی دلیلوں کے سامنے ساکت ہو گیا اور وہ سب کرنے لگے ہمیں عملت دیں تاکہ ہم فکر کریں۔ اب تیرے گروہ کی باری آئی۔ پیغمبر اکرمؐ نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا: آپ لوگوں نے مثال کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بتایا ہے اس جیاد پر کہ ہوں کے سامنے سجدہ کرنا گویا حضرت آدمؑ کے سامنے یا کبھی کے سامنے سجدہ کرنے کے برخلاف ہے لیکن یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ آپس میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے اور اس کی اسی طرح پرستش اور اطاعت کرنا ہمارا فریضہ ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بغیر حدود سے لٹکے ہوئے اسی طرح انجام دیتے ہیں اور ہم بغیر اس کی اجازت اور حکم کے قیاس اور تشبیہ کے ذریعے اس کے حکم کی حدود سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے اور نہ اپنے لئے کسی فریضہ کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمیں تمام پہلوؤں سے آگاہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کام کو کروانا چاہتا ہو اور کسی کام کو نہ کروانا چاہتا ہو اسی لئے اس نے اپنے حکم سے آگے بڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت کے وقت کبھی کی طرف رخ کریں لہذا ہم اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے فرمان کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے اسی طرح اس نے حکم

ان سے محض کرنے کے لئے حاضر ہوں اگر تم لوگ بھر سمجھو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو جمل نے اس کی بات کو قبول کیا پھر سب اٹھے اور مل کر پیغمبر اکرم کے پاس آئے اور عبداللہ مخزوی نے بولنا شروع کیا، اعتراض پر اعتراض کرنے لگا۔ ہر مرتبہ پیغمبر اکرم فرماتے کہ کچھ اور بھی کہنا ہے وہ کتنا ہاں اور پھر اپنی باتوں کو جاری رکھتا یہاں تک کہ کہنے لگا کہ میں اتنا ہی کہنا تھا، اگر آپ کے پاس ان اعتراضات کے جواب ہیں تو ہم سننے کو تیار ہیں۔ اس کے اعتراضات اور موضوعات کچھ اس ترتیب سے تھے:

پہلا اعتراض کہ آپ عام لوگوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں جبکہ پیغمبر کو چاہئے کہ وہ دوسروں کی طرح کھانا وغیرہ نہ کھائے۔
دوسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ملکیت اور دولت کیوں نہیں ہے جبکہ خدا کے باقتدار نہ کندے کے پاس دولت اور مرتبہ ہوتا چاہئے۔

تیسرا اعتراض کہ آپ کے پاس ایک فرشتہ ہونا چاہئے جو آپ کی تصدیق کرے اور ہم بھی اس فرشتے کو دیکھیں بعد بھر یہ ہو گا کہ پیغمبر بھی فرشتوں کی نسل سے ہو۔
چوتھا اعتراض کہ آپ جادو کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ مسحور معلوم ہوتے ہیں۔

پانچواں اعتراض کہ کیوں قرآن ”ولید عن مغیرہ کی“ یا ”عروہ طالکی“ جیسی معروف شخصیات پر نازل نہیں ہوا۔
چھٹا اعتراض ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک

کے ۲۵ افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور جو اُن کے ساتھ کئے گئے: ”ماراینا مثل حججت یا محمد شہدانک رسول اللہ“ اے محمد ہم نے آپ جیسا استدلال کرنے والا نہیں دیکھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نجیب ہوئے رسول ہیں۔ (احجاج طبری جلد اول صفحہ ۱۶)

(۲)

پیغمبر اکرم اور سردار ان قریش کے درمیان ایک محب و غریب واقعہ مناظرہ کی صورت میں چیل آیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن پیغمبر اکرم مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ کجھے کے نزدیک تشریف فرماتے اور احکام اسلام و آیات قرآنی کی تبلیغ میں مصروف تھے۔ اسی دوران بزرگان قریش کے کچھ افراد بھروسہ کے سب مشرک اور بت پرست تھے جیسے ولید بن سفیرہ، ابو الحتری، ابو جمل، عاص بن واکل، عبداللہ بن خذیفہ، عبداللہ مخزوی، ابوسفیان، عتبہ و شیبہ وغیرہ مل کر جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ محمد کی تبلیغ کا کام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور وسیع ہوتا جا رہا ہے لہذا ضروری ہے کہ ان کے پاس جا کر ان کی نعمت و سرزنش کریں اور ان سے محض اور مقابلہ کریں اور ان کی باتوں کو روکریں اور اس طرح جب ان کی بے جیاد باتوں کو ان کے دوستوں اور احباب کے سامنے پیش کریں گے تو وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آجائیں گے اور اس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ تکوار کے ذریعے ان کا کام تمام کرویں گے۔ ابو جمل کہنے لگا تم لوگوں میں کون ہماری نمائندگی کرے گا اور محمد سے محض و مناظرہ کرے گا؟ عبداللہ مخزوی کہنے لگا میں

کسی کو بھار کرتا ہے۔ (ابتدہ اس کا تعلق خود انسان کی لیاقت سے ہے) لہذا اس صورت حال کے پیش نظر کوئی طبقہ بھی خدا پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا اور جو بھی خدا کے سامنے اعتراض و شکایت کے لئے زبان دراز کرے وہ ممکن اور کافر ہے کیونکہ ساری دنیا کا اختیار خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ تمام امور کی مصلحتوں کو بھر جانتا ہے جو لوگوں کے لئے بہتر ہو انہیں دیتا ہے لوگوں کو چاہئے کہ اس کے حکم کے تابع رہیں اور جو بھی خدا کے حکم کی اطاعت کرے وہ مؤمن ہے ورنہ گناہگار کملائے گا اور شدید قسم کے عذاب کا حقدار غیرے گا۔ پھر آپ نے سورۃ کف کی آیت ۱۰۹ کی تلاوت فرمائی:

قل انما انا بشرٌ مثلكم يوحى الى انما الهمك الله واحدہ.

”کہہ دوائے پیغمبر کہ میں تم جیسا بڑھوں (تماری طرح کھاتا پڑتا ہوں) لیکن خدا نے مجھے وحی سے مخصوص کیا ہے کہ یہیک تمہارا خدا ایک ہی ہے۔“ جس طرح انسانوں میں سے ہر ایک کو ایک خاص خصوصیت کا حامل ہیا ہے اور جس طرح تم لوگوں کو امیر، غریب، صحمدہ، خوبصورت، بد صورت، شریف وغیرہ کے بارے میں اعتراض کا حق نہیں ہے اور اس سلسلے میں خدا کا فرمانبردار رہنا چاہئے اسی طرح نبوت و رسالت کے بارے میں بھی خدا کے حکم کے فرمانبردار رہو اور اعتراض نہ کرو۔

دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو کہ میرے یاں مال و دولت کیوں نہیں ہے جبکہ خدا کے نمائندے کے پاس باوشاہوں کے نمائندوں کی طرح مال و دولت اور مرتبے کا مالک ہونا چاہئے بھ

آپ اس پھر ملی اور سخت زمین پر پانی کا چشمہ جاری نہ کر دیں اور سمجھوں اور انگور کے باغ نہ بناویں تاکہ ہم جسٹے کے پانی کو بخیں اور اس باغ کے ہاتھوں کو کھائیں۔ ساتواں اعتراض کر کیا آپ آسمان کو گرے بادلوں (کالی گھناؤں) کی صورت میں ہمارے سرروں پر سایہ لگان کر سکتے ہیں؟ آٹھواں اعتراض کر کیا خدا اور فرشتوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ ہم انہیں دیکھ سکیں۔ نواں اعتراض کر آپ کے پاس سونے سے لدا ہوا ایک گھر کیوں نہیں ہے؟

وسواں اعتراض کر آپ آسمان پر جا کر ہمارے لئے ایک ایسا خط کیوں نہیں لاتے کہ ہم اسے پڑھ سکیں۔ (یعنی جس میں خدا مشرکوں کو لکھے کہ محمد میرا پیغمبر ہے اور تم لوگ اس کی پیروی کرو) البتہ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے بعد بھی ہم یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ تم پیغمبر خدا ہو کیونکہ ممکن ہے ان کاموں کو تم جادو اور نظروں کے دھوکے کی بنا پر انجام دے دو۔ پیغمبر اکرمؐ کے جوابات:

پیغمبر اکرمؐ نے عبداللہ مخدومی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ: پہلے اعتراض کا جواب تو یہ ہے کہ کھانے پیتے کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ مصلحت اور اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے حکومت کرتا ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، وہ کسی کو فقیر اور کسی کو امیر اور کسی کو عزیز و محترم اور کسی کو ذلیل و خوار اور کسی کو صحیح و سالم اور

اور نہ ہی مجھے قتل کر سکو گے۔ عنقریب میں تم لوگوں پر سلطنت ہو کر تمہارے شہروں پر قبضہ کرلوں گا سارے مخالفین اور دشمنوں کے آگے سرخم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

تیرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ میرے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہئے جس کو تم لوگ دیکھ سکو اور جو میری تهدیں کرتا ہو بلکہ خود پیغمبر کو فرشتوں کی نسل سے ہونا چاہئے تو یاد رکھو کہ فرشتے ہوا کی ماہنہ زم جنم رکھنے والے ہیں جنہیں دیکھا نہیں جاسکتا اور الغرض اگر تمہاری آنکھوں کو اتنی قدرت دی جائے کہ تم فرشتے کو دیکھ سکو تو تم اسے انسان کو گے نہ کہ فرشتہ (یعنی وہ انسان کی صورت میں ہو گا) اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے رابطہ قائم کرے اور گفتگو کرے تاکہ تم اس کی باتوں اور مقاصد کو سمجھ سکو۔ اس کے علاوہ کس طرح معلوم ہو سکے گا کہ وہ فرشتہ ہے نہ کہ انسان اور جو کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور خدا اپنے پیغمبروں کو ایسے مجرمات کے ساتھ بھجا ہے جس سے دوسراے عاجز ہوں اور یہی پیغمبر کی صداقت کی نشاندہی ہے لیکن اگر فرشتہ مجرمات دکھائے تو تم کس طرح تشخیص دے سکتے ہو کہ اس فرشتے نے جو مجرمہ دکھایا ہے دوسرا فرشتے اس کے انجام دی سے قاصر ہیں لہذا فرشتے کا مجرمہ پرندوں کی پرواز کی نامندہ ہے جس سے انسان عاجز ہیں جبکہ خود فرشتوں کا مجرمہ پرندوں کی پرواز کی نامندہ ہے جس سے انسان عاجز ہیں کیا جاتا لیکن انسانوں کے درمیان یہ مجرمہ شمار نہیں کیا جاتا لیکن انسانوں کے درمیان اگر کوئی پرواز کرے تو وہ بھی مجرمہ کھلانے گا اور یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنا کہ خداوند عالم کا

خدا کو بادشاہوں سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہئے تو تمہیں یہ معلوم ہوئی چاہئے کہ خدا پر یہ اعتراض غلط اور بے جیادہ ہے کیونکہ خدا زیادہ آگاہ اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ اپنے کاموں اور تدبیروں میں مصلحت کو سمجھتا ہے اور دوسروں کی مرضی کو مٹوڑ رکھے بغیر عمل کرتا ہے۔ پیغمبروں کا کام لوگوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ دن رات لوگوں کی بہایت کا کام انجام دیں۔ اگر پیغمبر دنیاوی بادشاہوں کی طرح مال و دولت کا ماںک ہوتا تو غریب اور عام افراد اتنی آسانی کے ساتھ پیغمبر سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ دوستمند شخص مخلوقوں میں آرام کر رہا ہوتا ہے اور مخلوقوں کی عالیشان عمارتیں اور پردے اس کے اور غریبوں اور مزدوروں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے اور لوگ اس سکھ نہیں پہنچ پاتے۔ چنانچہ ایسی صورت میں بحث کا مقصود انجام نہیں پاتا اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ رک جاتا۔ نبوت کا آفاقی مقام مصنوعی نمود و نمائش کی وجہ سے آکوڈہ ہو جاتا۔ رہبر یا حاکم کا لوگوں سے دور ہونا ملک کے امور اور نظام میں خلل کا باعث ہوتا ہے جو نا سمجھ اور لاچار لوگوں کے درمیان فساد اور گشیڑ کا سبب ہون جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ خدا نے جو مجھے دولت نہیں دی تو وہ اس لئے کہ تمہیں اپنی قدرت کو دھلائے کہ وہ ایسی صورت حال میں بھی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور اس کو تمام دشمنوں و مخالفوں کے مقابلے میں کامیاب کرتا ہے اور یہ بات پیغمبر کی صداقت کے لئے کافی ہے۔ قدرت خدا تمہاری کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بغیر مال و دولت و فوج و سلطنت کے تم پر غالب کرے اور عنقریب خدا مجھے تم پر غالب کرے گا تم لوگ میرے اثر کو ہرگز نہ روک سکو گے

بُغیبر کو انسانوں کے درمیان بنتا تمہارے ہی امور کی آسانی کیلئے ہے تاکہ تم بغیر زحمت کے اس سے رابطہ حاصل کر سکو اور وہ خدا کی جنت و دنیل کو تم تک پہنچائے حالانکہ تم لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے خود اپنے کاموں کو مشکل کر رہے ہو۔

چوتھے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ گویا مجھ پر جادو کیا گیا ہے یہ الزام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے حالانکہ میں عقل و تشخیص کے لحاظ سے تم سب پر برتری رکھتا ہوں میں نے ابتداء سے آج تک ۲۰ سال زندگی گزاری ہے اس مدت میں کوئی چھوٹی سی بھی خطاو غلطی جھوٹ یا خیانت تم نے نہیں دیکھی ہو گی آیا جس نے تمہارے درمیان ۲۰ سال اپنی قوت و صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہو یا جسے خدا کی مدد سے امانت و صداقت میں برتری حاصل ہوا پر اس قسم کی الزام تراشی زیب دیتی ہے؟ اسی لئے پروردگار تمہارے جواب میں کہتا ہے:

انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلاستطیعون سبیلا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۸)

”اے رسول! اگاہ رہنا یہ ”کمگہ“ تمہاری طرف کیسی کیسی نسبتیں دیتے ہیں، انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنالا ہوا ہے اور یہ ہدایت نہیں پاسکتے۔“

پانچویں اعتراض کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ کبیل قرآن ولید بن مخیرہ کیلی یا عروہ بن مسعود طائفی جیسوں پر نازل تھیں ہوا تو جیسیں معلوم ہوتا چاہئے کہ خدا کے نزدیک مقام و منصب اور شریت ذرہ بذری بھی حیثیت کے حوال نہیں ہیں اگر دنیاوی نعمتیں اور عیش کمکی کے پر کے بدل بھی خدا

چھٹے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ ”بہم ہرگز ایمان نہیں لا سیں گے مگر یہ کہ اس پتھریلی اور سخت سر زمین میں پانی کا چشمہ جاری کروں“ تو تمہاری یہ خواہش نادو اور جہالت کی بنا پر ہے اس لئے

بُغیبر“ کو انسانوں کے درمیان بنتا تمہارے ہی امور کی آسانی کیلئے ہے تاکہ تم بغیر زحمت کے اس سے رابطہ حاصل کر سکو اور وہ خدا کی جنت و دنیل کو تم تک پہنچائے حالانکہ تم لوگ اپنے اعتراضات کے ذریعے خود اپنے کاموں کو مشکل کر رہے ہو۔

چوتھے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا کہ گویا مجھ پر جادو کیا گیا ہے یہ الزام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے حالانکہ میں عقل و تشخیص کے لحاظ سے تم سب پر برتری رکھتا ہوں میں نے ابتداء سے آج تک ۲۰ سال زندگی گزاری ہے اس مدت میں کوئی چھوٹی سی بھی خطاو غلطی جھوٹ یا خیانت تم نے نہیں دیکھی ہو گی آیا جس نے تمہارے درمیان ۲۰ سال اپنی قوت و صلاحیت کے ساتھ زندگی گزاری ہو یا جسے خدا کی مدد سے امانت و صداقت میں برتری حاصل ہوا پر اس قسم کی الزام تراشی زیب دیتی ہے؟ اسی لئے پروردگار تمہارے جواب میں کہتا ہے:

انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلاستطیعون سبیلا (سورہ بنی اسرائیل آیت ۲۸)

”اے رسول! اگاہ رہنا یہ ”کمگہ“ تمہاری طرف کیسی کیسی نسبتیں دیتے ہیں، انہوں نے گمراہی کا راستہ اپنالا ہوا ہے اور یہ ہدایت نہیں پاسکتے۔“

پانچویں اعتراض کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ کبیل قرآن ولید بن مخیرہ کیلی یا عروہ بن مسعود طائفی جیسوں پر نازل تھیں ہوا تو جیسیں معلوم ہوتا چاہئے کہ خدا کے نزدیک مقام و منصب اور شریت ذرہ بذری بھی حیثیت کے حوال نہیں ہیں اگر دنیاوی نعمتیں اور عیش کمکی کے پر کے بدل بھی خدا

ہو گا کیا تم نے آج تک کسی ایسے ڈاکٹر کو دیکھا ہے جو علاج کے دوران مریض کی مرضی کے مطابق نسبت لکھتا ہو یا جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرے کیا وہ اپنے دعویٰ کی دلیل کے لئے اپنے مخالف کی باتوں پر عمل کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر تمہاری کی چیزوں کی طرح اگر دعویٰ کرنے والا اپنے مخالف کی دلیلوں پر عمل کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس صورت میں حق بات کو ثابت نہیں کر سکے گا اور پھر مظلوم اور چھے لوگ ظالم اور جھوٹے شخص کے سامنے اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے سے عاجز ہو جائیں گے۔

آنکھوں اعتراف کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ خدا اور فرشتوں کو تمہاری نظروں کے سامنے حاضر کروں تاکہ تم اپنیں دیکھ سکو۔ یہ تمہاری بات اختیاری ہے چیاد اور حال ہے کیونکہ خدا دیکھے جانے کی صفت اور مخلوقات کی صفات سے عاری ہے تم خدا کو انہوں سے تشہیر دیتے ہو جن کی پوجا کرتے ہو اور پھر اسی قسم کا تقاضا مجھ سے کرتے ہو۔ ہال یہ بت جو حد درج کی اور خامی کے حال ہیں اس قسم کے تقاضوں کے لئے مناسب ہیں لیکن خدا کی ذات ایسی نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرمؐ ایک مثال پیش کرتے ہیں جو مفہوم کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ اگر خدا کو دکھانا محال نہ بھی ہو تب بھی عقل کے قوانین کے خلاف ہے وہ یہ کہ پیغمبر اکرمؐ عبد اللہ مخدوہ سے فرماتے ہیں: کیا تمہارے پاس طائفہ اور کمکہ میں زمین اور ملکیت ہے؟ اور کیا ان کو سنبھالنے کے لئے تمہارے نمائندے ہیں؟

عبد اللہ مخدوہ بولا: بھی ہاں! میرے پاس باغ اور ملکیت اور نمائندے ہیں۔

کہ چشمے کے جاری کرنے اور سرزین مکہ میں باغ بنانے کا پیغامبری سے کوئی رابطہ نہیں جیسا کہ سرزین طائفہ میں تمہارے پاس زمین، پانی اور باغات ہیں مگر تم پیغامبری کا دعویٰ نہیں کرتے اور اسی طرح ایسے افراد کو بھی جانتے ہو کہ جنہوں نے محنت و کوشش سے چشمہ و زراعت بنایا لیکن پیغامبری کا دعویٰ نہیں کیا۔ لہذا یہ معمولی کام ہیں اگر میں بھی اپنیں انجام دوں تو یہ میری رسالت کی دلیل نہیں ہے۔ تمہاری یہ خواہشات ایسی ہیں کہ گویا تم کو کہ ”ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے“ مگر یہ کہ آپ لوگوں کے درمیان چلیں پھریں اور کھائیں توکیں“ اگر میں اپنی پیغامبری کے اثبات کے لئے ایسی چیزوں کو ذریعہ بناوں تو میں نے گویا اپنیں دھوکا دیا اور ان کی جہالت اور نادانی سے فائدہ اٹھایا اور ثبوت کے مقام کو بے کار اور بے جیاد باتوں پر قرار دیا حالانکہ ثبوت کا مقام دعوکہ و فریب سے پاک ہے۔

ساتوں اعتراف کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے کہا کہ ”آسمان کو ہمارے اوپر کالی گھنٹاؤں کی صورت میں لا کر رکھ دو تو یاد رکھو کہ آسمان کا نیچے آنا تمہارے ہلاک ہونے کا باعث ہے حالانکہ بعثت و پیغمبری کا مقصد سعادت و خوش بختی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ خدا کی عظمت پر بنی آیات اور شانیں لوگوں کو دکھانا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ جنت و دلیل کا طے کرنا خدا کے اختیار میں ہے کوئی ان امور میں یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ اپنی ہا قص سوچ کی بنا پر ایسے تقاضے کرے جن کا عملی ہوتا، معاشرے اور لفظ کے خلاف ہو کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے تحت تقاضا کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان تقاضوں کی محیل لفظ میں خلل اور ایک دوسرے کی ضد چیزوں کے انجام دینے کا باعث

پیغمبر اکرم : تم اپنے باغ اور ملکیت کا حساب و کتاب کرتے ہو یا
نمائنده کے ذریعے یہ کام انجام پاتا ہے؟

عبداللہ مخزوی : نمائندے کے ذریعے۔

پیغمبر اکرم : اگر اس نمائندے نے کسی زمین کو کرانے پر دیا یا بچ دیا تو
کیا دوسروں کو یہ حق ہے کہ اس پر اعتراض کریں اور کہیں کہ ہم خود مالک سے
رابطہ کریں گے اور اس وقت تمہاری نمائندگی کو قبول کریں گے جب خود مالک
آئے اور تمہاری باقتوں کی تصدیق کرے۔

عبداللہ مخزوی : جی نہیں! دوسرے ہرگز ایسے اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔

پیغمبر اکرم : ہاں! البتہ یہ اس صورت میں ہے جب تمہارے نمائندے
کے پاس کوئی ایسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرے اب مجھے ذرا یہ بتاؤ ان
کے پاس کیسی نشانی ہو جو تمہاری نمائندگی کو ظاہر کرتی ہو جبکہ لوگ بغیر نشانی کے
اس کی نمائندگی کو قبول کرنے پر تباہ ہوں۔

عبداللہ مخزوی : نمائندے کیلئے ضروری ہے کہ اسکے پاس کوئی نشانی ہو۔

پیغمبر اکرم : اگر لوگ اس کی اس نشانی کو قبول نہ کریں تو کیا اس
نمائنده کے لئے ضروری ہے کہ وہ مالک کو ان کے سامنے حاضر کرے اور مالک
کو حکم دے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو؟ ایک عقلمند نمائندہ اس طرح کی
ذمہ داری اپنے مالک کو دے سکتا ہے؟

عبداللہ مخزوی : جی نہیں! اسے چاہئے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق
کام کرے اپنے مالک کو حکم دینے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔

پیغمبر اکرم : اب میں کہتا ہوں کہ تم کس طرح خدا کے نمائندے
رسول کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو کہ وہ اپنے مالک کو حاضر کرے
میں اس کا فقط نمائندہ ہوں کس طرح ممکن ہے کہ اپنے مالک خدا کو حکم صادر
کروں اور اس پر ذمہ داری لگاؤں جو کہ مقام رسالت کے خلاف ہے اسی بیان پر
تمہارے سارے اعتراضات کا جواب بالخصوص فرشنتوں کے حاضر کرنے کے بارے
میں واضح ہو جاتا ہے۔

نویں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے کہا
کہ ”میرے پاس سونے سے لدا ہوا گھر ہونا چاہئے“ یہ بات بھی بے بیان ہے اس
لئے کہ سونا اور دولت رسالت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ کیا اگر بادشاہ مصر کے
پاس سونے کے نئے ہوئے گھر ہوں گے تو وہ اسی بنا پر ثبوت کا دعویٰ کر سکے گا؟
عبداللہ مخزوی : نہیں وہ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

پیغمبر اکرم : لہذا میرے پاس بھی سونے اور چاندی کا ہوتا ذرہ بھل بھی
میری رسالت کی صداقت پر دلالت نہیں کرتا، لہذا میں اس رہا سے بھی لوگوں کی
ہدایی و جہالت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی خدا کی جنت کے مقابلہ میں اس
تم کے بے بیاد و لاگل سے اپنی رسالت کو ٹھہر کرنے کیلئے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔

دوسریں اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا: اور یہ جو تم کہتے ہو
کہ ”میں آسمان پر جاؤں اور خدا کی طرف سے تمہارے لئے خط لاوں“ تمہاری ان
باقتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم حق کو قبول کرنے کے لئے کسی طرح سے تباہ نہیں
ہو اس لئے کہ تمہارے کہنے کے مطابق صرف آسمان پر جانا کافی نہیں ہے بلکہ

پیغمبر اکرم: کیا تم نے حضرت ابراہیمؑ کی واسitan نہیں سنی جب انہوں نے خدا کے نزدیک اتنا تقریب حاصل کر لیا کہ خدا نے ان کی آنکھوں کے سور کو اس حد تک قوی کر دیا کہ وہ لوگوں کے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو بھی دیکھ سکتے تھے اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد و عورت زنا کرنے میں مصروف ہیں لہذا ان کے لئے بد دعا کی اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ پھر دوسرے مرد و عورت کو دیکھا کہ وہ بھی یہی کام کر رہے تھے۔ لہذا ان کے لئے بھی نفرین کی اور وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے جب تیسرا دفعہ بھی اسی طرح کا مظہر دیکھا اور نفرین کی اور وہ ہلاک ہو گئے تو خداوند عالم نے انہیں وحی کی کہ بد دعا نہ کرو کیونکہ کائنات کے چلانے کا اختیار تمہارے نہیں میرے ہاتھ میں ہے گناہگار بندے تین حالتوں سے خارج نہیں ہیں: تمہرے ایک یا وہ تائین میں سے ہیں جنہیں میں ٹھیں دونوں گایاں کی آئندہ نسل میں کوئی بندہ مؤمن آنے والا ہے جس کی خاطر ان کو عملت دی جائے گی اور اس کے بعد ان تک عذاب آپنے گا اور ان وہ صورتوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے عذاب تمہارے تصور سے زیادہ ہے جسے میں نے ان کے لئے تیار کیا ہے۔ اے ابو جمل اسی وجہ سے خدا نے تجھے عملت دی ہوئی ہے کہ تمہری نسل میں ایک فرزند مؤمن مکرمہ نام پیدا ہو گا۔ (احتجاج طبری جلد اول صفحہ ۲۹) ل۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اگرچہ پیغمبرؐ کے سامنے حث کرنے والے اے عکرمن ابو جمل جو پلے پیغمبر اکرمؐ کا سخت دشمن تھا لیکن تھج کے بعد ایسا پلان کھلایا کہ مدینے میں پیغمبر اکرمؐ کے پاس آ کر اسلام لے آیا اور آپؐ کے نزدیک اتنا مقام و منزلت حاصل کر لیا کہ آنحضرتؐ نے قبلہ ہوازن سے زکوٰۃ معچ کرنے کا عالی اے بنار بھیجا تھا اور سراجِ حرام خلافت ابو جمل کے نمائے میں بچگ اجنادین یا جنگ پر موک میں درج شہادت پر فائز ہوا۔ (سفیہ التجار جلد ۲ صفحہ ۲۱۹)

آسمان پر جانے کے علاوہ خدا کی طرف سے تمہارے لئے خط بھی لاوں اور خط لے بھی آوں تب بھی قول نہیں کر سکے کیونکہ تم صاف کہہ رہے ہو کہ اگر میں تمہارے ان کاموں کو انجام بھی دے دوں تب بھی ممکن ہے تم ایمان نہ لاو۔ لیکن یاد رکھو اس طرح کی خند اور ہٹ دھرمی و عناد کا نتیجہ سوائے عذاب اور بلا کے نازل ہونے کے کچھ بھی نہیں اور تم اپنے ان کاموں کی وجہ سے عذاب کے مستحق غمہ رہو گے۔ تمہارے تمام سوالات کا جواب خداوند عالم نے سورہ کف کی آیت ۱۱۰ اور سورہ فصلت کی آیت میں اس طرح دیا ہے:

قُلْ أَنْتَ أَنَا بِشَرٍ مُّثْلِكُمْ يُوحِي إِلَيْيَكُمْ أَنَّمَا الْهُكْمُ إِلَيْهِ وَاحِدٌ۔ ”یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک بھر ہوں اور خدا کا نمائندہ ہوں، خدا کے فرمان کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔

میری نشانی یہی قرآن و مESSAGES ہیں جو خداوند عالم نے مجھے عطا کئے ہیں۔ لہذا میں نہ تو خدا کو حکم دے سکتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بے بیاد خواہشات پر اسے مکلف کر سکتا ہوں۔

ابو جمل کہنے لگا: ایسا کیوں نہیں کہتے کہ جب قوم موسیٰ نے ان کے خدا کو دیکھنے کی موسیٰ سے گزارش کی تو خدا ان پر غصہناک ہوا اور محلی کے ذریعے ان کو جلاؤالا۔

پیغمبر اکرم: کیوں نہیں! ایسا ہی ہوا تھا۔

ابو جمل: ہم نے تو قوم موسیٰ سے بھی بڑی فرمائش کر دی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر گز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے سامنے خدا و فرشتوں کو حاضر نہ کرو۔ لہذا خدا سے کہو کہ ہمیں بھی جلاڈا لے اور ہاؤ د کر دے۔

جائے۔ لیکن چیخبر اسلام اور مسلمین کی ہشیاری نے ان کی سازشوں پر پانی پھیر دیا۔ اسی طرح ان کی دیگر سازشوں کو بھی چیخبر اسلام نے ناکام بنا دیا تھا۔ لہذا صرف ”آزاد حفظ“ ہی ایک راستہ چا تھا جس کے ذریعے وہ چیخبر اسلام پر چڑھائی کرہا چاہتے تھے لیکن چیخبر اکرمؐ کامل رضامندی کے ساتھ ان کے مشوروں کا استقبال کرتے تھے۔ ہر دفعہ وہ آکر پیچیدہ قسم کے سوالات اور حفظ کرتے تاکہ چیخبر اکرمؐ کو لا جواب کریں لیکن یہ ٹھیک ان کے اپنے نقصان پر تمام ہوتیں اور لوگوں کو چیخبر اسلام کے علمی مقام اور عالم غیب ہونے کا یقین ہو جاتا تھا اور انہیں حفظ کا نتیجہ تھا کہ کافی تعداد میں یہودی اور مت پرستوں کے گروہ اسلام لے آئے تاہم یہ لوگ اگرچہ چیخبر اکرمؐ سے حفظ میں قائل ہو جاتے تھے مگر غرور و تجسس کے عالم میں چیخبر اکرمؐ سے کہتے کہ ہم آپ کی باتیں نہیں سمجھے۔ یعنی جیسا کہ سورہ ہجرہ آیت ۸۸ میں ارشاد ہوا ”قلوبنا غلف“ ان کے قلوب پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ علماء یہود نے چیخبر اسلام سے کئی مناظرے کئے جن کے جواب چیخبر اکرمؐ نے نہ صرف بڑی نرمی اور حکم استدلال کے ذریعے دیئے بلکہ فیصلہ بھی عوام کی عدالت پر چھوڑ دیا۔ جس کی دو مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

چھپی مثال: جب عبداللہ بن سلام ایمان لایا جو کہ علماء یہود میں سے ایک مشہور عالم اور مذہبی علوم کا ماہر سمجھا جاتا تھا (مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام حسین تھا اس کے مسلمان ہونے کے بعد چیخبر اکرمؐ نے اس کا نام عبد اللہ رکھ دیا تھا) چیخبر اسلام کی ہجرت کے پہلے سال ایک دن یہ شخص چیخبر اکرمؐ کی مجلس میں حاضر ہوا، دیکھا کہ چیخبر اکرمؐ لوگوں کو صحیح کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں

اسلام سے دشمنی و کیفیت رکھتے والے افراد تھے مگر چیخبر اکرمؐ نے کتنے کمال و برباری سے پہلے ان کی گفتگو سنی اور پھر کتنی نرمی و ممتازت سے ان کے جوابات دیئے اور کتنی مدلل حجت کے ذریعے ان پر حجت تمام کی یہ اسلام کا منطقی اور اخلاقی طریقہ ہے۔

(۳)

ہجرت مدینہ سے پہلے یہودی آپس میں ان نشانیوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے جو چیخبر اسلام سے متعلق تورات میں لکھی ہوئی تھیں۔ یہودی علماء تورات کی آنتوں کے ذریعے چیخبر اسلام کی ہجرت کی جگہ کے بارے میں بھی اپنے لوگوں کو خبریں دیتے تھے اور اس طرح وہ بالواسطہ یا بالواسطہ چیخبر اکرمؐ کے ”ظلمور“ کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہودی رفیق سمجھتے تھے کہ وہ چیخبر اسلام کو طاق توڑا کر اپنی جانب مائل کر لیں گے اور نیچتا اطراف کے علاقوں میں مذہبی طاقت عن جائیں گے۔ مگر جب چیخبر اکرمؐ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام بڑی سرعت سے پھیلا تو چیخبر اکرمؐ کو یہودیوں پر غالبہ حاصل ہو گیا اور یہوں اسلام اور رسول اسلام کو ”قابل“ کرنے کی ان کی نیا نیک خواہش دم توڑ گئی۔ چنانچہ یہودیوں کے مذہبی حلقوں میں چیخبر اکرمؐ کی مخالفت کی جانے لگی اور وہ مختلف بہانوں سے اسلام کو گزند پہنچانے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسا کہ سورہ ہجرۃ و سورہ نباء میں ان کی دشمنی اور ہمت و حرمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک سازش یہ کی کہ اوس اور خزر بحیر کی ۱۲۰ سالہ دشمنی کو دوبارہ زندہ کیا (یہ مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے جو اسلام کے بعد متحد ہو گئے اور النصار کہلائے) تاکہ اسلام کی صفوں میں انتشار پھیلایا

گے تو میں حمیس ہتاوں گا۔ جیسے ہی جبر نکل کام آیا عبد اللہ کہنے لگا: ”جبر نکل تو ہم یہودیوں کا دشمن ہے کیونکہ اس نے متعدد بار ہم سے دشمنی کی ہے ختن التصر جبر نکل ہی کی مدد سے ہم پر غالب ہوا اور بیت المقدس کے شر میں آگ لگائی وغیرہ۔“ پیغمبر اکرم نے اس کے جواب میں سورہ قرۃ کی آیت ۷۶ اور ۹۸ کو پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: ”وَهُوَ جُبَرُ نَكْلٍ“ ہے تم دشمن سمجھتے ہو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اس نے قرآن کو خدا کے اون سے پیغمبر کے قلب پر نازل کیا ہے وہ قرآن جو رسول کی ان نشانیوں اور صفات سے مطابقت رکھتا ہے جو پچھلی ستیوں میں موجود ہیں اور ان کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا کے فرشتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی ان میں سے ایک سے دشمنی کرے گا وہ ایسا ہے کہ اس نے سارے فرشتوں، پیغمبروں اور خدا سے دشمنی کی ہے کیونکہ اس کے فرشتوں اور پیغمبر ایک ہی طریقے سے خدا کے حکم کو چاری کرنے والے ہیں ان کے کام تقسیم شدہ ہیں نہ کہ ایک دوسرے کے مقابل، ان کے ساتھ دشمنی خدا کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے۔“ پھر پیغمبر اکرم نے عبد اللہ کے تین سوالوں کے جواب میں فرمایا: ”روز قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دھوئیں سے بھری آگ روشن ہو گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف حرکت دے گی اور بہشت کی پہلی نیڑا پچھلی کا جگہ اور اس کے گلے ہوں گے جو دہا کی بھری نیڑا ہے تیرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مرد و عورت کے نطفہ میں سے جو بھی دوسرے پر غلبہ پاجائے چہ اس کے جیسا ہوتا ہے اگر مرد کا نطفہ غلبہ پاجائے تو چہ باپ یا اس کے رشتہ داروں کے ہم خل ہوتا ہے اور اگر عورت کا نطفہ غالب آجائے تو چہ ماں یا

کہ ”اے لوگو! ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھا کرو آجھی رات میں جب لوگ سورہ ہے ہوں اٹھ کر تماز شب پڑھا کرو تاکہ اللہ کی بنای ہوئی بہشت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکو“ عبد اللہ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کی یہ گفتگو بے بیان جمیٹ بولنے والوں کی طرح نہیں ہے اس کو یہ گفتگو اچھی لگی لہذا ایسی مخلوقوں میں شامل ہونے کا محکم ارادہ کر لیا۔ ایک دن عبد اللہ مذہب یہود کے ۳۰ سرکردہ افراد کو لیکر پیغمبر اسلام کے پاس آیا تاکہ نبوت و رسالت کے سلسلے میں ان سے محل کر حجت کریں اور آپ سے مناظرہ کر کے آپ کو مغلوب کریں اس نیت سے یہ لوگ پیغمبر اکرم کے پاس حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے ان کے بیوگ عبد اللہ بن سلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا: ”میں حجت و مناظرہ اور تحقیق کے لئے تیار ہوں۔“ یہودیوں نے رضامندی ظاہر کی اور حجت و مناظرہ شروع ہو گیا یہودیوں نے گفتگو کا مذاق تیار کیا اور پیغمبر اکرم پر سوالات کی یو چھڑا کر دی۔ مگر پیغمبر اکرم ان کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن عبد اللہ خصوصی طور پر پیغمبر اکرم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی اجازت سے آپ سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے جواب سوائے پیغمبر کے کوئی تینی دے سکتا۔

پیغمبر اکرم: پوچھو۔

عبد اللہ: ذرا مجھے یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے۔ بہشت کی پہلی نیڑا کیا ہے اور اسکی کیا وجہ ہے کہچے کبھی باپ کے اور کبھی ماں کے مشابہ ہوتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا: ابھی اس کا جواب خدا کی جانب سے جبر نکل لائیں

جانتے ہو کہ یہ اللہ کے بیخبر ہیں تو کیوں ایمان نہیں لاتے؟ گروہ یہود میں فحصہ اور دینی کی لریں دوڑنے لگیں اور کہنے لگے: "یہ ہمارے درمیان بدترین شخص ہے یہ اور اس کا باپ دونوں بدترین و نادان افراد میں سے ہے۔

پیغمبر اسلام کا یہ طرز استدلال اچھا تھا اگرچہ ان یہودیوں نے اپنی نکتہ کا اظہار نہ کیا لیکن حقیقت میں وہ مغلوب ہو چکے تھے اور انصاف پسند انسانوں کے بارے میں ان کی خدا اور ہست دھرمی ثابت ہو چکی تھی لیکن عبد اللہ واقعی خدا کے آگے سر تسلیم نہ کرنے والے ہندے تھے۔ جب حق کی خبر ہوئی تو اس سے یوں سوت ہو گئے حالانکہ ان حالات میں یہ بات نقصانہ تھی اسی لئے پیغمبر اکرم نے ان کا نام عبد اللہ رکھا ان کے ایمان لانے کا دوسرا افراد پر بھی اثر پڑا اور کچھ عرصہ نہ گزرا کہ "محیرق" نامی یہودیوں کا ایک اور دانشور پکجھ اور افراد کے ہمراہ ان سے آکر مل گھے۔

(۲)

جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم پیت المقدس جو کہ یہودیوں کا قبلہ تھا، کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح بھرت کے سوں سال گزر جانے کے بعد تک مدینے میں بھی آپ پیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہودیوں نے اس بات کو اسلام اور پیغمبر اسلام پر نکتہ چینی کیلئے مناسب سمجھا اور کہا کہ "محمد" جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک مستقل شریعت لور قانون لائے ہیں جبکہ ان کا قبلہ وہی ہے جو یہودیوں کا قبلہ ہے۔ ان کے اس

اس کے رشتہ داروں کے ہم ٹھکل ہوتا ہے۔ عبد اللہ نے ان جو بلات کو تورات سے ملایا تو درست پایا اسی لمحہ اسلام قبول کر لیا اور خدا کی وحدائیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ پھر عبد اللہ کہنے لگا: یا رسول اللہ! کیونکہ میں یہودیوں کا بیڑا عالم دین ہوں اور بڑے عالم دین کا پیٹا ہوں اگر وہ لوگ میرے اسلام لانے سے آگاہ ہو گئے تو مجھے جھٹلا دیں گے لہذا اس وقت تک میرے ایمان لانے کو پوشیدہ رکھئے گا جب تک یہود کا نظر یہ میرے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے موقع کو غیرم تجھے ہوئے یہودیوں کے ساتھ ایک مجلس مناظرہ تکمیل دی جو آزاد حکومتی کی ایک دلیل تھی اور عبد اللہ کو اسی مجلس میں چھپا کے رکھا پھر گفتگو کے درمیان پیغمبر اکرم نے یہودیوں سے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں خدا کو نگاہوں میں رکھو اور نسانی خواہشات سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ لوگ کہنے لگے: ہم دین اسلام کے صحیح ہونے کے بارے میں بے خبر ہیں۔

پیغمبر اسلام: اچھا یہ بتاؤ کہ عبد اللہ تمہارے درمیان کس قسم کا شخص ہے؟
یہودی گروہ: وہ ہمارے بڑے دانشور ہیں اور عالم دین و پیشوں کے

فرزند ہیں۔

پیغمبر اسلام: اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم لوگ بھی اسکی اطاعت کر دے گے؟

یہودی گروہ: وہ ہرگز اسلام لانے والے نہیں ہیں۔

پیغمبر اسلام: نے عبد اللہ کو آواز دی اور عبد اللہ جو چھپے ہوئے تھے سب کے سامنے آئے اور کہنے لگے: "اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ" اور کہا اے گروہ یہود اللہ سے ڈرو اور پیغمبر پر ایمان لے آؤ جب تم

چیخبر اسلام : دونوں قبیلے اپنی اپنی جگہ درست اور برق ہیں ان چند میتوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تماز پڑھنا بھی برق حق تھا اور اب خدا کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبیلہ قرار دیں۔ پھر آپ نے سورۃ بقرۃ کی آیت ۱۱۵ کی حلاوت فرمائی:

وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولُوا لِظِلْمٍ وَجْهُ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ۔

”سب مشرق و مغرب خدا کے لئے ہیں جس طرح بھی دیکھو خدا ہی خدا ہے اور یوہ کھ خدا ہے ٹیکا دانا ہے۔

یہودی گروہ: اے محمد! کیا خدا پر ”بداء“ کا قانون صادق آتا ہے یعنی (کوئی بات پہلے اس پر مخفی تھی اور اب آفکار ہوئی ہو اور پہلے حکم سے مخفف ہو کر اس نے دوسرا حکم صادر کیا ہو) اور اسی جیاد پر نیا قبلہ صحیح کیا؟ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو گویا خدا کو ایک ہاداں انسان کی طرح فرض کیا ہے؟

چیخبر اسلام : خدا کے لئے ان معنوں میں ”بداء“ نہیں ہے خدا آگاہ اور مطلق قدرت کا مالک ہے۔ اس سے ہرگز خطأ سرزد نہیں ہوتی کہ جس کے بعد وہ پشمیان ہو اور نظر ثانی کرے اور کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ وقت کو تبدیل کرے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ مخصوص شفایاں نہیں ہوتا یا صحت مند شخص بھار نہیں ہوتا یا زندہ نہیں مرتا؟ کیا سردی گری میں تبدیل نہیں ہوتی؟ خدا جو ان امور کو دوسری ٹھکل میں تبدیل کرتا ہے اس کے لئے ”بداء“ کا جائے گا؟ جو اس طرح کے امور کو تبدیل کرتا ہے کیا اس کو بعد میں معلوم ہوتا ہے جو کرتا ہے؟

طرح کے اعتراضات نے چیخبر اسلام کو آزادہ خاطر کیا، آپ دمی کے منتظر ہے، یہاں تک کہ بیت المقدس سے کعبہ کی جانب قبیلے کی تبدیلی کے بارے میں سورۃ بقرۃ کی آیت ۱۲۲ نازل ہوئی۔ بھرت کے سولہ سال بعد ۱۵ ارجب کی تاریخ تھی، چیخبر اکرم مسجد بنی سلمہ جو مسجد احزاب سے ایک کلو میٹر پر واقع تھی میں نماز جماعت کی لامت کر رہے تھے ابھی دور کعت تمام ہوئی تھیں کہ جبر نسل امین سورۃ بقرۃ کی آیت ۱۳۹ لے کر نازل ہوئے۔ لہذا چیخبر اکرم نے اسی حالت میں اپنا رخ کبھی کی طرف بدلا اور باقی دو رکعتیں کبھی کی طرف رخ کر کے پڑھیں اقتدار کرنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا، جب سے وہ مسجد ذو قبیلین کے نام سے معروف ہے۔ اس ولقوع کے بعد سے یہودیوں نے ہر طرف سے قبیلے کی تبدیلی کے قانون پر اعتراضات شروع کر دیئے اور اس ولقوع سے اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی۔ چنانچہ ایک نشت میں ان کے اور چیخبر اکرم کے درمیان طے پیدا کر اس مسئلے پر آزاد حصہ کے دوران بات کی جائے یہودیوں کی کچھ تعداد نے اس میں شرکت کی اور یہودیوں نے ابتداء کرتے ہوئے سوالات شروع کئے اور کہا کہ آپ کو مدینے میں آئے ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اب جو آپ کبھی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ وہ نمازوں جو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں صحیح تھیں یا باطل؟ اگر صحیح تھیں تو یقیناً آپ کا دوسرا عمل باطل ہو گا اور اگر باطل تھیں تو ہم کس طرح دیگر تمام افعال کے بارے میں اطمینان کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے تبدیلی قبیلے کی طرح باطل ہوں؟

سانتے مشرک مجده کرتے تھے لہذا مسلمانوں کو حکم ہوا کہ فی الحال بیت المقدس کی طرف مجده کریں تاکہ اپنی صفوں کو مشرکین کی صفوں سے جدار کہ سکیں لیکن آپ نے جب مدینے ہجرت کی اور ایک مستقل حکومت کی بیاد ڈالی اور ان کی صفتیں دوسروں سے جدا ہو گئیں تو پھر اس حکم کی ضرورت نہیں رہی لہذا مسلمانوں کو کچھے کے طرف متوجہ کیا۔ ظاہر ہے شروع میں بیت المقدس کی سمت نماز پڑھنا سے مسلمانوں کیلئے جو ابھی دوران شرک کی رسومات کو نہیں بھولے تھے مشکل کام تھا۔ لہذا اسے لوگوں کو اس حکم کے ذریعے آن لیا گیا تاکہ اپنے جاہلیت کے زمانے والے پیوندوں کو توزیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جب تک انہاں باطل رسومات کو نہ توڑے صحیح طرح سے حق کو قبول نہیں کر سکتا اور درحقیقت لہذا میں بیت المقدس کی طرف توجہ دلانا اور لوگوں کی غکروروج میں ایک تحریک پیدا کرنا تھا اور اسلام اس طریقے سے ماحول کے اثرات کو دھونا چاہتا تھا لیکن مدینے میں اسی کوئی ضرورت نہیں تھی یا اسکے کی طرف توجہ کرنے کی مصلحت اس سے زیادہ تھی۔

(۵)

ایک دن ایک گروہ کے لوگ بیخیر اکرمؐ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہیں
قرآن پر اشکال ہے لہذا آپ سے مناظرہ کرنے آئے ہیں۔ کیا آپ خدا کے مجھے
ہوئے بیخیر ہیں؟

بیخیر اکرمؐ: ہاں۔ تمہارا اشکال کیا ہے؟

یہودی گروہ: ہمارا قرآن پر اشکال یہ ہے کہ سورۃ النبیاء کی آیت ۹۸

یہودی گروہ: نہیں ان امور میں ”بداء“ نہیں ہے۔

بیخیر اسلام: پس قبلے کی تبدیلی بھی انہی امور میں سے ہے خدا ہر زمانے میں بندوں کی مصلحت کے پیش نظر مخصوص حکم دیتا ہے جو اس کی الاطاعت کرے گا اب پائے گا ورنہ سزا پائے گا۔ لہذا خدا کی مصلحت و تبریز کے سلسلے میں مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا آپ لوگ ہفتہ کے دن اپنے کاموں کی چھٹی نہیں کرتے؟ اور کیا اپنے کے بعد سے اپنے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ کیا پہلا صحیح اور دوسرا غلط ہے؟ یا بر عکس پہلا غلط اور دوسرا صحیح یا دو توں غلط یا دو توں صحیح ہیں؟
یہودی گروہ: دونوں صحیح ہیں۔

بیخیر اسلام: یہ میں بھی تویں کہ رہا ہوں کہ دونوں صحیح ہیں گز شدہ سالوں اور مینوں میں بیت المقدس کو قبلہ قرار دینا صحیح تھا لیکن اب کچھے کو قبلہ قرار دینا صحیح ہے آپ لوگ ہمارا ناساں کی ماہنہ ہیں خدا تمہارے لئے ماہر طبیب کی حیثیت رکھتا ہے ہمارا کی اچھائی اسی میں ہے کہ ماہر طبیب کی بیرونی کرے اور اپنی نفسی خواہشات پر اس کے سختی کو ترجیح دے۔ منقول ہے کہ کسی نے امام حسن عسکریؑ سے (جو اس مناظرے کے نقل کرنے والے ہیں) سوال کیا کہ معلاعہ کیوں پہلے ہی سے مسلمانوں کا قبلہ کعبہ قرار نہ پیلا؟ نامؐ نے فرمایا: خدا نے سورۃ بقرۃ کی آیت ۱۳۳ میں اس سوال کا جواب دیا ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس حکم کو مذہبین و مشرکین کی پہچان کے لئے دیا گیا ہے تاکہ ان کی صفتیں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں کیونکہ اس زمانے میں کعبہ مشرکوں کے ہوں کا مرکز تھا ان کے

میں تو خدا فرماتا ہے: "انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم." یعنی تم لوگ اور وہ کہ جن کی تم خدا کے علاوہ عبادت کرتے ہو جنم کی بھروسی ہوئی آگ کے شعلے ہو گے۔ تو ہمارا اشکال یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق تو حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی دوزخی ہونا چاہئے کیونکہ حضرت مسیح کو بھی ایک جماعت خداماتی اور پرستش کرتی ہے۔

بنابر اکرم نے ان کے اس اعتراض کو سننا اور فرمایا کہ قرآن کلام عرب کے عرف کے مطابق ہاصل ہوا ہے کیونکہ کلام عرب میں لفظ "من" اکثر ذوی المحتول کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لفظ "ما" غیر ذوی المحتول کے لئے جیسے مجاہدات و حیوانات وغیرہ ہیں لیکن گلہ "اللہ" ذوی المحتول و غیر ذوی المحتول دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا آیت میں لفظ "ما" استعمال ہوا ہے جس سے مراد وہ معبود ہیں جو صاحب عقل نہ ہوں جیسے لکڑی و پتھرو مٹی وغیرہ سے بنائے ہوئے مت ہوتے ہیں لہذا آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ غیر خدا کی پرستش کرنے والوں اور وہ مت جن کی پرستش کی جاتی ہے، کی جگہ جنم ہے۔

بنابر اکرم کی یہ مفکتوں سن کر وہ لوگ قائل ہو گئے اور بنابر اکرم کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں کو چلے گئے۔

(۶)

ہر زمانے میں منافقوں کی ایک خاص عادت رہتی ہے کہ وہ جاہ طلبی اور لوگوں کی طرفداری حاصل کریں تاکہ مجموعت اجتماعی حاصل کر سکیں اور لوگوں پر قدرت

حاصل کر کے ان پر حکومت کریں۔ اسی لئے وہ رہبری کے مسئلے میں بوجے حاس ہوتے ہیں اور بودی وقت سے کام لیتے ہیں۔ خصوصاً زندہ بیخبر میں جب نام علیؑ کی رہبری کو مختلف اور مناسب موقع پر مطرح کیا جاتا تھا تو منافقین کو شکر تھے کہ اس کی مخالفت کریں حتیٰ کہ بعض موارد میں خود بنابر اکرمؐ کو بھی ضرب لکانا چاہئے تھے تاکہ مسئلہ رہبری کو اس خاندان سے جدا کر دیں ان کی ایک سازش جو جنگ تجوک کے موقع پر سامنے آئی وہ یہ کہ وہ لوگ چوری چھپے حضرت علیؑ اور خود بنابر اکرمؐ کو قتل کرنا چاہئے تھے لہذا ان میں سے ۲۳ افراد نے مجرمانہ نشست تھکیل دی اور یہ طے پلایا کہ اس حاس موقع پر جب مسلمان جنگ میں سرگرم ہوں گے ان دونوں افراد کو قتل کر دیا جائے لہذا ان میں سے ۱۰ افراد حضرت علیؑ کو قتل کرنے کے ارادے سے مدینے میں رک گئے اور ۱۳ افراد مناسب موقع کی خلاش میں رہے تاکہ جنگ تجوک میں شریک ہو کر بنابر اکرمؐ کا کام تمام کرو دیں۔ اسلامی فوج جو دس ہزار سوار اور یہیں ہزار پیادوں پر مشتمل تھی بنابر اکرمؐ کی رہبری میں مدینے سے تجوک کی طرف حرکت کر رہی تھی جنکہ پسلے یہ خبر مل پھیلی تھی کہ روم کی فوج جو چالیس ہزار سوار و پیادوں پر مشتمل تھی تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ شام کی سرحدوں اور کمین گاہوں پر متعین ہے اور مسلمانوں پر غافل گیرانہ حمل کرنا چاہتی ہے اگرچہ یہ جنگ مختلف جمادات سے کافی دشوار تھی جس میں آب و غذاء گزی کی سختیاں بھی تھیں اسی لئے اس جنگ کو "جیش العسرہ" یعنی ایسے سپاہی جو سخت دشواریوں کے سامنے تھے، کہا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی فوج ایمان، توکل، استقامت کے ساتھ بنابر اکرمؐ کی رہبری میں حرکت کر رہی تھی اور یہ لوگ مدینے

تحاکہ جوک سے لوئٹے وقت مدینے و شام کے درمیان جو پہاڑ ہے اس میں چھپ گر رسول خدا کے اوٹ کو پھر ماریں گے تاکہ وہ بھاگے اور اس طرح رسول خدا پہاڑوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں لہذا چیزیں ہی خبر اکرمؐ ان پہاڑوں کے نزدیک ہوئے جو بخشنے نے اکر خبر اکرمؐ کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کیا اور مدینے والے منافقین کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو حضرت علیؓ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ خبر اکرمؐ نے مسلمانوں کو منافقین کی اس سازش سے آگاہ کیا اور حضرت علیؓ کی شان میں کچھ باتیں بھی کیں وہ چودہ منافقین بھی اپنے آپ کو خبیر اکرمؐ سے محبت کرنے والا ظاہر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اکر حضرت علیؓ کی رہبری کے سلسلے میں سوالات کرنے لگے خبیر اکرمؐ بھی بڑے اطمینان سے ان کے سوالوں کے جوابات دینے لگے تاکہ ان پر اتمام محبت کر سکیں۔ منافقین نے اس طرح حدث کا آغاز کیا کہ ہمیں یہ ہائی کہ علیؓ بیڑ ہیں یا فرشتے؟

خبیر اکرمؐ: فرشتوں کی مقام و منزلت ہی اس میں ہے کہ وہ محمدؐ و علیؓ اور خدا کے بھجے ہوئے رہروں سے محبت کریں اور ان کی رہبریت کو قبول کریں لہذا ہر وہ انسان جو اخلاص اور پاک قلب کے ساتھ ان کی رہبریت کو قبول کرتا اور ان سے محبت کرتا ہے وہ فرشتوں سے درست ہے۔ کیا تم لوگوں کو علم نہیں کہ فرشتوں کا آدمؐ کو سجدہ کرنا ہی اس لئے تھا کہ وہ اپنے آپ کو آدمؐ سے افضل و درست جانتے تھے لیکن جب خدا نے آدمؐ کا علمی و انسانی مقام انہیں دکھلایا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو آدمؐ کے مقابل میں پست پایا لہذا اسی دن یہ سجدہ تمام نیکوکار خصوصاً خبیر اسلام و حضرت علیؓ و دیگر ائمۃؐ کے لئے قرار پایا کیونکہ اس وقت بھی صلب

و جوک کے درمیان کا طولانی راستہ طے کر رہے تھے۔ اور جب نویں ہجری کو ماہ شعبان میں اسلامی فوج جوک کی سر زمین پر پہنچی تو روی فوج پہلے ہی سے خوف و وحشت کی وجہ سے میدان چھوڑ چکی تھی لہذا یہ جنگ واقع نہ ہو سکی اس طرح منافقوں کی یہ سازش ناکام ہوئی اب انہوں نے نئی سازش چلی کہ مسلمانوں کے درمیان مشور کر دیا کہ خبیر اکرمؐ حضرت علیؓ سے بیزار تھے اسی لئے حضرت علیؓ کو اپنے ساتھ جنگ پر نہیں لے گئے یہ لوگ اپنی اس نامردانہ سازش اور تمثیل سے لام علیؓ کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے لہذا حضرت علیؓ کو جب ان کی اس سازش کا علم ہوا تو آپ مدینے کے باہر نکلے اور خبیر اکرمؐ سے ملاقات کر کے قصہ بیان کیا تو خبیر اکرمؐ نے فرمایا: کیا تم راضی نہیں ہو کر تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہاروں کو موئی سے تھی فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں ہو گا۔ خبیر اکرمؐ کی یہ بات سن کر قلب علیؓ کو سکون ہوا اور مدینے واپس لوئے۔ منافقین جو لام علیؓ کی رہبری پر ضرب لگانا چاہتے تھے نہ صرف یہ کہ ان کی سازش ناکام ہوئی بھر خبیرؐ کی اس تائید سے آپ کی رہبری اور ہم لشتنی میں اور بھی زور پیدا ہو گیا۔ اسی طرح مدینے واپسی پر منافقوں نے حضرت علیؓ کے راستے میں گڑھا کھووا اور اس کے اور پر گھاس ڈال کر چھپا دیا تاکہ اس طرح حضرت علیؓ سے اپنی دشمنی نکال سکیں مگر خدا نے اس موقع پر بھی حضرت علیؓ کو ان کی اس سازش سے زندہ چلایا اور حضرت علیؓ زندہ و سلامت مدینے پہنچے اس طرح ان دس افراد جو حضرت علیؓ کے قتل کے ارادے سے مدینے رکے تھے، کی سازشیں ناکام ہوئیں۔ اور باقی چودہ افراد جو لشکر اسلام کے ہمراہ تھے انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا

چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ کوئی پیغیر اکرم سے پلے نہ چھے لیکن پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ وہی ۱۳ افراد میں مہر ان انداز میں پیغیر اکرم سے پلے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ہر ایک نے اپنے کو ایک ایک پتھر کے پیچے چھپا لیا ہے۔ حدیفہ نے سب کو پہچان لیا اور فوراً پیغیر اکرم کو اکر اس کی خبر دی پیغیر اکرم ان کی سازشوں سے آگاہی کے باوجود اونٹ پر سوار رہے۔ حدیفہ من الیمان، سلمان فارسی، عمار بن یاسر آنحضرت کی تسلیمانی کر رہے تھے۔ جیسے ہی پہاڑ کے اس کونے پر پہنچے منافقین نے بھی اپنی سازش کے تحت اپر سے پتھر لڑھکایا تاکہ پیغیر اکرم کے اونٹ کو ڈراکیں وہ بدک کر بھاگ جائے اور پیغیر اکرم پہاڑوں کے درمیان گر کر ہلاک ہو جائیں لیکن سب نے دیکھا کہ وہ لڑھنے والا پتھر اس وقت تک اسی بندی پر رکا رہا جب تک پیغیر اکرم اور آپ کے تمام ساتھی سلامتی کے ساتھ گھٹائی سے گزرنہ گئے اس طرح کسی کا بھی بال میکانہ ہوا۔

پیغیر اکرم نے عمار کو حکم دیا کہ اپر جا کے ان منافقین کے اوٹوں کو مشتعل کر دو۔ عمار حکم پیغیر کی اطاعت کرتے ہوئے اپر گئے اور ان منافقین کے اوٹوں کو مشتعل کرنے لگے اسی اثناء میں جو منافقین اپنے اوٹوں پر چڑھ چکے تھے وہ اوٹوں کے مشتعل ہوئے سے زمین پر گرنے لگے جس کی وجہ سے بعض کے ہاتھ پیغمبر بھی نوٹ گئے اس طرح ان منافقین کو پیغیر اور ان کے اسلام سے دشمنی کرنے کا سبق مالا بدناہمیں بھی چاہئے کہ ہر طرح سے اسلام کا دفاع کریں اور منافقین کے ارادوں کو ناکام بنائیں۔

نتیجہ: پیغیر اکرم نے خود منافقین کے ساتھ بھی ان کی سازشیں آشکار

آدم میں یہ لوگ موجود تھے گویا یہ سب ایک دوسرے کے پیچے کمال و نظم کے ساتھ صاف آراء تھے اس عالم میں فرشتوں نے آدم کو مجدہ کیا اگرچہ ظاہر میں یہ مجدہ حضرت آدم کے لئے تھا مگر در حقیقت خدا کے لئے تھا اور اس مقام پر آدم مانند قبلہ تھے یعنی خانہ کعبہ کے ہم مقام تھے اور ابلیس لجن جس نے غرور و محابر کے خاطر حضرت آدم کو مجدہ نہیں کیا وہ درگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔

منافقین: ممکن ہے ان رہروں کے احتجاجات و ترک اولیٰ حضرت آدم کی طرح وقت سے پلے ہلاک کر دیں۔

پیغیر اکرم: اگر حضرت آدم نے بہشت کے منع شدہ درخت سے پھل کھا کر ترک لوئی کیا تو یہ تکبر و غرور کے تحت نہیں تھا اسی لئے وہ جلد ہی اپنے اس کئے پر پیشان بھی ہوئے اور توبہ کی۔ خدا نے بھی ان کی اس توبہ کو مقبول کر لیا۔

وہ مقام جہاں منافقوں کے اصل نقشے خاک میں مل چکے تھے پیغیر اکرم کی یہ گھنکو منافقین کے لئے بے سود ہمہت ہوئیں اور وہ پلے کی طرح اپنے سازشوں سے باز نہیں آئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس فریب پر بھی باقی رہے جو پیغیر اکرم کو پہاڑوں کے درمیان دھکیل کر قتل کی سازش بنائی ہوئی تھی۔ لہذا پیغیر اکرم نے جو حضرت جبریل کے ذریعے اس سازش سے آگاہ تھے مسلمانوں میں سے "حدیفہ" نامی ماہر شخص کو حکم دیا کہ وہ پہاڑ کے ایک کونے میں بیٹھ جائے تاکہ کوئی مجھ سے پلے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔ اعلانِ عام کر دیا گیا کہ کوئی شخص بھی پیغیر اکرم سے پلے پہاڑ پر نہ چڑھ سکے۔

لہذا حدیفہ پیغیر اکرم کے حکم کے مطابق پہاڑ کے ایک پتھر کے پیچے

ہونے سے پہلے تک ان سے مناظرے کے جس کے ذریعے عقل و منطق کے راستے دکھانے کی کوشش کی لور آخر تک ان پر جگت تمام کرتے رہے۔

(۷)

نجران مکہ و نیمن کے درمیان کی آبادی ہے جس میں ۳۷ گاؤں تھے صدر اسلام کے وقت وہاں عیسائی مذہب کے روحانی پاپ زندگی میر کرتے تھے وہاں کا سیاسی حاکم "حاقب" نام کا شخص تھا اور نجران کا مدینی رہنمایو حاشر تھا جو لوگوں کے درمیان مورد اعتقاد و قابل احترام تھا۔ اسی طرح "بکم" نامی شخص بھی کافی مشور تھا وہ بھی لوگوں کے درمیان محترم و قابل احترام شاہر ہوتا تھا۔ جب عدائے اسلام پوری دنیا میں پھیلی تو سُکنی علماء جنوں نے پہلے ہی کتاب تورات اور کتاب انجیل میں وہی ہوئی بھار تھیں تھیبر اسلام کے بارے میں پڑھی ہوئی تھیں وہ اس خبر کی تحقیق میں لگ گئے اسی تحقیق کے خاطر نجران کے سکھوں نے تین مرتبہ اپنے نمازدگی پر مشتمل ایک کمیٹی تھکیل دے کر تھیبر اسلام کے پاس بھی تاکہ نبوت کی صداقت کے بارے میں تحقیق کریں ایک بار بھرت سے پہلے تھیبر اسلام کے پاس آئے اور مناظرے کے دوسرا بھر تیرتھی مرجہ بھرت کے بعد دینے میں تھیبر اسلام کے ساتھ مناظرہ ہوا جس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں:

پہلا مناظرہ:

پہلی مرتبہ سُکنی مذہب کے نمازدگے مکہ میں تھیبر اسلام کے پاس آئے

تاکہ ان کی نبوت کی صداقت کے سلسلے میں تحقیق کریں لذا کچھے کے اطراف میں انہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی اور حجت و مناظرے کو شروع کیا تھیبر اسلام خاموشی سے سنتے رہے اور پھر ان کے جواب دینا شروع کئے آخر میں تھیبر اسلام نے قرآن کی بعض آیات کی تلاوت کی جو اس حد تک ان پر اثر انداز ہو گئیں کہ قرآن سنتے سنتے بے اختیار ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور جب انہوں نے تھیبر اسلام کے بیانات کو بالکل اسی بھارت کے مطابق پڑا جو ان کو تورات و انجیل سے دی گئی تھیں تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ وہ آیت جس کی تھیبر اکرمؐ ان کے سامنے تلاوت کی جو اسی موقع پر نازل بھی ہوئی تھی وہ سورۃ نماکہ کی آیت ۸۳ تھی: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ أَعْيُنُهُمْ تَفْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ مَا عَرَفُو مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتَنَا فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ "اور جب وہ سنتے ہیں اس کو جو (اس) رسول کی طرف اتارا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسے ہمارے پروردگار! ہم ایمان لائے، ہم تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ کھلے۔"

تمام مشرکین خصوصاً بوجمل کو اس مناظرے سے برا دکھ پہنچا اور جب نجران کے نمازدگے تھیبر اسلام کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو بوجمل اور اسکے ساتھ کچھ لوگوں نے ان کا راستہ روکا اور ان کو بر املا کرنے لگے کہ تم نے سکھوں کے ساتھ خیانت کی ہے اور تم اپنے آئین سے پلٹ گئے اور اسلام قول کر لیا۔ انہوں نے بڑی نری سے جواب دیتے ہوئے کہا تمہیں ہم سے یا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے اپنے اعمال کے جواب گوہم خود ہو گے۔ (سیرت طبلی جلد اول صفحہ ۳۸۳)

دوسرے مناظرہ:

یہ مناظرہ نجران کے بڑے سیاہ و مذہبی لیڈروں کے ساتھ ہدایتے میں
بھارت کے تویں سال بیش آیا جو مبارکہ کے نام سے مشورہ ہے۔ جب پیغمبر اسلام
نے تمام دنیا کے سرداروں کے نام خطوط بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایک
خط نجران کے رہنماء حارثہ کے پاس بھی بھجا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی
تھی نجران کا پاپ یہ خط پڑھ کر غصے سے سرخ ہو گیا اور اسی وقت اس خط کو پھاڑ
دیا اور پھر نجران کے دوسرے بورگان اور انہم اشخاص کو جمع کر کے مشورہ کیا اس
کے ساتھی کرنے لگے کہ کیونکہ موضوع کا تعلق نبوت سے ہے لہذا ہم اس سلسلے
میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس نے یہ بات عوای آراء میں رکھی تو نتیجتاً یہ طبق پایا
کہ نجران کے تمام مکھیوں کی طرف سے اہل علم کا ایک گروہ پیغمبر اسلام کے پاس
مدینہ جائے اور اس سلسلے میں ان سے مناظرہ کرے تاکہ حقیقت معلوم ہو سکے۔
اگرچہ اس سلسلے میں گفتگو زیادہ ہے۔ (جو لوگ اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں وہ
خارالانوار کی جلد ۲۱ کے صفحے ۳۷۶ میں رجوع کرے)۔

نتیجہ یہ تلاکہ مکھیوں میں سے وہ ۱۳ افراد جو سب سے زیادہ قابل مانے
جاتے تھے پیغمبر اسلام کے پاس مدینے آئے تاکہ آپ سے مناظرہ کریں یہ نجران
کے نمائندے عملاً بھریں زرق و برق والے لباس پہن کر آئے تاکہ جیسے ہی
مدینے میں وارد ہوں تو مدینے کے لوگ ان کی طرف جذب ہونے لگیں اور اس
طرح ضعیف النفس لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بخواہیں۔ پیغمبر اکرم بھی تمام
پہلوؤں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے جب یہ نجران کے نمائندے پیغمبر اسلام کے پاس

آئے تو آپ نے ان کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور دوسرے مسلمانوں نے بھی ان
کے ساتھ کوئی بات نہیں کی آخر وہ تین دن تھے میں حیران و سرگردان
پھرتے رہے کہ ایک دن ان میں سے ایک نے عثمان و عبدالرحمن جوان کے سابق
دوست تھے اس کی وجہ پر چھپی تو انہوں نے ان نمائندوں کو حضرت علیؓ کے پاس
بھیجا جب یہ حضرت علیؓ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہ زرق و برق والے
لباس اپنے سے دور کر کے پیغمبر اسلامؐ کی خدمت میں جاؤ تاکہ ان سے ملاقات
میں کامیابی حاصل کر سکو وہ لوگ حضرت علیؓ کے کہنے کے مطابق فاخرہ لباس
تبديل کر کے گئے اور پیغمبر اکرمؐ سے ملاقات کا ان کو شرف ملا۔ پیغمبر اسلامؐ جو
مسجد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے باقی لوگ آپ کی افتداء
میں نماز پڑھ رہے تھے نجران کے نمائندے آگر اپنے مدحہ کے مطابق بیت
المقدس کی طرف رخ کر کے نماز میں مشغول ہو گئے کچھ مسلمانوں نے ان کو منع
کرنے کی کوشش کی مگر پیغمبر اسلامؐ نے ان کو روکا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان
نمائندوں کو مدینے میں پوری آذوی ملی ہوئی تھی کسی کے زیر اثر نہیں تھے لہذا
تین دن تک ہر روز نماز جماعت کے بعد پیغمبر اسلامؐ اور ان نمائندوں کے درمیان
مناظرے ہوئے جن میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مسیحی و یہودی بھی شرکت کرتے
تھے جس میں سب سے پہلے پیغمبر اسلامؐ نے گفتگو کو شروع کرتے ہوئے ان نجران
کے نمائندوں کو اسلام اور توحید کی طرف دعوت دی کہ اکو ہم سب ایک خدا کی
پرستش کرتے ہیں اور خدا کے فرمان کے مطابق زندگی بصر کریں پھر قرآن کی چد
آنتوں کی تلاوت کی۔

جیخبر اسلام نے سورۃ آل عمران کی آیت ۶۱ کی حلاوت کی اور فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی سی ہے کہ خدا نے ان کو پیغمبر مال باب کے خاک سے پیدا کیا اور اگر باب نہ ہو تو دلیل ہے کہ عیسیٰ خدا کے پیٹے ہیں تو حضرت آدم جن کے مال باب دونوں ہی نہیں تھے ان کو بد رجہ اولی خدا کا پیٹا کہتا چاہئے۔ نجران کے نمائندوں نے جب یہ دیکھا کہ جو بھی ہم پوچھتے ہیں تو **جیخبر اسلام** جواب دیتے ہیں تو جو دنیاوی حرص میں مناظرہ کرنے آئے تھے قائل ہونے کے بعد بھی کہنے لگے کہ آپ کی یہ باتیں ہمیں قائل نہیں کر سکیں لہذا بھر ہے کہ ہم آپس میں مبالغہ کریں یعنی ایک جگہ جمع ہو کر خدا سے رازو نیاز کریں اور جھوٹ بولنے والوں پر نفرین کریں تاکہ خدا جھوٹ بولنے والوں کو ہلاک کر دے۔

جیخبر اسلام نے وہی سورۃ آل عمران کی آیت ۶۱ کے نازل ہونے کے بعد ان کی اس دعوت مبالغہ کو قبول کر لیا اور پھر سب مسلمانوں کو اس خبر سے آگاہ کیا۔ لوگوں میں مبالغہ کی باتیں ہونے لگیں اور لوگ مبالغہ کے انتقام میں تھے۔ بھرت کے نویں سال کا ۲۳ ذی الحجه کا دن آیا نجران کے نمائندوں نے آپس میں پہلے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر مجرم لفڑ و اسباب کے ساتھ آئے تو ان سے مبالغہ کرنے میں نہ ڈرنا اور مبالغہ کرنا گویا چیز پر دہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور اگر کم افراد کے ساتھ آئے تو ان سے مبالغہ نہ کرنا کیونکہ اس حال میں ان کے ساتھ مبالغہ کرنا خطرناک ہے۔ نجران کے نمائندے مبالغہ کی جگہ پر جمع ہو کر تورات و انجیل کی حلاوت اور رازو نیاز کرنے میں معروف ہو گئے اور اس جگہ **جیخبر اسلام** کے آئے کا انتقام کرنے لگے تاگہ انہوں نے دیکھا کہ **جیخبر اسلام** اپنے ساتھ چار دوسرے افراد

اہل نجران : اگر اسلام لانے سے آپ کا مقدس خدا پر ایمان لانا اور خدا کے فرمان پر عمل کرنا ہے تو ہم پسلے ہی سے مسلمان ہیں۔

جیخبر اکرم : اسلام حقیقی کی جو علامات ہیں ان میں سے تمہارے تین اہمال تمہارے مسلمان نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک علامت تمہارا صلیب کی پرستش کرنا، دوسرا علامت سور کے گوشت کو حلال جاننا اور تیسرا علامت عقیدہ کہ خدا کا فرزند ہے۔

اہل نجران : ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ خدا ہیں کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور لا اعلاق یہمار کو شفا دیتے تھے اور مٹی سے پرندہ ہناکر اس میں روح پھوٹکتے تھے، اس طرح وہ مٹی پر زندہ عن کر لائے لگتی تھی، اس طرح کے کام ان کی خدا ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

جیخبر اکرم : نہیں ہرگز ان کے یہ کام ان کی خدائی پر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خدا کے ایک یہی بعدے تھے کہ خدا نے ان کو حضرت مریم کے رحم سے پیدا کیا اور انہیں اس طرح کے مجرمے عطا کئے، ان کا جسم بھی گوشت پوست و رگ و اعصاب وغیرہ پر مشتمل تھا، وہ بھی خدا کھاتے اور پانی پیتے تھے، ایسا شخص خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کا کوئی مثل نہیں ہے۔

نجران کا ایک نمائندہ کرنے لگا حضرت عیسیٰ خدا کے پیٹے تھے اس بات پر ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ان کی ماور مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ کسی نے ازدواج نہیں کی تھی اور پھر بھی حضرت عیسیٰ کی ان سے ولادت ہوئی۔ لہذا ان کا باپ خدا اور وہ خدا کے پیٹے۔

گئے۔ (خارالانوار جلد ۲۱ صفحہ ۳۱۹۔ سیرۃ ابن ہشام جلد ۲ صفحہ ۷۵۔ فتوح البلدان صفحہ ۶۷) خدا خود آیت مبارکہ ہی عظمت الہیت کو بیان کرتی ہے۔

نجران کا تیراگروہ: یہ گروہ قبیلہ بعی حارث سے تھا جس میں بعض لوگ خالد بن ولید کی نمائندگی میں پیغمبر اسلام کے پاس میئے آئے اور تحقیق کرنے کے بعد اسلام لے آئے اور کتنے لگے کہ تم خدا کا لاکھ شتر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت دی۔ پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا تم لوگ کس طرح اپنے دشمنوں پر غالب آتے تھے؟ وہ لوگ کتنے لگے ہم آپنے میں تفرقہ نہیں ہونے دیتے تھے اور کسی پر قلم نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا: یہاں تم نے حق کمل نتیجہ یہ تھا کہ محبوبین کے نمائندوں میں سے پہلا اور تیراگروہ تو اسلام لے آیا مگر دوسرے گروہ کا کام مبارکہ تک پہنچا اور ترک مبارکہ کے بعد حقانیت اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اگرچہ ظاہر میں اسلام کو قبول نہیں کیا کیونکہ ان لوگوں کا مبارکہ کو ترک کروانا خواہ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ لوگ محمد اور اسلام کی حقانیت کو سمجھ پکھے تھے صرف دو چیزوں ایکے اسلام لانے میں مانع تھیں ایک حکومت و ریاست، دوسری نجران کے لوگوں کا خوف و ذر۔

(۸)

امام علیؑ کا معاویہ سے مکاتبہ

معاویہ بن ابو منیان نے حضرت علیؑ کی خلافت میں جگ مصنف کے وقت ایک خط لکھا جس میں اس نے چار مطالبات کئے:

کو لئے چلے آرہے ہیں ایک ان کے داماد علیؑ، دوسرے ان کی بیٹھی فاطمہؓ اور دو ان کے فرزند۔ نجران کے نمائندوں میں شریعتی شخص چلا کر نولا خدا کی قسم میں اسی صورتوں کو دیکھ رہا ہوں جو اگر خدا سے چاہیں کہ پہلا اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ایسا ہی ہو گا لہذا ذردار مبارکہ نہ کرو۔ پھر بھی اگر تم نے محمدؐ کے ساتھ مبارکہ کیا تو نجران کے محبوبین میں سے ایک فرد بھی نہیں تھا کہ گاہذا ایسی بات سنو اور مبارکہ نہ کرو۔ شریعتی کی اتنی تاکید نے دوسرے نجران کے نمائندوں کے دلوں پر اڑکیا جس کی وجہ سے ان پر عجیب ساقطراہ طاری ہوا فوراً انہوں نے ایک شخص کو پیغمبر اسلام کے پاس بھجا اور مبارکہ کو ترک کرنے اور صلح کرنے کی درخواست کی۔ پیغمبر اسلام نے بھی ان چار شرائط کے تحت صلح قبول کر لیا:

اول یہ کہ نجران کے لوگ پابعد ہیں کہ اگر اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں تو ہر سال دو ہزار حلےibus دو قسطوں میں حکومت اسلامی کو ادا کریں۔ دوم یہ کہ جب بھی محمدؐ کا کوئی نمائندہ نجران جائے اس کی ایک ماہ یا اس سے زیادہ مہمان نوازی کی جائے۔

سوم یہ کہ جب بھی یہیں میں اسلام کے خلاف کوئی شور اٹھے نجران کے لوگ پابعد ہیں کہ تیس زرہ، تیس گھوڑے، تیس اونٹ عاریٹا حکومت اسلامی کو دیں۔ چہارم یہ کہ اس صلح نامہ کے بعد سے نجران کے لوگوں میں شراب منوع ہے۔

نجران کے نمائندوں نے اس ترجیب سے ان شرائط کو قبول کر لیا جبکہ حقیقت میں وہ لوگ پہلے ہی نکلت کھا پکھے تھے اور پھر وہ لوگ نجران چلے

جنگی افراد بر لد سے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اس لئے کہ تم یقین میں میر۔ درجہ
بیک نہیں پہنچ ستے اور یاد رکھو اہل شام اہل عراق کی نسبت آخرت کے مسکے میں
زناہ حریص نہیں ہیں۔

چوتھے مطالبے کا جواب : یہ جو تم نے کہا کہ ہم سب عبد مناف کی اولاد سے ہیں اُرچ یہ صحیح ہے لیکن تیرے جد امیہ میرے جد حضرت ہاشمؑ ماتحت نہیں ہیں کیونکہ تیرے دادا کی جگہ میرے دادا عبدالمطلبؑ کی طرح نہیں ہے اور تیرے باپ ابوسفیان اور میرے بیالابطالؑ کے درمیان ہرگز کوئی برادری نہیں ہے اور صاحبین پرگز ان اسیروں کے مانند نہیں ہو سکتے جو کفار اور رسول اکرمؐ کے آزاد کردہ ہوں اور سنو صحیح الشب ہرگز منسوب الپدر کے برادر نہیں ہو سکتے۔ حق پرست بالٹ کی مانند، مؤمن مخدوم کی مانند ہرگز نہیں ہو سکتے اور خدا نے ہمیں مقام نبوت سے منتفع کیا ہے اور یاد رکھو جب لوگ جو حق درج حق اسلام کے گردیدہ ہو رہے تھے اور حق کی طرف آرہے تھے سب کے بعد تم نے دنیاوی ہوس میں اسلام قبول کیا لہذا تمہیں کسی بھی طرح کی فضیلت اسلام لانے میں حاصل نہیں ہے بلکہ آگاہ رہو کہ شیطان تم میں نفوذ کر چکا ہے۔ (نجی البلاغہ نامہ نمبر ۷۱)

(4)

امام علیؑ کا دفاع

خلافت عثمانیہ کے زمانے میں ایک دفعہ مهاجرین و انصار کی تقریباً دو سو افراد پر مشتمل بھیت مسجد نبویٰ میں جمع ایک دوسرے سے گنگوں میں مصروف

پسلا مطالبه شام کی سرزین میرے حوالے کر دیں تاکہ وہاں کی رہبری میں خود کروں۔

دوسری مطالبه جگہ صحن کا بدقرار رہتا، مسلمانوں کی زیادہ خورزی اور عرب کی ہبودی کا سبب نہیں گی بلکہ اسے روکا دیں۔
تیسرا مطالبه اس جگہ میں دو توں طرفین مسلمان ہیں اور اسلام کی اہم شخصیات ہیں۔

چوچا مطالبہ ہم دونوں عبد مناف کے فرزند ہیں جو پیغمبر اکرمؐ کے جد
تھے ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر کوئی برتاؤ حاصل نہیں ہے۔ لہذا انہی
موقع ہے گزشتہ باتوں پر پیشان ہو کر آئندہ کے لئے اپنے اصلاح کر لیں۔ (اتاب
اصفیل لئن مراعم صفحہ ۳۶۸)۔

لام علی نے محاویہ کے ہر سوال کا جواب اس طرح دیا:
 پہلے مطالبے کا جواب: تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں شام کی سرزین دے
 دوں، یاد رکھو جس چیز سے میں تمہیں کل تک منع کرتا رہا آج بھی ہرگز تمہیں نہیں
 دوں گا کیونکہ حکومت الیہ میں کل اور آج کی حد تھیں ہے وہ ہرگز ناالہوں کے
 ہاتھ میں نہیں دی جاسکتی۔

دوسرے مطالبے کا جواب: تم نے یہ لکھا کہ یہ جگ عربوں کی تاریخی کا بہت سختی گی تو یاد رکھو کہ جو یہی جگ میں حق کی طرفداری کرتے ہوئے مرد اس کی جگہ جنت ہے اور اگر باطل کی طرفداری کرتے ہوئے مرد اسکی جہل آتش جنم ہے۔

تیرے مطابے کا جواب: تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے اور ہمارے

خلافت کے بارے میں سنائے اور اٹھنے اور گواہی دے۔ اسی ہنگام میں سلمان، ابوذر، مقداد، عماد، زید بن ارقم، برائیں عاذب اٹھنے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر اکرم سے سا اور یاد رکھا ہے کہ حضرت علیؑ ایک دن پیغمبر اکرمؐ کے نزدیک کھڑے ہوئے تھے اور آپؑ میر پر تشریف فرماتھے کہ آپؑ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ تمہارے لئے امام، اپنا جائشیں اور وصیٰ قرار دو۔ میرے بعد جس کی تم لوگوں نے اطاعت کرنی ہے وہ میرا بھائی علیؑ ہے۔ یعنی میرے بعد تمہارا پیشواد وہ بھما ہو گا۔

و هو فيكم بمنزلتى فيكم فقلدوه دينكم و اطيعوه في جميع اموركم.
”یعنی یہ علیؑ تمہارے درمیان مقام و منزلت کے لحاظ سے میری طرح ہے۔ زندگی کے تمام مراحل میں اس کی اطاعت کرنا۔“ (الغیر جلد اول صفحہ ۱۶۳۔ فائدۃ المسلمین باب ۷۸ سط اول)

اس طرح مولائے کائناتؐ نے اپنی لامت کے دلائل ان کے سامنے میان کر کے ان پر جست تمام کی۔

(۱۰)

امام علیؑ کا معاویہ کو جواب

پیغمبر اکرمؐ کے صحابیوں میں سے ایک حضرت عماد یا سرؓ تھے جنہوں نے کافی عمر پائی اور رسول خداؐ کے بعد حضرت علیؑ کا ساتھ دیتے رہے۔ جنگ صفیہ میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔

تحقیق۔ دونوں گروہ علم و تقویٰ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور قریش کی برتری اور ان کی بھرت کی باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول خداؐ نے قریش کے بارے میں کیا کیا۔ بعض کہنے لگے رسول خداؐ نے قریش کے بارے میں کہا ہے کہ ”الانتم من القریش“ یعنی اتریٰ قریش سے ہوں گے۔ بعض کہہ رہے تھے کہ رسول خداؐ نے فرمایا: ”الناس تبع لقریش و قریش ائمۃ العرب“ یعنی لوگ قریش کے تابع ہیں اور قریش عرب کے پیشواد ہیں۔ ان کی یہ حدیث صحیح سے ظریح رہی۔ اسی اثناء میں کسی نے حضرت علیؑ سے پوچھا کہ آپؑ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علیؑ نے فرمایا دونوں گروہ میں سے ہر ایک اپنی شان و منزلت کی گفتگو کر رہا ہے لیکن میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ خداوند عالم نے کس کے سبب یہ بلند مرتبہ تم لوگوں کو عطا کیا ہے؟ مہاجرین والنصار کہنے لگے پیغمبر اکرمؐ اور ان کے خاندان کے ولیے سے ہمیں یہ عظمت اور بلند مرتبہ ملا ہے۔

امام علیؑ: تم لوگوں نے مج کا کیونکہ تم لوگوں کے لئے سعادت دنیا و آخرت کا ذریعہ ہم خاندان نبوت ہیں اور جیسا کہ میرے پیچازاد بھائی پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: ”میں اور میرا خاندان خلقت آدمؓ سے چودہ سال پہلے حالت نور میں موجود تھے پھر خداوند عالم نے ہمارے نور کو پاک صلبوں میں منتقل کیا تاکہ کسی قسم کی آکوڈگی اس نور کو چھوٹنے نہ پائے، پھر مولائے کائناتؐ نے اپنے بعض فضائل میان فرمائے اور حاضرین سے قسم لی کہ کیا رسول خداؐ نے یہ نہیں فرمایا؟ سب نے اعتراف کیا کہ پوچھ رسول خداؐ نے علیؑ کی شان میں بھی کہا ہے۔ محمدؐ آپؑ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے بھی پیغمبر اکرمؐ سے میری

عمر و عاص کے بیٹے عبد اللہ نے امام کا یہ جواب محاویہ کو پہنچایا جس پر
محاویہ سخت خیز میں عمر و عاص سے کہتے تھے: "کے فرزندِ احص اپنے آپ کو اس
محل سے دور کر۔" یہ سب باتیں گویا خود ایک مناظرہ ہی تھیں جس نے دشمن کی
فکر کو خاک میں ملا دیا۔ (اعیان الحجۃ جلد ۲۲ صفحہ ۲۱۵)

(۱۱)

امام سجادؑ اور ایک شامی مرد

واثقہ کربلا کے بعد امام سجادؑ کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ اسیر کر کے دشمن
لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں شام کا رہنے والا ایک ضعیف شخص امام کے پاس آیا اور
کہنے لگا: "خدا کی حمد و شکر کہ اس نے تم لوگوں کو قتل کیا تھا تو شر کے لوگوں کو
تم سے نجات دی اور امیر المؤمنین (یزید) کو تم پر سلط کیا۔" امام سجادؑ نے ناگاہ
اس مسلمان یوڑھ سے اس طرح مناظرہ کیا کہ اے شخص! تو نے قرآن پڑھا ہے؟
بُوڑھا شخص: تھی ہاں۔

امام سجادؑ: کیا تم نے اس آیت "قل لا استلکم علیہ اجر الا المودة
لی القریحی" کے معنی سمجھ کر چکے ہیں؟ یعنی اے خیراً آپ کہ دیجئے کہ مجھے تم
لوگوں سے تبلیغ رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہئے سو اس کے کہ تم میرے الہیت
سے محبت کرو۔ (سودہ شوریٰ آیت ۲۳)

بُوڑھا شخص: ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔

امام سجادؑ: وہ الہیت رسول ہم لوگ ہیں۔ کیا تم نے سورہ اسراء کی

تیخبر اکرمؐ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا: "تقتلک الباغیہ" اے عماڑا!
جمیں باقی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث دوسرے مسلمانوں نے بھی سن تھی اور ان
کے درمیان تیخبر اکرمؐ کی یہ حدیث کافی مشہور ہو چکی تھی۔

اس بات کو کئی سال غمزد گئے ہیں اس بحکم کہ حضرت علیؓ کی خلافت کا زمانہ
آیا اور حضرت علیؓ اور محاویہ کے پاہیوں کے درمیان جگ ہوئی۔ اس جگ میں
حضرت عمار یاسرؓ جو امام علیؓ کے لفکر میں تھے جگ کرتے کرتے محاویہ کے
پاہیوں کے ہاتھوں قتل ہو کر درجہ شادت پر قاتل ہوتے۔ اب تو جو لوگ جگ و
تروڈ میں تھے کہ محاویہ حق پر ہے یا حضرت علیؓ اس ملقعے کے بعد خیر اکرمؐ کے
فرمان کی روشنی میں ان پر بھی واضح ہو گیا کہ محاویہ لور اس کا لفکر باقی و خالی ہے۔
لہذا محاویہ باطل پر ہے۔ جب محاویہ لے دیکھا کہ لوگوں کی ان باتوں سے اس کے
پاہیوں کے ارادوں میں ضعف پیدا ہو رہا ہے لور ممکن ہے ان کے درمیان
اختلاف ہو جائے تو محاویہ نے سیاست اور غلط میانی سے لوگوں کو دھوکہ دیتے
ہوئے کہا کہ دراصل علاؤ الدینؑ کے قتل کے ذمہ دار علیؓ ہیں کیونکہ وہ عماڑا کو جگ میں
لائے اگر وہ عماڑا کو جگ میں نہ لاتے تو عماڑا قتل نہ ہوتے۔ اس کی اس توجیح سے
بعض افراد گمراہ ہوئے گئے۔

جب حضرت علیؓ نے یہ عالم دیکھا تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:
"اگر محاویہ کا یہ کہنا صحیح ہے تو جگ احمد میں جو خیرؐ کے پیغمبر کوں کے ہاتھوں
قتل ہوئے انہیں بھی کو کہ خیرؐ لے انہیں شہید کر دیا ہے کیونکہ خیرؐ نے انہیں
جگ پر بھجا تھا۔"

”خدا! ہم دشمنان آل محمد چاہے جنات سے ہوں یا انس سے سب سے بیزار ہیں۔“
اور امام کے سامنے توبہ کرنے لگا۔ جب اس بوڑھے شخص کی توبہ کی داستان بیزید
تک پہنچی تو اس نے اس بوڑھے شخص کے قتل کا حکم دیا اس طرح یہ راہ راست
پانے والا بوڑھا شخص محبت محمد وآل محمد میں درجہ شہادت پر فائز ہو۔

(۱۲)

امام صادقؑ کے دست مبارک پر ملحد کا قبولِ اسلام
مصر میں عبد الملک نام کا ایک شخص رہتا تھا اس کے بیٹے کا نام عبد اللہ تھا
لہذا اس نام پر اسے ابو عبد اللہ کہا جاتا تھا۔ عبد الملک ملحد تھا اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ
دنیا خود خود وجود میں آگئی ہے۔ اس نے نہ ہوا تھا کہ شیعوں کے امام حضرت
صادقؑ مدینے میں رہتے ہیں لہذا اس نے مدینے کا سفر کیا۔ جب وہ مدینے پہنچا اور
امام صادقؑ کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ امام مراسم حج انجام دینے کے لئے
مکے گئے ہوئے ہیں وہ مکے کی طرف روانہ ہوا، کنار کعبہ اس کی امام سے ملاقات
ہوئی، امام طواف میں مشغول تھے، وہ بھی طواف کرنے والوں کی صفوں میں داخل
ہو گیا اور اس نے امام کو دشمنی کی وجہ سے کندھا مارا۔ امام نے بڑی نرمی سے پوچھا
تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الملک۔ امام نے پوچھا تیری کیتی کیا ہے؟ اس
نے کہا ابو عبد اللہ۔ امام نے پوچھا وہ سلطان جس کے تم بندے ہو وہ زمین کا حاکم
ہے یا آسمان کا اور تمہاری کیتی جو ابو عبد اللہ ہے تو وہ خدا جس کے بندے کے تم
بآپ ہو وہ زمین کا خدا ہے یا آسمان کا خدا ہے؟ عبد الملک نے کچھ جواب نہ دیا۔ ہشام

آیت ۲۶ پڑھی ہے ”وات ذالقربی حقہ“ یعنی پیغمبرؐ کے قربی کا حق ادا کرو؟
بوڑھا شخص : یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔

امام سجادؑ : وہ رسولؐ کے قربی ہم ہیں۔ اے شخص تم نے سورۃ الفاتحہ
کی آیت ۳۱ پڑھی ہے ”واعلموا انما غنمتم من شی فان للہ حمسه ولرسول
ولذی القربی“ یعنی یاد رکھو جو بھی مال قیمت تمہارے ہاتھ آئے اس کا پانچواں
حصہ خدا اور رسولؐ اور ان کے اقراء کا ہے؟

بوڑھا شخص : ہاں یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔

امام سجادؑ : وہ پیغمبرؐ کے اقراء ہم ہیں۔ اور کیا تم نے سورۃ الحزاب کی
آیت ۳۳ کی حلاوت کی ہے ”انما یرید اللہ لیلہب عنکم الرجن اهل الیت
ویطہر کم تطہیرا“ یعنی اے الٰل ویحٰ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو تم
سے دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے؟

بوڑھا شخص : ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔

امام سجادؑ : ہم وہ خاندان ہیں جن کی شان میں یہ آئیہ تطہیر نازل ہوئی۔

بوڑھے شخص نے جب یہ سب سنا اور حقیقت واضح ہونے لگی تو پیشانی
کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوئے اور وہ کہنے لگا: آپ کو خدا کی قسم! کیا آپ
نے جو کچھ کہا وہ حق ہے؟

امام سجادؑ : خدا کی قسم اور اپنے جد پیغمبرؐ کے حق کی قسم کہ ہم ہی وہ
خاندان نبوت ہیں۔

بوڑھا شخص روئے لگا اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا:

ہونہ زمین میں گئے ہونہ آسمان پر گئے ہو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ وہاں کیا ہے تو اس بھالٹ کے سب کیوں گھر خدا کا انکار کرتے ہو؟ جب تم موجودات زمین و آسمان کے نظام سے نا آشنا ہو جو وجود خدا اور اس کی وحدانیت کی حکایت کرتی ہیں کیوں گھر خدا کا انکار کرتے ہو؟ کیا جو شخص جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا انکار کر دے؟

محمد: آج تک کسی نے مجھ سے اسی گفتگو نہیں کی۔

امام صادق: پس اس بحث پر تم شک و تردید میں ہو کہ شاید زمین کے اندر اور آسمان کے لوپر کوئی چیزیں ہوں یا نہ ہوں۔

محمد: ہاں شاید ایسا ہو۔ اس طرح وہ مکر خدا انکار کے مرحلے سے انکل کر شک و تردید میں پڑ گیا۔

امام صادق: کیا جو نہیں جانتا اس پر جو جانتا ہو دلیل و مہمان لاسکا ہے؟ اے برادر مصری! مجھ سے سن لو اور ذہن شین کرو کہ تم ہرگز وجود خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کیا تم چاند و سورج اور دن و رات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے محیں وقت پر آتے اور جاتے ہیں وہ اپنی حرکت میں دوسرے کے مجبور ہیں اور اگر مجبور نہیں ہیں تو کیوں کبھی دن رات اور دن دن نہیں ہو جاتے؟ اے برادر مصری! خدا کی قسم یہ سب مجبور ہیں کہ ان کو کوئی حکم دے۔

محمد: آپ نے حق کہا۔

امام صادق: اے برادر مصری! ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے کہ زمانہ تمام موجودات کو زندہ کرتا ہے اور سب کو چلا رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو مرنے والے مردوں کو زمانہ پھر سے زندہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اے برادر!

بن حکم جو لام صادق کا شاگرد تھا وہ بھی وہاں پر حاضر تھا اس نے عبد الملک سے کہا لام کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عبد الملک ہشام کی بات سن کر تو اور آگ بھولا ہو گیا لام صادق نے بھرے پیارے کماں پر کرو میرا طوف تمام ہو جائے اسکے بعد تم میرے پاس آنا تو پھر گفتگو کریں گے۔ جب لام نے طوف مکمل کر لیا تو وہ لام کے پاس آکر بیٹھ گیا اس وقت لام کے پاس ان کے پچھے شاگرد بھی بیٹھے تھے اسی اثناء میں لام اور عبد الملک کے درمیان اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا:

امام صادق: کیا تم مانتے ہو کہ زمین کا کوئی ظاہر و باطن ہے؟

محمد: نہیں ہاں۔

امام صادق: کیا زمین کے نیچے گئے ہو؟

محمد: نہیں۔

امام صادق: پس تمہیں کیسے معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟

محمد: زمین کی تہ کا علم تو نہیں ہے لیکن گمان کرتا ہوں کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔

امام صادق: گمان و شک ایک قسم کا علاج ہے جب انسان کسی چیز میں یقین حاصل نہ کر سکے تو پھر گمان پر عمل کرتا ہے۔ پھر لام نے فرمایا کیا آسمان پر گئے ہو؟

محمد: نہیں۔

امام صادق: کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان پر کوئی چیزیں موجود ہیں؟

محمد: نہیں۔

امام صادق: عجیب بات ہے کہ جب تم نہ مشرق گئے ہوت مغرب گئے

امام نے اسکی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا مجھ سے بعضسائل پر مناظرہ کرنے آئے ہو؟
لن ان اہل العوجاء کئنے لگا: اے فرزند رسول بے شک میں اسی مقصد سے آیا ہوں۔

امام صادقؑ: تم پر تجویز ہے کہ ایک طرف خدا کا انکار کرتے ہو
دوسری طرف مجھے پتغیر خدا کا فرزد کہتے ہو۔

لن ان اہل العوجاء: میری عادت مجھے اسی بات کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔

امام صادقؑ: تو پھر تم خاموش کیوں ہو؟

لن ان اہل العوجاء: آپ کا رعب و جلال باعث ہتا ہوا ہے کہ میری زبان
کلام کرنے سے قاصر ہے اگرچہ میں نے بڑے بڑے دانشندوں اور خطبیوں سے حصہ
کی ہے اور انہیں لفکست دی ہے۔ لیکن کوئی مجھے آپ کی طرح مرعوب نہیں کر سکا۔

امام صادقؑ: اب جبکہ تم گنگو شروع نہیں کر رہے تو میں خود گنگو کا
آغاز کرتا ہوں اور پھر آپؑ نے اس سے فرمایا تم کسی کے بناے ہوئے ہو یا نہیں؟
لن ان اہل العوجاء: میں کسی کا بنا یا ہوا نہیں ہوں۔

امام صادقؑ: ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ اگر کسی کے بناے ہوئے ہوتے تو کس
طرح کے ہوتے۔

لن ان اہل العوجاء کافی دیر خاموش رہا اور اپنے زدیک پڑی ہوئی لکڑی کو
ہاتھ میں لیکر جعلی چیزوں کی صفتیں بیان کرنے لگا کہ مصنوعی چیزوں میں اس طرح
کے عیوب مثلاً بڑا یا چھوٹا ہو یا متحرک اور جامد ہونا یہ سب صفتیں پائی جاتی ہیں۔

امام صادقؑ: اگر جعلی چیزوں کی ان صفات کے علاوہ دوسری صفات تم
نہیں جانتے ہو تو یاد رکھو کہ تم خود بھی ایک جعلی ہو لہذا خود کو بھی کسی کا بنا یا ہوا

یہ سب مجبور ہیں کیونکہ آسمان اوپر اور زمین بیچے ہے کیوں آسمان بیچے اور زمین اوپر
چلے نہیں جاتے کیوں موجودات آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے؟
عبدالملک نے جب امامؑ کے یہ حکم استدلال نے تو اب اس کا شک کا مرحلہ بھی
یقین و ایمان میں بدل پکا تھا وہ فوراً امامؑ کے سامنے ہی ایمان لے آیا اور گواہی دی
کہ خدا وحده لاشریک ہے۔ اسلام نہ ہب حق ہے پیشک وہی خدا زمین و آسمان کا
مالک ہے جس نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ روکا ہوا ہے۔ امامؑ کا ایک شاگرد جس کا
نام حمزہ تھا انہا اور کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان پیشک آج جس طرح
مکران خدا آپ کے ہاتھوں ایمان لارہے ہیں اسی طرح کل آپ کے جد پتغیر
اکرمؑ کے ہاتھوں اسلام لائے تھے۔ عبد الملک جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا امامؑ سے
عرض کرنے لگا مجھے ہموں شاگرد قبول کریں۔ امامؑ نے اپنے معتمد علیہ شاگرد
ہشام بن حکم کو بلا یا اور کما عبد الملک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو اسلام کی تعلیم
دو، ہشام امام کی طرف سے مھین کر دہ زبردست استاد تھے، ہشام نے عبد الملک کو
اپنے پاس بلا یا اور اس کو اصول عقائد و احکام اسلام کی تعلیم دی تاکہ وہ ایک بچے اور
پاک عقیدہ کے ساتھ رہ سکے امام ہشام کے اس طریقہ تعلیم کو بہت پسند کرتے
تھے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۲۷۔ ۲۸)

(۱۳)

لن ان اہل العوجاء اور امام صادقؑ

عبدالکریم نامی شخص جو ان اہل العوجاء کے نام سے مشهور تھا ایک دن امام
صادقؑ کی بارگاہ میں آیا، دیکھا امامؑ کے پاس ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی خاموش بیٹھ گیا۔

(۱۲)

لئن الی العوجاء پھر تیرے دن امام صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ سے آج پھر کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔

امام صادق: جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔

لئن الی العوجاء: آپ کے پاس اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا حادث ہے کہ پہلے نہیں تھی اور اب وجود میں آئی ہے؟

امام صادق: ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو تصور کرو اگر کوئی اضافی چیز ہو تو اس کو اس کے ساتھ ختم کرو تو وہ چیز بڑی ہو جائے گی لیکن حال انتقال کا ہے کہ حالت اول میں چیز چھوٹی ہوتی ہے دوسرا حالت میں بڑی ہو جاتی ہے۔ حادث کے معنی بھی لی ہیں اگر وہ چیز قدیم ہوتی تو دوسرا صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر وہ چیز جو تابود یا تغیر ہو، دوبارہ پیدا ہونے اور تابود ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا یہ موجود عدم سے حاصل ہوتا ہے اگر فرض کرو ہر چیز قدیم تھی اور بڑی ہو جانے کی وجہ سے تغیر ہوئی اور حادث ہو گئی ہے تو بھی اسے قدیم ہی مانا جاسکتا کیونکہ ایک ہی چیز قدیم و حادث نہیں ہو سکتی۔

لئن الی العوجاء: چیزوں فرض کریں کہ چھوٹے یا بڑے ہونے کی وجہ حالت ہے جو آپ نے فرمائی جو اس دنیا کے حادث ہونے کی حکایت کرتی ہے لیکن اگر سب چیزوں اپنے چھوٹے سن کی حالت پر باقی رہیں تو آپ کے پاس ان کے حدود پر کیا دلیل ہے؟

امام صادق: ہماری حخت کا محور یہی موجودہ دنیا ہے جو تغیر کی حالت

جانو کیونکہ اسی طرح کی صفات تم اپنے وجود میں بھی پاؤ گے۔

لئن الی العوجاء: آپ نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جو آج تک کسی نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔

امام صادق: اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پہلے کسی نے تم سے اس تم کا سوال نہیں کیا تو یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ آئندہ بھی کوئی اس تم کا سوال تم سے نہیں کرے گا۔ اس طرح تم نے خود اپنی بات پر تقضی وارد کر دیا کہ تمام پہلی اور پچھلی چیزوں مرد ہیں۔ لہذا اس بنا پر ایک چیز کو مقدم اور ایک چیز کو مؤخر مانتے ہو۔ اے عبد الکریم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سونے کے سکون سے بھری ہوئی چیلی ہو اور کوئی تم سے کے کہ اس چیلی میں سونے کے سکے ہیں اور تم جواب میں کوئی نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تم سے کے کہ سونے کے سکے کی علامت کیا ہے تو اگر تم طلائی سکون کی صفت نہ جانتے ہو تو کیا تم اس سے کہ سکتے ہو کہ اس چیلی میں سونے کے سکے نہیں ہیں۔

لئن الی العوجاء: نہیں اگر جانتا ہوں تو نہیں کہ سکتا کہ نہیں ہیں۔

امام صادق: تو یاد رکھو کہ اس جہان کی وسعت اس چیلی سے کہیں زیادہ ہے لہذا اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جہان مصنوع ہے؟ کیونکہ تم تو مصنوعی چیزوں کی خصوصیت کو غیر مصنوع چیزوں کے مقابل میں نہیں جانتے ہو جب مفتوح اس حد تک پہنچی اور لئن الی العوجاء سے کوئی جواب نہ من پڑا تو وہ شرمندہ ہو کر خاموش رہا اس کے باعث ہم مسلمان ہو گئے اور باعث اپنے کفر ہی پر ذلتے رہے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۷۶)

ہیں، اور بے شک ایسا ہی ہے تو ہم ہی کامیاب ہیں اور اگر حق تمہارے ساتھ ہے، اور یقیناً ایسا نہیں ہے تو ہم اور تم دونوں کامیاب ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں حالتوں میں کامیاب ہیں لیکن تم ان دونوں صورتوں میں سے ایک میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی دوران انہی العوجاء کی حالت بدلتے گئی وہ اپنے اطرافیوں سے کئے لگا میرے قلب میں درد محسوس ہو رہا ہے مجھے لے چلو جسے ہی اس کے اطرافی اسے لے چلے وہ راستہ ہی میں مرچکا تھا۔ لہذا وہ اسی طرح کفر کی موت مرل۔

(۱۶)

عبداللہ دیسانی کا ہشام کے سامنے مسلمان ہونا
جیسا کہ پلے گزر اکہ ہشام عن حکم امام صادقؑ کے ایک لاکن شاگرد تھے۔ ایک دن ایک مکر خدا عبد اللہ دیسانی نے ہشام سے ملاقات کی اور کچھ سوالات کئے:

عبداللہ: کیا آپ کا کوئی خدا ہے؟

ہشام: ہا۔

عبداللہ: کیا تمہارا خدا قادر ہے؟

ہشام: ہا وہ ہر چیز پر قدرت و تسلط رکھتا ہے۔

عبداللہ: کیا تمہارا خدا پوری دنیا کو ایک مرغی کے انڈے کے اندر رہ کر سکتا ہے؟ جبکہ دنیا بھوٹی ہو اور نہ مرغی کا انڈا بروآ ہو؟

ہشام: اس سوال کے جواب کے لئے مجھے مہلت دو۔

میں ہے اور اگر اس جہان کے علاوہ دوسرے کسی جہان کی حد تک کریں تو گویا وہ بھی ایک بعد میں آنے والی دنیا ہے یا پسلے والی ہے تو یہ بھی وہی حادث ہونے کے معنی ہیں اور اگر ہول تمہارے چھوٹی چیز اپنی چھوٹی ہی حالت پر باقی رہے تو یہ رہ سکتی ہے مگر جب اسی چھوٹی چیز کے ساتھ کوئی دوسری چھوٹی ہی چیز خصم کی جائے تو وہ یوئی ہو جائے گی لہذا اشیاء کا تغیر و تبدل خود ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔

(۱۵)

انہی العوجاء کی ناگہانی موت

انہی العوجاء اور امام صادقؑ کے درمیان مناظرے کے دوسرے سال کنار کعبہ پر پھر امام صادقؑ سے ملاقات ہوئی۔ امامؑ کے کسی چاہنے والے نے امامؑ سے عرض کی کہ مولا! کیا انہی العوجاء اب تک مسلمان نہیں ہوا؟

امامؑ نے جواب میں فرمایا: اس کا قلب اسلام کے مقابل اندھا ہے وہ ہر گز ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی امامؑ کی نگاہ انہی العوجاء پر پڑی آپؑ نے کہا: اب یہاں کیوں آئے ہو؟

انہی العوجاء کہنے لگا: اپنے مع Howell کے مطابق مسلمانوں کی موسم حج میں دیوالگی، پتھر پر سربار نے اور چونمنے و چکر لگانے کو دیکھنے آیا ہوں۔

امامؑ: تو اب تک اپنی سرکشی اور گمراہی پر باقی ہے؟ انہی العوجاء جیسے ہی بات شروع کرنا چاہتا تھا امامؑ نے فرمایا: مراسم حج میں مجاولہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آپؑ نے اس کی عبار کو ہلاتے ہوئے کہا کہ اگر حقیقت وہی ہے جس کے ہم معتقد

امام صادقؑ: وہ خدا جو اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اس آنکھ کے اندر ہے جو دال کے درمیں ہے تو کیا وہ اس کائنات کو مرغی کے انٹے میں چھوٹا کے بغیر اور انٹے کو بودا کئے بغیر قرار نہیں دے سکتا؟

ہشام اسی وقت اٹھے اور امام صادقؑ کے ہاتھ میزوں کو لوسہ دیا اور کہتے لگا: یا من رسول اللہ! میرے سوال کا اتنا ہی جواب کافی ہے۔ ہشام اپنے گھر چلے گئے دوسرے دن جب عبد اللہ دیصانی ہشام کے پاس آیا اور کہنے لگاں صرف ملنے آیا ہوں نہ کہ گزشتہ دن کے سوال کا جواب یعنی۔ ہشام کہنے لگے اگر اس سوال کا جواب بھی چاہتے ہو تو لو سنو۔ امام کا جواب من و عن نقل کر دیا۔

عبد اللہ دیصانی نے چاہا کہ خود امامؑ کے پاس جائے اور سوالات کرے لہذا وہ امام صادقؑ کے گھر آکر ان کی زیارت سے شرف ہوا اور کہتے لگا: جعفر بن محمد مجھے میرے معبود کی طرف رہنمائی کیجئے۔

امام صادقؑ: تمہارا نام کیا ہے؟

عبد اللہ باہر چلا گیا اور اپنا نام نہ بتایا اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا اس نے جواب دیا میں اگر اپنا نام عبد اللہ یعنی بدہ خدا بتا دیتا تو وہ یہ ضرور پوچھتے کہ جس کے تم بدہے ہو وہ کون ہے؟ عبد اللہ کے دوست کہنے لگے جاؤ امامؑ سے کوئی؟ مجھے معبود کی طرف رہنمائی کریں اور میرا نام نہ پوچھیں۔ عبد اللہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔

امام صادقؑ: جاؤ فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ عبد اللہ جا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثناء میں امامؑ کے ایک فرزند جن کے ہاتھ میں مرغی کا اٹھا تھا اور وہ اس سے کھیل

عبد اللہ: ایک سال تمہیں مملت دیتا ہوں۔

ہشام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور امام صادقؑ کی خدمت میں آگر عرض کرنے لگے فرزند رسولؐ عبد اللہ دیصانی میرے پاس آیا اور ایک ایسا سوال مجھے کیا جس کا جواب میں نہیں دے سکا۔

امام صادقؑ: اس کا سوال کیا ہے؟

ہشام: وہ کہہ رہا تھا کہ کیا خدا اپنا قدرت کے بیش نظر دنیا کو اپنی دسعت کے ساتھ مرغی کے انٹے میں قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟

امام صادقؑ: اے ہشام تمہارے پاس کتنے حواس ہیں؟

ہشام: حواس خمس: (۱) قوت باصرہ (۲) قوت سامنہ (۳) قوت لامسہ (۴) قوت ذائقہ (۵) قوت شامس۔

امام صادقؑ: ان میں سے سب سے چھوٹی قوت کوئی ہے؟

ہشام: قوت باصرہ۔

امام صادقؑ: اس قوت باصرہ کو آنکھ میں قرار دیا گیا ہے، کبھی اس کا اندازہ کیا ہے؟

ہشام: ہی ہاں امامؑ! وہ آنکھ ایک دال کے دائے کے درمیں ہے یا شاید اس سے بھی چھوٹی ہے۔

امام صادقؑ: اے ہشام! ذرا اپنے سامنے، لوپر اور نیچے نگاہ ڈالو اور بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو؟

ہشام: آسمان، زمین، گھر، پہاڑ، بیلان، نہریں، لوگ سب نظر آ رہے ہیں۔

تم لوگ کتھے ہو کہ دو خدا ہیں وہ ان تین تصورات سے خالی نہیں ہیں : (۱) کیا دونوں طاقت ور اور قدیم ہیں (۲) کیا دونوں ناتوان ہیں (۳) یا ایک قوی اور دوسرا ناتوان ہے۔ لہذا اپلی صورت میں کیوں پہلا دوسرے کو میدان سے ہٹا نہیں دیتا تاکہ خود تمہارا اس پوری دنیا پر حکومت کرے۔ لہذا اس دنیا کا ایک ہی نظام ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا حاکم بھی ایک ہے۔ لہذا خدا قوی مطلق ہے۔ تیسرا صورت بھی خدا نے یکتا و واحد کو بیان کرتی ہے اور ہماری بات کو ثابت کرتی ہے کیونکہ وہی خدا قوی ہے جن کی دوسری صورت میں وہ دونوں ایک جنت سے حقن ہیں اور ایک اعتبار سے آپس میں اختلاف ہے اسی صورت میں ضروری ہے کہ ان میں ایک "عابد الامتنیاز" ہو تاکہ ایک کا دوسرے سے احتیاز ہو سکے یعنی اسی چیز جو ایک خدا میں ہو دوسرے میں نہ ہو اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ "ملہ الامتنیاز" قدیم ہو یعنی اندھے ان دونوں خداوں کے ساتھ ہو، تاکہ اگر اسی ترتیب سے فرض کرتے جائیں تو کئی خداوں کا ہونا لازم آئے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ کسی آخری خدا کے قائل ہوں۔

دوفی پرست : وجود خدا پر آپ کی کیا دلیل ہے؟

لامام صادق : یہ پوری دنیا یہ تمام خلق اپنے ہنانے والے کی نشان وہی کرتی ہے جیسا کہ تم ایک اچھی بنتی ہوئی تیار بلڈنگ کو دیکھ کر اس کے ہنانے والے کی تعریف کرتے ہو اگرچہ اس کے ہنانے والے کو تم نے نہ دیکھا ہو۔

دوفی پرست : خدا کیا ہے؟

لامام صادق : خدا تمام چیزوں کو درج کرنے میں حواس کا محتاج نہیں اور نہ خیالات اسکو درک کر سکتے ہیں اور زمانے کے رو بدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔

ربہ تھے دہاں پنجے۔ لامام نے اس پنجے سے کمالاً مجھے یہ اثرا تو دیدو۔ لامام نے اٹھے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے عبدالله کو متوجہ کرتے ہوئے کہا: اے عبدالله دیصانی ذرا اس اٹھے کی طرف نگاہ کرو گے کہ یہ اثرا کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ (۱) موٹی کھال (۲) پھر اس کے پنجے باریک اور مضبوط کھال (۳) وہ سونے اور چاندی کے رنگ کے دریا ہیں جو بھی بھی آپس میں نہیں ملتے۔ نہ سونا چاندی سے مل پاتا ہے اور نہ چاندی سونے سے بلحہ اپنی اسی حالت پر باقی رہے ہیں۔ پھر اگر اسے استعمال نہ کیا جائے اور اسے گرمی دی جائے تو ایک خوبصورت چوزہ اس سے پاہر آتا ہے کیا تمہاری نظر میں یہ سب تخلیقات بغیر تدبیر و ارادے کے وجود میں ہیں؟ عبدالله دیصانی کافی دیر تک سر جھکائے خاموش رہا پھر جب تو راہیں اس کے قلب پر پڑا تو اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ خدا کی طرف سے لوگوں پر جنت ہیں۔ لہذا میں اپنے ساہہ باطل عقیدے سے قبرہ کرتا ہوں اور حق کی طرف آتا ہوں۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۹۷۔ ۸۰)

(۷)

دوفی پرستوں کا لامام صادق سے مکالمہ

دوفی پرست لامام صادق کی بارگاہ میں آئے اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنے لگے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کے دو خدا ہیں ایک نیکوں کا خدا دوسرا بدیوں کا خدا۔ لامام صادق نے ان کے اس عقیدے کی رو میں فرمایا کہ یہ جو

مذینہ کے بعض دوتوں کے مقابلہ تھے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے پرے چالیس سوال لامّ سے کئے اور لامّ نے جواب دیئے، پھر ابو حنیفہ کہنے لگا: "الیس اعلم الناس اعلمہم باختلاف الناس" یعنی کیا لوگوں میں سے زیادہ اعلم وہ نہیں ہے جو مختلف لوگوں کے نظریات سے آگاہ ہو۔ (انوارالمبیہ صفحہ ۱۵۲)

(۱۹)

لام صادقؑ کا ایک "خدا نما" شخص سے مکالہ

لام صادقؑ کے نامے میں ایک شخص جعفر بن درہم نامی بدعت گزار اور اسلام کا خالق تھا اس کے پچھے حجاجتی بھی تھے عید قربان کے دن اسے سزاۓ موت دی گئی۔ اس نے ایک دن ایک شیخ میں پچھے پانی و خاک ڈالی، جب تھوڑے دنوں بعد اس شیخ میں حشرات پیدا ہوئے تو اس نے لوگوں میں آکر صد اور کہ ان حشرات کا پیدا کرنے والا میں ہوں کیونکہ میں ان کی پیدائش کا سبب ہاں ہوں لہذا ان کا خدا میں ہوں پچھے مسلمانوں نے جب یہ خبر لام صادقؑ تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا ذرا اس سے جا کر پوچھو کہ اس شیخ کے اندر کتنے حشرات ہیں؟ اور ان میں سے کتنے نر اور کتنے مادہ ہیں؟ ان کا وزن کتنا ہے؟ اور اس سے کو کہ ذرا ان کو دوسرا ٹھکل میں تبدیل کر دے کیونکہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اسے اتنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ اس کی ٹھکل و صورت کو تبدیل کر سکے۔ لہذا جب لوگوں نے اس "خدا نما" سے جا کر اس تمّ کے سوالات کے تواہ جواب نہ دے سکا۔ اس طرح اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ (سغیۃ المبارکہ جلد اول صفحہ ۷۵)

(۱۸)

منصور کے دربار میں ایک مکالہ

لن شر آشوب مند ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن بن زیاد نے خپلوں کے لام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ فقیرہ شخص کون ہے؟ ابو حنیفہ نے اس کے جواب میں کمالوگوں میں فقیرہ ترین شخص جعفر بن محمد یعنی "لام صادقؑ" ہیں کیونکہ جب منصور دو اوقی (جو دوسرا عبادی خلیفہ تھا) نے حضرتؐ کو اپنے پاس بلایا اور مجھے اس طرح کا پیغام بھیجا کہ اے ابو حنیفہ لوگ بہت زیادہ جعفر بن محمدؑ کے فریقت ہو گئے ہیں لہذا کچھ سخت تم کے مسائل تیار کرو تاکہ ان سے ایسا مناظرہ کیا جائے جن کا وہ جواب نہ دے سکیں اور ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہ سے گر جائے چنانچہ میں نے ۳۰ سوال تیار کئے اور منصور کے پاس کوفہ و مصرہ کے درمیان واقع ایک شر، جا پہنچا۔ جب میں وہاں دربار میں پہنچا تو دیکھا لام صادقؑ منصور کی سیدھی طرف پہنچے ہوئے ہیں، جیسے ہی میری نگاہ لام صادقؑ پر پڑی تو ایک عجیب قسم کا رعب و جلال میرے قلب پر اڑا نداز ہوا جو منصور کو دیکھنے سے بھی نہ ہوا تھا، میں نے سلام کیا، منصور نے مجھے پہنچنے کو کہا اور لام صادقؑ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا یہ ہیں ابو حنیفہ۔ لام صادقؑ نے فرمایا ہاں میں اس کو پہنچانا ہوں۔ پھر منصور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اپنے سوالوں کو شروع کرو۔ میں ایک ایک سوال کر کے پوچھتا رہا، لامؑ مجھے جواب دیتے رہے اور فرماتے رہے اس مسئلے میں تم لوگ یہ کہتے ہو جیسیں والے یہ کہتے ہیں اہل مدینہ یوں کہتے ہیں۔ لامؑ کے جوابات ہمارے نظریہ کے موافق تھے۔ بعض اہل

(۲۰)

کیا آپ اس جواب کو جائز سے لائے ہیں

ابو شاکر دیسانی لام صادقؑ کے زمانے کا بڑا مشور و معروف دانشمند تھا۔
خداۓ واحد کا انکار کرتے ہوئے دو خدا مانتا تھا۔ ایک نور کا خدا ایک خلقت کا خدا
اور اپنی کلامی گنتگو سے اس کو ثابت بھی کرتا تھا اسی لئے وہ مدحہب دیسانی کا رئیس
قرار پیدا اس کے کمی شاگرد تھے حتیٰ کہ خود ہشام بن حکم (پہلے کچھ عرصہ اسی کے
شاگردوں ہے تھے) اب اس کے تراشے ہوئے اشکالات کا ایک تمدن ملاحظہ کریں:

ابو شاکر کی نظر میں اس نے قرآن پر اشکال کیا تھا لہذا ایک دن وہ ہشام
بن حکم (جو کہ لام صادقؑ کے خاص شاگرد تھے) کے پاس آیا اور کہتے گا: قرآن
میں ایک آیت ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق دو خدا ہونے کی تصدیق کرتی
ہے۔ ہشام: وہ کوئی آیت ہے؟ ابو شاکر: سورۃ زخرف کی آیت ۸۳: "وَهُوَ الَّذِي
فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ لِمَنْ يَعِدُهُ بِهِ جَزِيلٌ مَّا يَحْكُمُ
بَهِي مَعْبُودٌ بَهِي لِمَذْدُوهٍ بَهِي اُور زمین کا بھی معبدو ہے، آسمان کا
بھی معبدو ہے۔ لہذا آسمان کا بھی ایک معبدو ہے اور زمین کا بھی ایک معبدو ہے۔
ہشام کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے جواب دوں اسی سال میں
خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور لام صادقؑ سے یہ ماجرا بیان کیا۔ لام صادقؑ
نے فرمایا: یہ گنتگو اس بے دین خبیث کی ہے جب تم واپس لوٹا تو اس سے پوچھنا
تیرا کونے میں کیا نام ہے؟ وہ کہے گا فلاں، پھر اس سے پوچھنا تیرا المصرہ میں نام کیا
ہے؟ وہ کے گا فلاں، پھر اس سے کہتا ہمارا پروردگار بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا زمین
میں بھی نام "الله" ہے اس کا آسمان میں بھی نام "الله" ہے۔ اسی طرح وریا صحراؤں

میں ہر مکان میں اس کا نام "الله" و معبدو ہے۔

ہشام کہتے ہیں کہ جب میں واپس لوٹا اور ابو شاکر کے پاس جا کر اس کے
سوال کا یہ جواب دیا تو وہ کہتے لگا یہ تمہارا جواب نہیں ہے کیا اس جواب کو جائز سے
لائے ہو؟ (سفیہۃ الحمار صفحہ ۱۲۸)

(۲۱)

شاگردان لام صادقؑ کا ایک شامی دانشمند سے مکالمہ

لام صادقؑ کے زمانے میں ایک شام کا دانشمند (جو سنی عالم دین تھا) مکہ آیا
اور لام صادقؑ کے سامنے اپنا یوں تعارف کر لیا کہ "میں علم کلام و فتنہ سے آشنا
ہوں، یہاں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کرنے آیا ہوں۔"

لام صادقؑ: تمہاری گنتگو پیغمبرؐ کے اقوال کی روشنی میں ہے یا اپنی
طرف سے؟

شامی دانشمند: کچھ پیغمبرؐ سے میں گئی ہے، کچھ اپنی طرف سے ہے۔

لام صادقؑ: پس تم پیغمبرؐ کے شریک ہوئے؟

شامی دانشمند: نہیں میں پیغمبرؐ اکرمؐ کا شریک نہیں ہوں۔

لام صادقؑ: کیا تم پروتی نازل ہوتی ہے؟

شامی دانشمند: نہیں۔

لام صادقؑ: اگر اطاعت پیغمبرؐ کو واجب جانتے ہو تو کیا اپنی اطاعت کو
بھی واجب جانتے ہو؟

جو مکہ میں حرم کے اطراف میں پہاڑ پر لام کے لئے لگایا گیا تھا اور جب لام نے دیکھا تو لام کی نگاہ ایک بھاگتے ہوئے اوٹ پر پڑی آپ نے فرمایا کعبہ کے خدا کی قسم یہ اوٹ سوار ہشام ہے جو یہاں آ رہا ہے۔

حاضرین سوچنے لگے کہ شاید ہشام سے لام کی مراد وہ ہوں جو عقیل کے فرزند ہیں کیونکہ انہیں لام زیادہ دوست رکھتے تھے۔ نگاہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اوٹ نزدیک ہوا اور سوار ہشام نے حکم ہیں جو لام کے خاص بڑے شاگرد تھے، لام کے پاس آئے۔ اس وقت ہشام نوجوان تھے اور ان کی داڑھی کے بال تازے آتا تڑوں ہوئے تھے دیگر حاضرین ان سے سن و سال میں بڑے تھے۔

جیسے ہی ہشام آئے لام صادق نے ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا اور ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ دی اور ان کے پارے میں فرمایا: "هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ویدہ" یعنی ہشام اپنے دل و زبان اور عمل سے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ پھر لام ان علم کلام کے ماہر شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک ایک کو اس مانشندتائی سے مناظرہ کرنے کو کہا۔

پہلے حمران سے کہا تم جاؤ اور اس مرد شایی سے مناظرہ کرو وہ گئے اور اس مرد شایی کے ساتھ مناظرہ کیا اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ مرد شایی حمران کے سامنے بے جواب ہو گیا۔ پھر لام نے مؤمن الطاق سے کہا کہ اب تم اس شایی سے جا کر مناظرہ کرو۔ انہوں نے جا کر اس مرد شایی سے مناظرہ کیا ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کو اس مرد شایی پر فتح ہوئی۔ پھر لام نے ہشام بن سالم سے کہا یہ بھی گئے مگر یہ اس مرد شایی کے مقابلے میں مدد رہے۔ اس وقت لام نے قیس

شامی داشمند: قیس، اپنی اطاعت کو واجب نہیں جانتا۔ لام صادق نے اپنے ایک شاگرد یونس بن یعقوب کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے یونس! اس سے پسلے کہ تم اس کے ساتھ حصہ و مناظرہ کرو اس نے اپنے آپ کو مغلوب کر لیا ہے کیونکہ بغیر دلیل کے اپنی بات کو جھت جانتا ہے۔ اے یونس! اگر تم علم کلام کو صحیح طریقے سے جانتے ہوئے تو اس مرد شایی کے ساتھ تم مناظرہ کر سکتے تھے۔ (علم کلام اصول و عقائد کا علم ہے جو استدلات عقلی و نطقی سے حصہ کرتا ہے)۔

یونس نے کہا: افسوس ہو مجھ پر کہ میں علم کلام کے بارے میں آگاہی میں رکھتا، لیکن مولا! میں آپ پر قربان ہو جاؤں آپ ہی نے مجھے حصول علم کلام سے منع فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ والے ہو ان لوگوں پر جو علم کلام سے سروکار رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط، یہ سمجھ میں آ رہا ہے اور وہ نہیں۔

لام نے فرمایا: میں نے جو روکا تھا وہ اس کلام سے روکا تھا جو اپنی طرف سے جعل کیا ہو اور ہم الجیت کا کلام نہ ہو۔ اے یونس! تم باہر جاؤ اور جس مکلم یعنی علم کلام کے جانے والے کو دیکھو یہاں لے کر آؤ۔

یونس کہتے ہیں کہ میں لام کے پاس سے رخصت ہوا اور علم کلام میں عبور رکھنے والے چار افراد حمران بن اعین، مؤمن الطاق احوال، ہشام بن سالم اور قیس بن ماصر کو جو میری نظر میں علم کلام میں زیادہ ماہر تھے اور جنہوں نے علم کلام سجادہ سے سیکھا تھا، لے کر لام کی خدمت میں پہنچا۔

جب سب صحیح ہو گئے تو لام صادق نے اپناء سر خیمہ سے باہر نکلا اور ہی خیمہ

ہوں اور انسانوں کے درمیان اس نے دوستی والفت پیدا کی تاکہ اس الفت و دوستی کے سبب ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو قوانین الٰہی سے آگاہ کریں۔

ہشام: وہ خدا کی مجحت کیا ہے؟

مرد شامی: وہ مجحت خدا، رسول خدا ہیں۔

ہشام: رسول خدا کے بعد مجحت خدا کون ہے؟

مرد شامی: رسول خدا کے بعد مجحت خدا قرآن و سنت ہے۔

ہشام: کیا قرآن و سنت آج کل کے اختلافات دور کرنے کے لئے

قادکہ مند ہیں؟

مرد شامی: ہاں۔

ہشام: پس کیوں میرے اور تمہرے درمیان اختلاف ہے جس کی وجہ

سے تم شام سے یہاں کے آئے ہو؟ مرد شامی اس سوال کے سامنے خاموش رہا اور امام صادقؑ نے اس سے کہا کیوں جواب نہیں دیتے؟

مرد شامی: میں اگر ہشام کے جواب میں یہ کیوں کہ قرآن و سنت

ہمارے درمیان اختلافات کو دور کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہو گی کیونکہ قرآن و سنت کی عبارات مختلف ہیں، اگر یوں کیوں کہ ہمارا اختلاف فقط قرآن و سنت کو سمجھنے

میں ہے جو ہمارے عقیدے کو ضرر نہیں پہنچاتا تو دوسری طرف ہم میں سے ہر ایک اوعاء حق کرتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن و سنت ہمارے رفع اختلاف کے لئے تو سود مند نہیں ہیں۔

امام صادقؑ: اب سوال کا جواب ذرا خود ہشام سے پوچھو، وہ خود تمہیں

بن ماصر سے کہا وہ بھی گئے اور اس مرد امی سے مناظرہ کیا لامام جوان سب مناظروں کا مشاہدہ فرمائے تھے مگر اے کیونکہ اب وہ مرد شامی بالکل مغلوب ہو چکا تھا اور اس کے پھرے سے عاجزی ظاہر ہو رہی تھی۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۷۱)

(۲۲)

ہشام بن حکم کا مرد شامی سے مکالہ

جیسا کہ پہلے والے مناظرے میں گزرا کہ ہشام بن حکم امام صادقؑ کے خاص شگرد تھے اور امامؑ نے اس شامی دانشمند سے کہا: اے شخص! اب ذرا اس جوان سے مناظرہ کرو وہ مرد شامی ہشام بن حکم سے مناظرہ کرنے پر تیار ہو گیا ان دونوں کی گفتگو امامؑ کے سامنے اس طرح سے شروع ہوئی:

مرد شامی: اے جوان! تم اس مرد "یعنی امام صادقؑ" کی امامت کے بارے میں مجھ سے سوال کرو کیونکہ میں اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔

ہشام نے جب اس مرد شامی کی امامؑ کے بارے میں اس طرح کی بے ادبی و گستاخی دیکھی اور سنی تو غصہ کے مارے ان کا بدنبال لرزنے لگا اس عالم میں اس مرد شامی سے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ خدا تمام بندوں کی نیادہ خیر و سعادت چاہتا ہے یا صرف اپنے خاص بندوں کی خیر و سعادت چاہتا ہے؟

مرد شامی: خدا تمام بندوں کی خیر و سعادت نیادہ چاہتا ہے۔

ہشام: تو پھر خداوند عالم نے بندوں کی خیر و سعادت کیلئے کیا کیا ہے؟

مرد شامی: خدا نے لوگوں پر مجحت تمام کر دی ہے تاکہ یہ لوگ گمراہ نہ

نور ایمان اس کے قلب میں اڑ کر چکا تھا، خوشی سے کہنے لگا کہ آپ نے حج کہا،
اب میں خدا نے وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔

امام صادقؑ: اب جبکہ ایمان لائے ہو تو اسلام کا درجہ ایمان سے پلے
ہے کیونکہ اسلام ہی کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کا ارث لے سکتے ہیں، آپس
میں ازدواج کر سکتے ہیں، لیکن ثواب کا حاصل کرنا ایمان پر موقوف ہے تم پلے
مسلمان تھے مگر میری امامت کو قبول نہیں کرتے تھے، اب میری امامت قبول
کرنے کے بعد تم نے اپنے اعمال کے ثواب کو بھی حاصل کر لیا۔

مرد شامی: آپ نے بالکل صحیح فرمایا اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ
خداوہدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور آپ
رسول خدا کے جانشین ہیں۔

اب امام صادقؑ نے اپنے شاگردوں کے مناظرات کے سلسلے میں اپنے
نظریات دینا شروع کئے ”حران“ سے کہا: تم کیونکہ اپنی گفتگو کو احادیث سے ہم
آہنگ کرتے ہو اس لئے آگے بڑھ جاتے ہو اور صحیح مطلب تک پہنچ جاتے ہو۔

ہشام بن سالم سے کہا: تم اگرچہ اپنی گفتگو میں احادیث کو لاتے ہو مگر ان
کو صحیح طریقے سے جاری نہیں کر پاتے۔

مؤمن الطاق سے کہا: تم بہت زیادہ قیاس و تشبیہ کے ذریعے محض کرتے
ہو اور اصل موضوع محض سے خارج ہو جاتے ہو اور باطل کے ذریعے باطل کو رو
کرتے ہو تمہارا باطل زیادہ روشن ہے۔

قیس بن ماصر سے کہا: تم اس طرح سے گفتگو کرتے ہو کہ گویا حدیث

اس کا تسلی ہش حواب دیں گے جن کا وجود علم و کمال سے مرشدar ہے۔

مرد شامی: کیا خدا نے کسی شخص کو بھر کے پاس ان کے درمیان اتحاد
کرنے کے لئے بھجا ہے؟ تاکہ لوگوں کے درمیان حق و باطل میں فرق ہو جائے۔

ہشام: رسول خدا کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں؟

مرد شامی: رسول خدا کے زمانے میں تو خود رسول خدا تھے آج کے
دور میں وہ کون ہے؟

ہشام: امام صادقؑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ہیں جو جدت خدا
ہیں اور ہمارے درمیان کے اختلاف کو دور کرنے والے ہیں، جو علم و نبوت کو
میراث میں پانے والے ہیں، جو ان کو ان کے آباء و اجداد سے ملے ہیں، جو ہمارے
لئے زمین و آسمان کی خبریں دیتے ہیں۔

مرد شامی: میں کس طرح سمجھوں کہ یہ شخص وہی جدت خدا ہیں؟

ہشام: جو کچھ چاہتے ہو ان سے پوچھ لو تاکہ ان کے حق ہونے کے
بادے میں ہمیں یقین حاصل ہو جائے۔

مرد شامی: اے ہشام! تم نے تو اس گفتگو سے میرے لئے اس کے سوا
کوئی عذر نہیں چھوڑا کہ میں ان سے سوال کروں اور حقیقت کو پہنچوں۔

امام صادقؑ: کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے سفر کے حالات بتاؤں کہ
کس طرح سے تم شام سے یہاں آئے ہو؟ پھر امام نے کچھ مقدار میں اس کے سفر
کے حالات بتانے کے۔

مرد شامی امامؑ کے ان بیانات سے حیران رہ گیا، وہ حقیقت جان چکا تھا،

جاثیت کا امام کاظمؑ کے دست مبارک پر قبول اسلام

شیخ صدوقؑ اور دوسرے علماء ہشام بن حکم سے روایت کرتے ہیں کہ جاثیت (سکھیوں کا ایک بڑا عالم دین و دانشمند) جس کا نام ”بریسہ“ تھا اس نے ستر سال تک سیکھی مذہب کے مظاہن زندگی میر کی لیکن وہ حق کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی خدمت کے لئے ایک عورت بھی تھی، بریسہ نے مسیحیت کے ناقص دلائل کو اس عورت سے پوشیدہ رکھا تھا لیکن یہ عورت اس بات سے آگاہ ہو گئی۔ بریسہ جو حق کی تلاش میں لگا رہتا تھا علمائے اسلام سے معلومات حاصل کر رہتا تھا لیکن اس نے جس فرقہ کے بارے میں بھی حقیقت کی اسے حق نام کی کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دی تو اس نے کہا اگر تمہارے رہبرِ حق ہوتے تو یقیناً تمہارے ہاں حق ہوتا، یہاں تک کہ اس نے اوصاف شیخہ اور ہشام بن حکم کا نام سن۔ یونس بن عبد الرحمن (جو امام صادقؑ کے شاگرد تھے) کہتے ہیں کہ مجھ سے ہشام نے نقل کیا کہ وہ بابِ الکرخ میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ اس سے قرآن سیکھ رہے تھے کہ اس دوران تقریباً سو افراد پر مشتمل سکھیوں کا ایک گروہ جس میں بریسہ بھی شامل تھا چلا آ رہا ہے۔ سب کے سب کالے لباس زیب تن کئے ہوئے تھے، بھی بھی نوچیاں پہنے ہوئے تھے، بریسہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میری دکان پر جمع ہو گئے۔ میں نے بریسہ کو ایک کرسی دی۔ وہ اس پر بیٹھ گیا اور اپنے عصاء کا سمارا لیتے ہوئے بولا: میں نے مسلمانوں میں کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جو علم کلام (عقائد) میں دسٹرس رکھتا ہو اور میں نے اس سے مسیحیت

پیغمبر اکرمؐ سے نزدیک ہو مگر پھر دور ہو جاتے ہو اور حق کو باطل سے مخلوط کر دیتا ہے۔ تم اور مومن الطاق دو توں حق کو کھنچ کر لے جاتے ہو اس جنت سے تم دونوں میں کافی محارت ہے۔

یونس کہتے ہیں: ”خدا کی قسم میں سمجھا کہ امام ہشام کے بارے میں بھی فرمائیں گے جو قیس کے بارے میں فرمایا تھا“ لیکن امامؑ نے ہشام کی اچھے القاب کے ساتھ تعریف کی اور کہا: ”یا ہشام لا تکاذ تقع تلویبی رجلیک اذا همت بالارض طرث“ یعنی اے ہشام جب بھی تم اپنے آپ میں کامیابی کی نشانی کا احساس کر لیتے ہو تو بہت اچھے طریقے سے اپنے کو نجات دیتے ہو۔ پھر امامؑ نے ہشام سے کہا کہ تم چیزیں ماهر خلیبوں کے لئے ضروری ہے کہ مناظرے کیا کرو اور یاد رکھو اپنی خلوں میں لغزش نہ کھانابے شک خدا کی مدد کے ساتھ ہماری شفاقت ایے لوگوں کے لئے ہے جو اس طرح کے حد و مناظرے کرتے ہیں۔

نتیجہ: امام صادقؑ ہشام بن حکم کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں

کہ ”ہشام حق کا وقایع کرنے والے، ہمارے اقوال دوسروں تک پہنچانے والے، ہماری حقیقت کو ثابت کرنے والے اور ہمارے دشمنوں کے بے ہودہ مطالب کو باطل کرنے والے ہیں۔ لہذا جو بھی ان کی بیرونی کرے گویا اس نے ہماری بیرونی کی اور جس نے ان کی مخالفت کی اس نے ہماری مخالفت کی۔“ (الثانی صفحہ ۱۲)

گھر پنجے تو دیکھا کہ گھر کے دالان میں امام صادقؑ کے ساتھ امام کا ظلم بھی تشریف فرمائیں۔ ”نائب المناقب“ کی روایت کے مطابق ہشام نے امام جعفر صادقؑ اور امام کا ظلم کو سلام کیا۔ بدیمہ نے بھی دونوں کو سلام کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اس وقت امام کا ظلم کسن تھے اور شیخ صدوقؑ کی روایت کے مطابق ہشام نے خود ہی بدیمہ کی داستان امام کا ظلم سے بیان کی۔ اس طرح امام کا ظلم اور بدیمہ میں گفتگو شروع ہوئی:

امام کا ظلم : تم کس حد تک اپنی کتاب کے بارے میں جانتے ہو؟
بدیمہ : مجھے انجیل کے بارے میں کافی معلومات ہیں۔

امام کا ظلم : تم کس حد تک اسکے باطنی معنی کی تاویل پر اعتماد رکھتے ہو؟
بدیمہ : جس حد تک علم ہے اسی حد تک اعتماد بھی ہے۔

پھر امام کا ظلم نے انجیل کی چند آیات کی حلاوت کی۔ بدیمہ امام کی قراءت سے متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت سیعؓ بھی اسی طرح انجیل کی حلاوت کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی حلاوت صالحین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر بدیمہ امام کا ظلم سے کہنے لگا: ”ایاک کنت اطلب مnde خمسین سنة او مثلك“ میں پچاس سال سے آپ یا آپ کے مثل افراد کی تلاش میں تھا۔ یہ کہہ کر بدیمہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ پھر ہشام، بدیمہ اور اس کی بیوی کو امام صادقؑ کی طرف متوجہ ہوئے اور بدیمہ کے اسلام لانے کا ذکر کیا۔

امام صادقؑ نے فرمایا: ”ذریۃ بعضها من بعض و اللہ سمیع علیم“ (سورہ آل عمران آیت ۳۳) بعض کو بعض کی ذریت سے ان کی پاکیزگی اور کمال کی

کی حقانیت کے سلسلے میں مناظرہ کیا ہو اور وہ مجھے مطمئن کر سکا ہو۔ اب میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ اسلام کی حقانیت کے بارے میں تم سے مناظرہ کروں۔ یونس بن عبدالرحمن نے ہشام اور بدیمہ کے درمیان ہونے والے مناظرے کو بیان کرتے ہوئے ہشام کی کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ کافی بھی چوڑی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بدیمہ کے ساتھی یہ کہتے ہوئے منتشر ہونے لگے کہ کاش ہم ہشام سے مناظرہ نہ کرتے اور خود بدیمہ بھی اس مناظرے میں نکلت کھانے کے بعد کافی غلکٹن ہوں جب گھر پہنچا تو اس کی بھوی نے اس سے غلکٹن ہونے کی وجہ پر جھی تو بدیمہ نے ہشام سے اپنے مناظرے اور ناکامی کو بیان کیا۔ بدیمہ کی بھوی کہنے لگی والے ہو تم پر، کیا تم حق پر ہونا چاہتے ہو یا باطل پر؟ بدیمہ نے کہا: میں حق کے ساتھ جینا چاہتا ہوں اور حق پر مرننا چاہتا ہوں۔ بدیمہ کی بھوی کہنے لگی تو انقلاب کسی پیچے کا ہے جس طرف حق ہے اسی طرف ہو جاؤ اور اپنی ہٹ دھری چھوڑ دو کونکہ یہ ایک قسم کا شک ہے جو بردا ہے اور اہل شک جنم میں جلانے جائیں گے۔ بدیمہ نے اپنی بھوی کی بات مانی اور ارادہ کیا کہ صحیح ہشام کے پاس جائے گا۔ صحیح جب وہ ہشام کے پاس گیا تو دیکھا کہ ہشام تبا دکان پر بیٹھے ہیں۔ ہشام کو جا کر سلام کیا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی بات کو محبت مانتے ہوئے اس کی بیروی کی جائے؟ ہشام نے کہا ہاں ہے۔ بدیمہ نے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا۔ ہشام نے امام صادقؑ کے اوصاف بیان کئے۔ بدیمہ کو امام صادقؑ سے ملنے کا اشتیاق ہوا۔ لہذا ہشام کے ساتھ بدیمہ اور اس کی بیوی نے عراق سے مدینے کا سفر کیا۔ جب مدینے میں امام صادقؑ کے

جعفر سے کچھ سوالات کروں جس کے پر جواب نہ دے سکیں۔

محمدی عباسی : ہاں اجازت ہے۔

ابو یوسف لام کاظم سے بولا اگر اجازت ہو تو آپ سے کچھ سوالات کروں؟ لام کاظم نے فرمایا: ہاں سوال کرو۔

ابو یوسف : آیا اس شخص کے لئے جو حالت احرام میں ہو سایہ تھے چنان جائز ہے؟

لام کاظم : جائز نہیں ہے۔

ابو یوسف : اگر غرم کسیں قیام کرے تو اس صورت میں اس کے لئے وہاں زیر سایہ چنان جائز ہے یا نہیں؟

لام کاظم : اب اس صورت میں اس کیلئے سائے تھے چنان جائز ہے۔

ابو یوسف : ان دونوں سایہ میں کیا فرق ہے کہ پہلا جائز نہیں اور دوسرا جائز ہے؟

لام کاظم : اس مسئلے کو اس طرح سمجھو کر کیا عورت عادت مانند میں چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرے گی؟

ابو یوسف : نہیں۔

لام کاظم : اور ان لیام میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہے یا نہیں؟

ابو یوسف : ضروری ہے۔

لام کاظم : اب اس میں ذرا بتاؤ کہ کیا فرق ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزہ کی قضا ہے۔

ہمار پر لیا گیا ہے۔ یہیک خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

بریسہ اور امام صادقؑ کے درمیان گفتگو:

بریسہ : میں آپ پر فدا ہوں، یہ تورات و انجیل اور آسمانی کتابیں آپ لوگوں تک کس طرح پہنچی ہیں؟

امام صادقؑ : یہ کتابیں ان سے ہمیں درستے میں ملی ہیں۔ ہم انہیں کی طرح ان کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر جنت تمام ہو اور کسی کے پاس کوئی بحث نہ رہے۔

اس وقت سے لیکر مرتبہ دم تک بریسہ امام صادقؑ کے تابعین و ناصرین میں رہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خود امام صادقؑ نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، قبر میں اتارا اور فرمایا: "هذا من حواري المسيح عليه السلام يعرف حق الله عليه" یعنی یہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھا اور خدا کے حق کو پہچانتا تھا۔

اکثر دوسرے اصحابِ امام صادقؑ بریسہ جیسے مقام معنوی کی آرزو کیا کرتے تھے۔ (انوار البریسہ صفحہ ۱۸۹)

(۲۳)

لام کاظم کے پاس ابو یوسف کا علاج

ایک دن مختلف الہمیت عالم ابو یوسف اور خلیفہ مسیحی عباسی، لام کاظم کے پاس پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے مسیحی سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں موسیٰ بن

ابویوسف : خدا کی طرف سے اسی طرح حکم آیا ہے۔

امام کاظمؑ : پس جو شخص حالت احرام میں ہے اس کے لئے بھی اسی طرح کا حکم آیا ہے مسائل شرعی کو قیاس نہیں کرنا چاہئے۔

ابویوسف اس جواب کو سن کر ہی خاموش ہو گیا۔ مددی عبایی اس سے کہنے لگا تم امام کو نکلت دینا چاہ رہے تھے مگر ایمانہ ہو سکا۔

ابویوسف کہنے لگا: "رمانی بحجر دامع" یعنی امام موسیٰ ان جعفرؑ نے تو مجھے سخت شکنچے دار پتھر کے ذریعے ہلاک کر دالا۔ (عینون اخبار الرضا جلد اول صفحہ ۲۸)

(۲۵)

امام کاظمؑ کا ہارون سے مکالہ

ہارون رشید— پانچویں عبایی خلیفہ نے ایک روز امامؑ سے اس طرح گفتگو شروع کی کہ آپ عام و خاص کے درمیان نسبت کے قائل ہیں اور خود کو رسول خدا سے نسبت دیتے ہیں کہ آپ اولاد مجیبر اکرمؑ ہیں جبکہ مجیبرؑ کا کوئی پیدا نہیں تھا تاکہ ان کی نسل چل سکتی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ نسل پیٹے کے ذریعے چلتی ہے نہ کہ بیشی کے ذریعے جب کہ آپ لوگ ان کی بیشی کی اولاد ہیں۔ لہذا مجیبرؑ کی اولاد نہیں ہیں۔

امام کاظمؑ : اگر مجیبر اکرمؑ اس وقت ہوتے اور تجوہ سے تیری بیشی کا روشن مانگتے تو کیا تم ان کو ثابت جواب دیتے؟

ہارون : عجیب ہے میں ان کو ثابت جواب کیوں نہ کرنا بلکہ اس خواست گاری کے ذریعے تو میں عرب و جنم میں افتخار محسوس کرتا۔

امام کاظمؑ : لیکن مجیبر اکرمؑ نہ مجھ سے میری لڑکی مانگیں گے اور نہ میرے لئے جائز ہو گا کہ میں اپنی لڑکی ان کو دوں۔

ہارون : کیوں؟

امام کاظمؑ : اس لئے کہ میں ان کا نواسہ ہوں جب کہ تو ان کا نواسہ نہیں ہے۔

ہارون : احسن اے موسیٰ! یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ کیوں خود کو ذریت پنجیبر اکرمؑ سے کہتے ہیں کیونکہ نسل پیٹے سے چلتی ہے نہ کہ بیشی سے۔

امام کاظمؑ : ذرا مجھے اجازت دو گے کہ میں جواب دوں۔

ہارون : ہاں ہاں! آپ ضرور جواب دیں۔

امام کاظمؑ : خداوند عالم قرآن میں سورۃ انعام کی آیات ۸۴-۸۵ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمِنْ ذُرِّيَّةِ دَاوُدَ وَ سَلِيمَانَ وَ إِبْرَهِيمَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسَىٰ وَ هَارُونَ وَ كَذَالِكَ تَعْزِيزُ الْمُحْسِنِينَ وَ زَكْرِيَاٰ وَ يَحْيَىٰ وَ عَبْرَىٰ وَ الْيَاسُٰ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ.
یعنی "داوودؑ و سلیمانؑ و ابرہیمؑ و یوسفؑ و موسیٰ و ہارونؑ سب کے سب

حضرت مہاتمؑ کی ذریت سے ہیں اور ہم اپنے یہی مددوں کو جزا دیتے ہیں اسی طرح زکریا و یحییٰ و عبیری و الیاسؑ سب کے سب صالحین میں سے تھے۔

اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ حضرت علیؑ کا باپ کون تھا؟

ہارون : عیسیٰ کا تو کوئی باب ہی نہیں تھا۔

امام کاظمؑ : لیکن اس کے باوجود خدا نے عیسیٰ کو ان کی مانعینی (مریم) کی جانب سے ذریت خبر لدار ہیم میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح ہماری ماں فاطمہ زہراؑ کی جانب سے ہمیں ذریت خبر اکرمؑ میں شمار کیا ہے۔

امام کاظمؑ : کیا ہر یہ دلیل دوں؟

ہارون : ہاں ضرور دیں۔

امام کاظمؑ : خداوند عالم سورۃ آل عمران آیت ۲۱ میں مبلله کے قصہ کو میان کرتے ہوئے کتابے:

فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ هَاجَانَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا لِدْعَةِ أَبْنَانَا
وَابْنَكُمْ وَنِسَانِكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ لِعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَادِيْنِ.

یعنی "جب آپ پر علم (یعنی قرآن) آچکا اس کے بعد بھی اگر کوئی تصریفی عیسیٰ کے بارے میں بحث کریں تو ان سے کوکہ اچھا باب ذرا میدان میں آجائے، ہم اپنے بیویوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیویوں کو لاوے، ہم اپنی عورتوں کو لا ایں تم اپنی عورتوں کو لاوے، ہم اپنی جانوں کو لا ایں تم اپنی جانوں کو لاوے، اس کے بعد سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گزر کر جھونٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔"

پھر حضرتؐ نے فرمایا کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ خبر اکرمؑ نصاریٰ سے مبلله کے وقت سوائے علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کے کسی اور کوئے گھے ہوں۔ لہذا اس وقت اپنے نفوس کی جگہ علیؑ کو لے جانا اور "ابنائنا" کی جگہ حسنؑ و حسینؑ کو لے جانا تھا تھا کہ علیؑ نفس رسولؐ ہیں اور حسنؑ و حسینؑ کو خدا نے ان

کا فرزند قرار دیا ہے۔

ہارون امامؑ کی یہ محکم دلیل سن کر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا: اے موسیٰ! آپ پر سلام ہو۔ (۲۶)

امام رضاؑ کا ابوقرہ سے مکالمہ

رسوان بن سیجیٰ جو امام رضاؑ کے شاگرد تھے کہتے ہیں کہ ابوقرہ (جو مسیح مذہب کا تھا) اس نے بجھ سے درخواست کی کہ میں اسے امام رضاؑ کی خدمت میں لے جاؤں، میں نے امام رضاؑ سے اجازت لی اور آنحضرتؐ کی خدمت میں ابوقرہ کو لے کر آیا جب امام رضاؑ کی خدمت میں پہنچا تو آپؑ سے اس نے احکام دین، حرام و حلال کےسائل پوچھے۔ یہاں تک کہ جب سوالوں کا سلسلہ توحید تک پہنچا تو اس طرح گنگوڑہ شروع ہوئی۔

ابوقرہ: ہمارے لئے روایت نقل کی گئی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے دیدار اور اپنے تخت کو پیغمبروں میں سے دو پیغمبروں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے تاکہ ایک سے کلام کرے اور ایک کو دیدار کرائے۔ حضرت موسیٰ سے گنگوڑہ کی اور حضرت محمدؐ کو اپنا دیدار کر لیا۔ لہذا اس بنا پر خدا کا وجود دیکھنے کے قابل ہے۔

امام رضاؑ: اگر ایسا ہی تھا تو کیا انہی خبر اسلامؑ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمام جن و انس کی آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتیں کیونکہ مخلوقات کی یہ وسیع آگاہیاں اس کے سمجھنے کا احاطہ ہرگز نہیں کر سکتیں کیونکہ خدا نہ کسی کی شبیہ ہے۔

سکتا ہے وہ خدا کا احاطہ بھی کر سکتا ہے۔ جب کہ آیت مذکور اس کے دیکھنے کو منع کرتی ہے۔

ابو قرہ: تو کیا آپ ان روایات کو جو کہتی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے خدا کو دیکھا انکار کرتے ہیں؟

لام رضا: ہاں! اگر روایات خلاف قرآن ہوں تو ان کو میں رد کروں گا کیونکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ وجود خدا کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، آنکھیں اس کو دیکھے نہیں سکتیں اور وہ کسی چیز کی شبیہ نہیں ہے۔ (اصول کافی باب ابطال الروایہ جلد اول صفحہ ۹۵-۹۶)

صفوان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو قرہ نے میرے ذریعے لام رضا سے وقت لیا اور حلال و حرام کے سوالات کے بعد کہنے لگا: آیا آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ خدا محول ہے؟

لام رضا: ہر محول یعنی (حمل شدہ) پر کسی دوسرے پر حل کیا جاتا ہے اور خود محول کے معنی نقش کے ہیں جو حامل پر بھی کئے ہوتا ہے جس طرح (زیر) مدح پر دلالت کرتا ہے اور (زیر) نقش پر دلالت کرتا ہے خدا کی طرف ایسی چیزوں کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ خدا حامل ہے یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے جب کہ کلمہ محول بغیر کسی پر بھی کئے ہوئے کوئی مفہوم نہیں رکھتا اس بنا پر خدا محول نہیں ہو سکتا اور جو خدا اور اس کی عظمت پر ایمان رکھنے والے کسی سے بھی نہیں ساگریا ہے کہ اس نے خدا کو لفظ محول سے تعبیر کیا ہو۔

ابو قرہ: خداوند عالم سورۃ حلقہ کی آیت ۷۱ میں فرماتا ہے: "وَيَحْمِلُ

ابو قرہ: یقیناً انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

لام رضا: لہذا اس بنا پر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک طرف پیغمبر اکرم خدا کی طرف سے لوگوں کو خبر دیں اور ان سے کہیں کہ یہ آنکھیں خدا کو دیکھنے پر قادر نہیں ہیں اور ثبوتات کی وسعت آگہی بھی اس کی ذات کو سمجھنے میں مدد نہیں دیتی، کیونکہ وہ کسی کا تمثیل یا شبیہ نہیں ہے اور دوسری طرف یہی پیغمبر اکرم کہیں کہ میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے یا میں نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور وہ انسان کی مثل کی طرح ہے اسے دیکھا جاسکتا ہے کیا تم لوگوں کو پیغمبر اکرم کی طرف ایسی شبیہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟

ابو قرہ: خداوند عالم خود سورۃ جہنم کی آیت ۱۳ میں فرماتا ہے: "وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى". یعنی پیغمبر نے بار دیگر خدا کو دیکھا۔

لام رضا: اسی مقام پر سورۃ جہنم کی آیت ۱۱ بھی ہے کہ پیغمبر نے جو دیکھا اس کو میان کیا ہے: "مَا كَذَبَ الْفَوَادُ مَارَى" یعنی ان کے قلب نے جو دیکھا وہ ہرگز جھوٹ بولنے والا نہیں ہے یعنی قلب پیغمبر۔ جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا قلب پیغمبر اس میں ہرگز جھوٹ بولنے والا نہیں ہے اور پھر اسی سورۃ جہنم میں خدا اس چیز کو جس کو پیغمبر نے دیکھا میان کرتا ہے: "لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكَبُورِ" (سورۃ جہنم آیت ۱۸) یعنی انہوں نے اپنے پروردگار کی بعض بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا پیغمبر اکرم نے جو کچھ دیکھا وہ ذات خدا کے علاوہ کچھ اور تھا۔

مزید خداوند عالم سورۃ ظ کی آیت ۱۱ میں ارشاد فرماتا ہے: "وَلَا يَحْطُطُونَ بِهِ عِلْمًا" یعنی کوئی علم بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لہذا جو خدا کو دیکھے

نہیں ہے۔ تمام موجودات اس کے بقہہ قدرت و تغیر میں چیز اور سب اس کے
محتاج ہیں جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۳۰)

(۲۷)

امام رضا کا ایک منکر خدا سے مکالمہ

وجود خدا کے مکرین میں سے ایک منکر خدا امام رضا کے پاس آیا اس وقت امام رضا کے پاس لوگوں کی ایک جماعت یعنی ہوئی تھی امام اس منکر خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر حق تمہارے ساتھ ہوا (جبکہ ایسا نہیں ہے) تو اس صورت میں ہم اور تم برادر ہو گئے لہذا ہمارے تمہارے روزہ، رکوہ اور ہمارا دین وغیرہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر حق ہمارے ساتھ ہوا (یقیناً ایسا ہی ہے) تو اس صورت میں بھی ہم کامیاب ہیں اور تم نقصان الحماۃ اور ہلاک ہونے والے ہو۔

منکر خدا: مجھے بتائیں کہ خدا کس طرح کا ہے اور کہاں ہے؟

امام رضا: وائے ہو تم پر جو خدا کو اس طرح کا توصیف کرتے ہو کیونکہ وہ کس طرح کا ہے کہاں ہے ہرگز درک نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کوئی بھی قوت حس اسے درک نہیں کر سکتی اور اس کو کسی چیز سے تباہ نہیں دی جاسکتی۔

منکر خدا: توجہ خدا کو کسی بھی حس سے درک نہیں کیا جاسکتا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے؟

امام رضا: وائے ہو تم پر کہ تمہارے قوی حریثے اس کے درک کرنے سے عاجز ہیں۔ لہذا اس کا انکار کرتے ہو جبکہ ہماری قوی حریثے بھی اس کو درک

عرش ریلک فو قہم یومِ نہاد نہیں" یعنی خداوند کے عرش کو اس دن آنحضرت
الخانے ہوئے ہوں گے اور سورۃ غافر کی آیت ۷ میں بھی ارشاد ہوتا ہے: "اللذین
يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ" یعنی وہ لوگ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں۔

امام رضا: عرش خدا کا نام نہیں ہے بلکہ عرش خدا کے علم و قدرت کا
نام ہے جس میں تمام چیزیں ہیں، اسی لئے خدا نے اس عرش کے حمل کی نسبت
اپنے غیر یعنی فرشتوں کی طرف دی ہے۔

ابو قرہ: روایت میں آیا ہے کہ جب بھی خدا غصہ نک ہوتا ہے تو عرش
کو اٹھانے والے فرشتوں کے غصب کی تلگی کو محسوس کرتے ہیں اور بجہہ میں
چلتے جاتے ہیں اور جب خدا کا غصہ ختم نہ ہو جاتا ہے اور ان کی دشمنی ہلکی ہو جاتی
ہیں تو وہ دوبارہ اپنی بجہہ پر آ جاتے ہیں، کیا آپ اس روایت کا انکار کرتے ہیں۔

امام رضا: اس روایت کی رو میں فرمایا: اے ابو قرہ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ
کہ جب خدا نے شیطان پر لعنت کی تھی اور اس پر غصہ نک ہوا تھا کیا اس وقت
سے اب تک خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔

ابو قرہ: ہرگز وہ اس سے راضی نہیں ہوا بلکہ شیطان اور اس کے
دوستوں اور پیر و کاروں پر غصہ نک ہے۔

امام رضا: تو خود تمہارے ہوں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو ہی
بجہہ میں ہوں چاہئے جبکہ اس طرح نہیں ہے لہذا عرش خدا کا نام نہیں ہے اور تم
کس طرح ہر آٹ کرتے ہو اور خدا کو مختلف تغیرات سے تباہ کرتے ہو جبکہ وہ
ان چیزوں سے منزہ ہے اور ان نسبتوں سے دور ہے اس کی ذات ثابت اور قابل تغیر

کی زبانی نہ جائے۔ لہذا امام کی خدمت میں آئے اور اس بارے میں محفوظ کرنے کی گزارش کی۔ امام رضا نے ان سے فرمایا: اے یونس "قدریہ" کے عقیدے کو تم ہرگز نہ لینا کیونکہ قدریہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو کہتے ہیں کہ: "خدا نے تمام کام لوگوں کے پرد کر دیے اور خود آزاد ہو گیا ہے۔"

یونس: خدا کی قسم میں "قدریہ" کے اقوال کو ہرگز قبول نہیں کرتا بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہو سکتی جب تک خدا اس کو نہ چاہے یا ارادہ نہ کرے۔

امام رضا: اے یونس! ایسا نہیں ہے بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے کاموں میں مختار ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ مشیت الہی کے کیا معنی ہیں؟
یونس: نہیں۔

امام رضا: مشیت الہی لوح محفوظ ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کے ارادے کے کیا معنی ہیں؟
یونس: نہیں۔

امام رضا: ارادہ کرنا یعنی جس چیز کو کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ قدر کے کیا معنی ہیں؟
یونس: نہیں۔

امام رضا: یعنی وہی اندازہ (حد بندی) کرتا ہے جس طرح مرنے کے وقت اس مرنے والے کی عمر کی مدت کو محین کیا جاتا ہے پھر آپ نے فرمایا تھا کہ معنی محکم ہنانا و عنینت ھٹانا ہے۔

کرنے سے عاجز ہیں مگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے جس کو کسی بھی چیز سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔

مکفر خدا: اچھا ذرا یہ بتائیں کہ خدا کب سے ہے؟
امام رضا: ذرا تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کس زمانے میں نہیں تھا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کس زمانے میں تھا۔

مکفر خدا: خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟
امام رضا: جب میں نے اپنے وجود پر نظر دوڑائی تو سوچا کہ یہ اپنے جسم کی طول و عرض اور اس کے فوائد و نقصان کے سلسلے میں مجھے ذرا بھی قدرت حاصل نہیں ہے کہ ان نقصانات کو دور کر سکوں لہذا میں نے یقین کر لیا کہ میرے اس وجود کا کوئی خالق ہے جو ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ لہذا وجود صانع کا اعتراف کیا اسی طرح گردش سیارات، بادل اور ہوا کے چلنے اور چاند و سورج کے سیر کرنے اور ستاروں کی گردش سے بھی اندازہ کر لیا کہ کوئی حرکت دینے والا ان کو حرکت دے رہا ہے۔ لہذا یہ موجودات اپنے ایک صانع کی محتاج ہیں جس نے ان کو بنایا ہے۔ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۲۸)

(۲۸)

مشیت اور ارادہ کے معنی
یونس بن عبد الرحمن امام رضا کے ایک شاگرد تھے اس زمانے میں قضاو قدر کی حدث کا بازار گرم تھا۔ یونس چاہتے تھے کہ قضاو قدر کے صحیح معنی کو خود امام

ہیں کہ اپنے ارادے سے جو امام جوادؑ کی ازدواج کے سلسلے میں کیا ہے بazar ہو کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اس طرح تم وہ منصب جو خدا نے ہمیں دیا ہے خارج نہ کر دو اور لباس عزت و شریت کو ہمارے تن سے اتار دو کیونکہ تم ہمارے کینہ سے خوبی واقف ہو جو بھی ہاشم سے ہے اور گزشتہ خلفاء کا سلوک جوان لوگوں کے ساتھ رو اور کھا گیا اس کو بھی خوب جانتے ہو۔ انہوں نے جوان کے ساتھ جو کیا اس کا بھی تم کو علم ہے اس کے باوجود تم نے ان کے والد امام رضاؑ کے ساتھ جو کیا تھا ہم لوگ اسی پر پریشان تھے یہاں تک کہ خداوند عالم نے ہمارے خم و اندوہ کو ان کی جانب سے بر طرف کیا۔

لہذا تم کو خدائی حتم دیتے ہیں کہ ذرا سوچو اور ہمارے کینے کو جو ہمارے بینے میں ہے اور سینوں کے ختم ہونے والے اس خم و اندوہ کو دوبارہ روشن نہ کرو اور اپنی اس رائے کو جو امام الفضل کی شادی فرزند علیہن موسیٰ رضاؑ کے سلسلے میں ہے تبدیل کر دو کیونکہ تمہارے راشمہ دار جو بھی عباس سے ہیں وہ اس کے زیادہ لائق ہیں۔

مامون نے ان کے اس اعتراض کے جواب میں کہا تمہارے اور فرزندان ابوطالبؓ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ خود تمہاری وجہ سے ہے اگر تم لوگ ان کے ساتھ انصاف کرو تو وہ لوگ اس مقام خلافت کے تیادہ حقدار ہیں اور خلفاء گزشتہ کردار ان کے ساتھ جو بھی تھا وہ ان کے ساتھ صدر حرم نہ تھا بلکہ قطع رحم تھا۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں کی طرح کوئی ویسا ہی کام انجام دوں۔ خدا کی حتم میں نے جو کچھ ولی عمدی حضرت رضاؑ کے سلسلے میں کیا

یونس: جوابِ امامؑ کے اس جواب سے قانع و مطمئن اور عاشقِ امامؑ ہو گئے تھے امامؑ کے سر کا بوس لیا اور کہنے لگے:

فتحت لی شبیا کنت عنہ فی غفلة.

یعنی ”آپ نے میرے لئے ان مشکل مطالب کی گزرہ کھوول دی ہے جن سے میں نااگاہ تھا۔“ (اصول کافی جلد اول صفحہ ۱۵۷)

(۲۹)

مامون کا بھی عباس سے شانِ امام جوادؑ میں مکالہ

شیخ مظیعہ اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ مامون — ساقی اس خلیفہ عبادی تھا۔ عاشقِ امام جوادؑ تھا اور امامؑ کی عظمت اور علم و دانش کا قائل تھا کیونکہ وہ جنہیں سے مشاہدہ کر رہا تھا کہ آپ کی نظر، علم، حکمت، ادب اور کمال اس تک پہنچی ہوئی تھی جن کو دوسرے ہم سن چھے درک کرنے سے عاجز تھے۔ اسی لئے اس نے اپنی بیشی ام الفضل کو آپ کی ہمسری میں دیا۔ اور اس کو آپؓ کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ لہذا وہ امام جوادؑ کے سلسلے میں کافی تجلیل و احترام کا قابل تھا۔

حسن بن محمد بن سیمان، ریان بن شیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب مامون نے اپنی بیشی ام الفضل کو امامؑ کے عقد میں دینا چاہا اور اس بات کی اطلاع بھی عباس کو ہوئی تو یہ بات ان پر سخت گراں گزرنی۔ چنانچہ اس خوف سے کہ امام جوادؑ کو بھی وہ مقام حاصل نہ ہو جائے جو ان کے والد امام رضاؑ کو حاصل تھا۔ سب صحیح ہو کہ مامون کے پاس گئے اور کہنے لگے: اے مامون تمہیں خدا کی حتم دیتے

ان لوگوں نے کہا: یہ تجویز اچھی ہے ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم لوگ ان کو آزمائیں لہذا ہمیں اجازت دو کہ ایسے کو لاکیں جو مسائل فقہی اور احکام اسلام ان سے پوچھ کے اگر صحیح جوابات دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا اور اس پر کے بارے میں آپ کی دور اندیشی بھی معلوم ہو جائے گی اور اگر وہ جواب دینے سے عاجز و ناٹاں رہے تو پھر ہماری ہی گفتگو میں مصلحت اور بھروسہ ہوگی۔

مامون نے کہا: جمال چاہو ان کو میرے سامنے بلا کر امتحان لے لو۔ وہ لوگ مامون کے پاس سے چلے گئے اور آپس میں طے کیا کہ اس زمانے کا بڑا قاضی سمجھی عن آئم کو راضی کیا جائے کہ وہ لام جواڑ سے ایسے سوالات کرے جس کے وہ جواب نہ دے سکیں۔ لہذا معتبرین سمجھی عن آئم کے پاس آئے اور اس کو قائم کی ہے وہ صحیح ہے۔

چنانچہ اس دن تمام بزرگ علماء اور خود مامون اور سمجھی عن آئم حاضر ہوئے، ایک اٹھ بیالا گیا جس پر دو کشن لگائے گئے۔ لام (جن کی عمر اس وقت ۹ سال سے کچھ ماہ زیادہ تھی) وارد مجلس ہوئے اور ان دو کشون کے درمیان بیٹھ گئے۔ سمجھی عن آئم بھی ان کے سامنے آکر بیٹھ گئے اور دوسرے افراد اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔

مامون بھی اپنی مخصوص جگہ پر لام جواڑ کے برابر میں بیٹھا۔ سمجھی عن آئم، مامون سے مخاطب ہوا: کیا اجازت ہے کہ حضرت جواڑ سے کچھ سوال کریں؟ مامون کہنے لگا کہ خود ان سے اجازت لو۔ سمجھی عن آئم کی طرف

اس پر ہرگز پیشان نہیں ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ میں نے چاہا تھا کہ خلافت وہ لے لیں لور میں خلافت سے دور رہوں، مگر خود انہوں نے انکار کیا۔ لہذا تقدیر میں جو تھا وہی ہوا جو تم لوگوں نے بھی دیکھا۔

ربا یہ مسئلہ کہ میں نے حضرت جواڑ کو اپنی دلماڈی کے لئے کیوں پسند کیا ہے، اس لئے کہ وہ مجھنہی سے علم و دانش کی اس بلندی پر فائز ہیں جو بلندی دوسروں کو حاصل نہیں۔ البتہ ان کی یہ دانش حیرت انگیز ہے۔ مجھے خدا سے امید ہے کہ جو کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں تم لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر سکوں تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے جوان کے بارے میں رائے قائم کی ہے وہ صحیح ہے۔

وہ لوگ مامون کے جواب میں کہنے لگے: اگرچہ اس نوجوان کی رفتار و گفتگو نے تمہیں حیرت میں ڈال دیا ہے اور تمہیں اپنا گروہہ مالیا ہے لیکن جو بھی ہو وہ ابھی چھے ہیں ان کے فہم و معرفت کم ہے لہذا انہیں ابھی مہلت دو تاکہ دانشمند میں اور علم و دین میں فقیر ہیں پھر جو مرضی میں آئے کرہا۔

مامون کہنے لگا: والے ہو تمہارے حال پر میں اس جوان کو تم لوگوں سے زیادہ بکھر جانتا ہوں یہ جوان ایسے خاندان سے ہے جس کا علم و دانش خدا کی طرف سے ہے ان کا ظریف لامددو ہے اور علم و العلامات ان کے اجداد سے ان تک منتقل ہوا ہے وہ علم و ادب میں دوسروں کے محتاج نہیں ہیں حتیٰ کہ دوسرے بھی حد کمال تک پہنچنے میں ان کے محتاج ہیں اگر ان کو آزمانا چاہتے ہو تو آزماؤ لیکن یاد رکھو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے اور مزید میری چاہی تم لوگوں پر ظاہر ہو جائے گی۔

(۳۰)

عراق کے فلسفی سے ایک مکالمہ

اسحاق کندی جو عراق کا ایک دانشمند اور فلسفی شمار ہوتا تھا اور کفر کی زندگی پر کرنا تھا۔ جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو وہ کہا کہ قرآن کی بخش آیات دوسری بخش آئینوں سے خالہ رہا ساز گار نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں تو اس نے چاہا کہ قرآن میں جو تاتفاق ہے اس سلطے میں ایک کتاب لکھے اور اس نے یہ کام شروع بھی کر دیا۔ اس کا ایک شاگرد لام حسن عسکری کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے استدلال سے میرے استاد کندی کو اس کام سے روک سکے؟

لام نے فرمایا میں تمھیں کچھ باتیں بتاتا ہوں اس کے سامنے جا کر اسی طرح دھڑ دینا اس ترتیب سے کہ پہلے اس کے پاس جا کر اس کے اس کام میں اس کی مدد کرو جب اس سے زیادہ نزدیک ہو جاؤ اور وہ تم سے ماوس ہونے لگے تو اس سے کہو کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کہ کہا پوچھو، تم اس سے کہنا کہ اگر قرآن کا نازل کرنے والا تمہارے پاس آئے اور کہ کہ تم قرآن کے جو معنی سمجھ رہے ہو وہ میری مراد نہیں ہے بسح فلاں معانی مراد ہے، تو استاد کندی کے گاہاں اس طرح کا امکان تو ہے، پھر اس سے کہنا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ خدا کی ان آیات قرآنی سے مراد وہ معانی نہ ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد اسحاق کندی کے پاس گیا کچھ بہت اس کے ساتھ اس کتاب کی تالیف میں اس کی مدد کی پھر لام کے حکم کے مطابق اس سے کہا ممکن

رخ کر کے کہا: میں آپ کے قربان جاؤں اگر اجازت ہو تو کچھ سوالات کروں؟

لام جواد: پوچھو۔
مجھی: وہ شخص جو حالت احرام میں ڈکار کرے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟

لام جواد: اس نے یہ ڈکار حل (حرم سے باہر کی جگہ) میں کیا یا حرم میں؟ مسئلہ جانتا تھا یا نہیں؟ عماد ڈکار کیا یا خطاء؟ آزاد تھا یا غلام؟ ڈکاری چھوٹا تھا یا بڑا؟ پہلی دفعہ اس نے ایسا کیا یا پہلے بھی ایسا کرچکا تھا؟ وہ ڈکار پر نہ رہ تھا یا کوئی اور جانور؟ وہ جاتا تو چھوٹا تھا یا بڑا؟ وہ شخص اپنے اس کام پر نادم ہوا یا نہیں؟ دن میں ڈکار کیا یا رات میں؟ احرام عمرہ کا تھا یا حج کا؟ ان میں سے کوئی صورت تھی؟ کیونکہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔

مجھی: ان سوالات کے سامنے دنگ ہو کر رہ گیا، پیشمنی کے آئا اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے، اس کی زبان لٹکڑائے گی، اس طرح حاضرین اس کی یہ حالت لام جواد کے سامنے دیکھ کر تھیں تھے۔

مامون نے کہا: میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جو کچھ میں نے سوچا تھا وہی ہوں پھر اپنے خاندان کے افراد کی طرف رخ کر کے کہا: اب مطمئن ہو گئے یا نہیں؟ تم لوگ میری بات نہیں مان رہے تھے لور تم لوگوں کی ساری باتیں بے جا تھیں اور پھر مامون نے اپنی بیٹی کی شادی لام جواد سے مٹے کر دی۔ (ترجمہ ارشاد مقید جلد ۲ صفحہ ۲۶۹)

علماء اسلام کے مناظرے و مکالے

(۳۱)

ایک شیعہ خاتون کا سبیط بنی جوزی سے مکالمہ
سبیط بن جوزی جو الحست کے بڑے عالم دین تھے اور انہوں نے متعدد
کتابیں تالیف کیں تھیں مسجد بغداد میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے ایک
دن انہوں نے "سلوئی قبل من تفقدونی" کا دعویٰ کر دیا (جس کا امام علیؑ کے
علاوہ کوئی اہل میں ہے) اگرچہ اس وقت ان کے منیر کے اطراف میں بہت سے
شیعہ و سنی مردوں عورتوں حجج تھے ہاگہ ایک خاتون جو مجہہ علیؑ تھی انھی اور سوال
کر لیا کہ کیا یہ روایت صحیح ہے جو نقل کی جاتی ہے کہ عثمان کو بعض مسلمانوں نے
نقل کیا اور ان کا جنازہ تین دن تک پڑا رہا کوئی بھی نہیں گیا کہ ان کے جنازے کو
انحاکر دفن کر دے۔

سبیط : ہاں یہ روایت صحیح ہے۔

ہے خدا کی مراد ان آیات قرآنی سے وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ استاد نے کچھ
دیر فکر کی اور کما ذرا اپنا سوال پھر سے دہرانا شاگرد نے دوبارہ سوال دہر لیا، تو استاد
کہنے لگا ہاں ممکن ہے کہ خدا نے ان معنی ظاہری کے علاوہ کسی اور کامرا دراہ کیا ہو۔
پھر شاگرد سے کہنے لگا یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ شاگرد کہنے لگا ایسے ہی
میرے دل میں بات آئی جو میں نے آپ سے پوچھ لی۔ استاد کہنے لگا اس قسم کا بلند
کلام تم سے بعید ہے اور تم انھی ایسے بلند مقام تک نہیں پہنچ ہو۔ شاگرد کہنے لگا یہ
بات لام حسن عسکریؑ سے سنی ہے۔ استاد نے کہا اب تم نے حق کما کیونکہ اس قسم
کے مسائل سوائے اس خاندان کے کسی اور سے نہیں سنیں گے پھر استاد نے آگ
منگوائی اور تمام وہ نئے جو اس طرح قرآنکے تناقضات میں لکھے تھے جلا
ڈالے۔ (الوار الہمہ صفحہ ۳۲۹)

اور اگر کہتے ہیں کہ اجازت لے کر آئی تھیں تو حضرت علیؓ کو خطاکار قرار دیتے ہیں یہ دونوں باتیں ان کے عقیدے کے خلاف تھیں۔ لہذا شرمندگی کے عالم میں نمبر سے پچھے اترے اور سیدھے اپنے گھر کو چلے گئے۔ (عار جلد ۸ قدیم صفحہ ۱۸۳)

(۳۲)

ایک ڈھیلا تین اشکالوں کا جواب

بھلوں من عمر و کوئی جو انتہائی تیز و ہوشید قسم کے انسان تھے انہوں نے لام صادقؑ و لام کاظمؑ کا زمانہ دیکھا تھا اور خود لام کے پچھے پیروکاروں میں سے تھے انہوں نے صرف اس ارادے سے کہ ہارون رشیدؑ ان کو قاضی نہ بنائے اپنے آپ کو دیوانہ بنالیا تھا وہ اہل مناظرہ تھے اور دقيق و عیق استدلالات کے ذریعے مخالفین کے انحرافی عقائد کو آشکار کیا کرتے تھے ان کا ایک مناظرہ یہ تھا کہ انہوں نے سماں کے ابوحنیفہ (رسیس نہب خنی) نے اپنے درس میں کہا کہ لام صادقؑ نے تین ایسی باتیں کی ہیں جن میں سے میں ایک کو بھی نہیں مانتا وہ تین باتیں یہ ہیں:

اول : کہ شیطان کو اگ کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے کیونکہ شیطان جو اگ سے ہاٹے کیوں کر اگ اسے اذیت دے گی؟

دوم : خدا کو دیکھا نہیں جاسکتا بلکہ ہر موجود چیز دیکھنے کے قابل ہے؟

سوم : لوگ جو بھی کام کرتے ہیں خود اپنے ارادے سے کرتے ہیں جبکہ آیات و روایات اس کے خلاف ہیں وہ مددوں کے کاموں کو خدا سے نسبت دیتی ہیں لہذا ہم اپنے کاموں میں مجبور ہیں نہ کہ غفار ہیں۔

خاتون : کیا یہ روایت بھی صحیح ہے کہ جب سلمان کا انتقال مدارکین میں ہوا تو حضرت علیؓ مدینے (یا کوفہ) سے مدائن گئے اور سلمان کو عسل و کفن دے کر دفن کیا اور پھر لوٹ آئے؟

سبط : ہاں یہ روایت بھی صحیح ہے۔

خاتون : تو حضرت علیؓ جو عثمان کے قتل کے وقت مدینے میں تھے کیوں نہیں گئے تاکہ انہیں عسل و کفن دے کر دفن کرتے تو اس صورت میں یا تو علیؓ خطاکار ہیں کہ وہ عثمان کے جائزے میں نہیں گئے یا عثمان مؤمن نہیں تھے کہ حضرت علیؓ ان کے عسل و کفن دفن سے دور رہے یہاں تک کہ تین دن کے بعد یہودیوں کے قبرستان میں ان کو خفیہ طور پر دفن کیا گیا۔ (طبی جلد ۹ صفحہ ۳۳)

سبط من جزوی سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کسی ایک کو بھی خطاکار قرار دیا تو گویا اپنے عقیدے کے خلاف کہا کیونکہ وہ دونوں کو خلیفہ برحق مانتے تھے لہذا کہنے لگے : اے خاتون اگر اپنے شوہر کی اجازت سے باہر آئی ہو اور ناخمر موسوی کے درمیان مجھ سے گفتگو کر رہی ہو تو خدا کی لعنت ہو جھادے شوہر پر۔ اگر بغیر اجازت کے آئی ہو تو خدا کی لعنت ہوتی پر۔

وہ خاتون برجستہ ہوئی : عائشہ جو جگ محل میں حضرت علیؓ کے سامنے آئی تھیں کیا اپنے شوہر رسول خدا سے اجازت لے کر آئی تھیں یا بغیر اجازت کے آئی تھیں؟

سبط من جزوی خاتون کے اس سوال کے سامنے بھی کچھ نہ کہ رکھے کیونکہ اگر کہتے ہیں کہ عائشہ بغیر اجازت سے آئی تھیں تو عائشہ کو خطاکار قرار دیتے ہیں

تشیہ دی۔ حاضرین بھلوں کی یہ بات سن کر پہنچے گے اور وزیر شرمندہ ہو گیا۔ (ج) (لامال جلد ۲ صفحہ ۷۳۳)

(۳۲)

ایک شیعہ کا "جر کے قائل" کے استاد سے مکالمہ
ایک دن ضرار بن صبی جواللشن کے بڑے عالم دین اور الام جر کے رئیس تھے، مجھی بن خالد جو ہارون رشید کا وزیر تھا، کے پاس آئے۔ کچھ گفتگو کرنے کے بعد کہنے لگے: میں حد و مناظرے کے لئے تیار ہوں جس کو چاہوں لے آؤ۔
مجھی: کیا تم راضی ہو کہ ایک شیعہ سے مناظرہ کرو؟

ضرار: ہاں ہر شخص سے مناظرہ کرنے پر راضی ہوں۔

مجھی نے ہشام بن حکم (جو لام جعفر صادق) کے شاگرد تھے ان کو پیغام مجھ کر بلوایا اور مناظرے کیلئے جگہ بھی تھیں ہو گئی اور اس طرح مناظرہ شروع ہوا۔
ہشام: مسئلہ امامت میں کسی شخص کی صلاحیت رہبری کو ظاہر سے
سمجا جاسکتا ہے یا باطن سے؟

ضرار: ہم ظاہر سے سمجھتے ہیں کیونکہ لوگوں کے باطن کا علم حاصل کرنا سوائے عالم الغیب کے کسی کو ممکن نہیں ہے۔

ہشام: تم نے صحیح کہا۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کس نے ظاہر میں شمشیر اٹھا کر رسول خدا کا دفعہ کیا، حضرت علیؓ نے یا الوبک نے؟ کون ایثار و فدائاری کرتے ہوئے میدانوں میں جاتے اور رسولؐ سے دشمنی و کینہ رکھنے والے دشمنوں کو تر

بھلوں نے ایک ڈھیلا اٹھا کر ابوحنفہ کی پیشانی پر دے مار۔ ابوحنفہ نے ہارون کے پاس بھلوں کی شکایت کی۔ ہارون نے حکم دیا کہ بھلوں کو حاضر کیا جائے، لہذا ان کو حاضر کیا گیا اس مجلس میں بھلوں نے ابوحنفہ سے کہا: (۱) پسلے درد مجھے دکھاؤ اگر نہ دکھا سکے تو اپنے اس عقیدے کے پیش نظر جو کہتے ہو کہ ہر موجود چیز کو دیکھائی دینا چاہئے، یہ نظر یہ غلط ہو جائے گا۔ (۲) تم کہتے ہو کہ ایک بھی کی دو چیزیں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں لہذا تم بھی مٹی سے پیدا کئے گئے ہو تو پھر اس مٹی کے ڈھیلے سے تم کو اذیت نہیں ہونی چاہئے۔ (۳) میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کیونکہ خود تمہارے عقیدے کے مطابق بندہ جو کام کرے اس کا قابل خدا ہے۔ لہذا خدا نے تمہیں مارا ہے میں نے نہیں مارا۔

ابوحنفہ خاموش رہے اور شرمندہ ہو کر اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ بھلوں کی یہ ایک ضرب میرے غلط عقیدوں کا جواب ہے۔ (مجلس المؤمنین جلد صفحہ ۲۱۹ و پہلے الامال جلد ۲ صفحہ ۲۳۶)

(۳۳)

ہارون کے وزیر کو بھلوں کا جواب
ایک دن وزیر نے ہارون رشید کے دربار میں بھلوں سے کہا: تمہاری قست کتنی اچھی ہے کہ خلیفہ نے تمہیں کتوں اور سوروں کا بادشاہ ہایا ہے۔ بھلوں نے بے دھڑک کہا: اب تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے تو اب تم میری اطاعت سے ہرگز منہ نہ موزتا۔ اس طرح سے بھلوں نے وزیر کو کتوں اور سوروں سے

فقط ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے جبکہ یخیر اکرمؐ کے نزدیک علیؐ کا باطن واضح نہ ہو؟
 ضرار: نہیں یہ ہرگز ممکن نہیں کیونکہ علیؐ ظاہر کے ساتھ باطنی لحاظ سے بھی اس تعریف کے حقدار تھے اور یخیر اکرمؐ نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف کی۔

ہشام: پس اپنے اس بیان کی میا پر اعتراض کرتے ہو کہ علیؐ ظاہری و باطنی دونوں لحاظ سے بدتری رکھتے تھے اسی وجہ سے وہ مقام نامت و امت کی رہبری کے سلسلے میں دوسروں سے نیادہ حقدار تھے۔ (فصل الحقار سید مرتضی جلد اول صفحہ ۹ و ساموس الرجال جلد ۹ صفحہ ۳۲۲)

(۳۵)

فضل کا ابوحنیفہ سے مکالمہ

امام جعفر صادقؑ کے زمانے میں مذہب حنفی کے سربراہ ابوحنیفہ مسجد کوفہ میں اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ امام صادقؑ کے ایک ہوشیار شاگرد اپنے کسی دوست کے ساتھ گھوٹتے ہوئے وہاں پہنچ۔ ویکھا کہ ابوحنیفہ کے گرد کچھ لوگ حلقوں کے پیٹھے ہیں اور وہ ان کو درس دینے میں مصروف ہیں۔ فضال اپنے دوست سے کہنے لگے: ”میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں جاؤں گا جب تک ابوحنیفہ کو اس بات پر آمادہ نہ کرلوں کہ وہ مذہب شیعہ اختیار کر لیں۔“

اس ارادے سے وہ ابوحنیفہ کے درس میں جا کر ان کے شاگردوں کے ہمراہ پہنچ گئے اور اس طرح ابوحنیفہ سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا:

چیز کر دیتے تھے اور جنگوں میں مسلمانوں میں سب سے اچھا کردار کس کا رہا؟
 ضرار: علیؐ نے کمی جہاد کے لیکن معنوی (باطنی) لحاظ سے بہتر نیادہ منزلت و مقام رکھتے تھے۔

ہشام: تم نے ابھی ابھی خود اپنے عقیدے ظاہری میں ظاہر کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت علیؐ کو منزل جہاد میں رہبری کے لئے لائق ہونے کا اقرار کرچکے ہو اور اب مسئلہ باطنی کو درمیان میں لا رہے ہو۔

ضار: ظاہری لحاظ سے ہاں۔
 ہشام: اگر کسی کا ظاہر و باطن دونوں کا پاک ہونا معلوم ہو جائے تو کیا اپنے صاحب کی برتری پر دلالت نہیں کرے گا؟

ضار: پسک اپنے صاحب کی برتری پر دلالت کرے گا۔
 ہشام: کیا تمیں معلوم ہے کہ یخیر اکرمؐ کی یہ حدیث جو حضرت علیؐ کے بارے میں ہے اور تمام اسلامی گروہوں کے نزدیک مسلم و قابل قبول ہے، جو آپؐ نے فرمایا: ”انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی نبی۔“ یعنی اے علیؐ! تمیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارونؐ کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔

ضار: ہاں اس حدیث کو مانتا ہوں۔ (اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ ضرار نے پہلے حقانیت باطن کو جانتے کا ذریعہ وہی الی کو قرار دیا تھا اور یخیر اکرمؐ کی باتوں کو وہی کام پڑھنا مانتے ہیں)۔

ہشام: کیا ممکن ہے کہ یخیر اکرمؐ علیؐ کی اس طرح سے تعریف کریں

جواب میں قرآن کی یہ آیت پڑھی: "لَا تَدْخُلُ بيوت النبِيِّ إِلا ان يُؤذن لكُمْ" (سورة الحزب آیت ۵۲) یعنی نبی کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہ ہو، اور یہ بات روشن ہے کہ پیغمبرؐ کی قبران کے مخفی گھر میں ہے اور قطعاً نبی نے اسیں اجازت نہیں دی تھی اور اسی طرح ان کے وارثین نے بھی اجازت نہیں دی تھی۔

ابو حنیفہ: اپنے بھائی سے کوکہ عائشہؓ و حضرتؓ نے اپنے مریعہ کے طور پر اپنے شوہر پیغمبر اکرمؐ سے وہ زمین طلب کی تھی اور ان میں سے ہر ایک نے وہ زمین اپنے باپ کو خل دی تھی۔

فضل: افاقتاء میں نے بھی یہی جواب اپنے بھائی کو دیا تھا مگر اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، جس میں خداوند عالم اپنے پیغمبرؐ سے ارشاد فرماتا ہے: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا أَحْلَلْنَا إِلَيْكَ الْمُحْرَمَ اَتْبِعْهُنَّ" (سورۃ الحزب آیت ۳۹) یعنی اے نبی ہم نے تمہاری بیویوں کو تم پر حلال کر دیا ہے جن کا تم مردے پکے ہو۔ لہذا پیغمبر اکرمؐ اپنے زمانہ حیات ہی میں ان کا مردا کر پکے تھے۔

ابو حنیفہ: تم اپنے بھائی سے کوکہ عائشہؓ و حضرتؓ جو ابو بکرؓ و عمرؓ کی بیٹیاں اپنے حصے کا ارث اس گھر سے لیا تھا اور اس کو اپنے اپنے والد کو خلاصہ اس ہمارے ان لوگوں کے جائزے و مہار و فن کئے گئے۔

فضل: افاقتاء یہ دلیل بھی میں نے اپنے بھائی کو دی تھی مگر وہ جواب میں کہتا ہے کہ تم برادران اہل سنت اس بات کے معتقد ہو کہ پیغمبر اکرمؐ اپنے ورثہ

فضل: اے سردارہ مذهب میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو لیکن مذهب شیعہ کا عورتکار ہے، میں نے کمی دلیلیں ابو بکرؓ کی علیؓ پر فضیلت رکھنے پر دیں تاکہ اسے اپنے مذهب "قشنا" کی طرف لے آؤں لیکن وہ میرے تمام دلائل کو رد کر دیتا ہے۔ لہذا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کوئی دلیل حکم ابو بکر و عمر کی علیؓ پر برتری کے بارے میں تائیں تاکہ اپنے بھائی کو بتا کر قائم کر سکوں۔

ابو حنیفہ: جاؤ اپنے بھائی سے جا کر پوچھو کہ تم کیوں نکر علیؓ کو ابو بکرؓ و عمرؓ پر مقدم کرتے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ ابو بکر و عمر پیغمبرؐ کے پاس پہنچ ہوئے تھے اور پیغمبر اکرمؐ، علیؓ کو جنگوں پر روانہ کیا کرتے تھے یہ خود اس بات پر دلیل ہے کہ پیغمبر اکرمؐ ان دونوں کو زیادہ چاہتے تھے اس لئے ان کی جان کی حفاظت کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھتے تھے۔

فضل: افاقتاء یہی سوال میں نے اپنے بھائی سے کیا تھا مگر اس نے جواب دیا کہ علیؓ قرآن کے مطابق و شہنوں سے جناد و جنگ کی خاطر دوسروں پر برتری رکھتے ہیں کیونکہ قرآن کرتا ہے: "وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَانِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا" (سورۃ نبایہ آیت ۹۷) خداوند عالم مجاہدین کو قائدین (پیغمبرؐ والوں) پر فضیلت و برتری عطا کرنے والا ہے۔

ابو حنیفہ: اپنے بھائی سے پوچھنا کہ وہ کیوں نکر علیؓ کو ابو بکرؓ و عمرؓ پر برتری دیتا ہے جبکہ یہ دونوں پیر پیغمبرؐ کے کنارے و فن ہیں جبکہ علیؓ کی قبر پیغمبرؐ کی قبر سے میلوں دور ہے یہ افتخار ان کی برتری کے لئے کافی ہے۔

فضل: افاقتاء یہی دلیل میں نے اپنے بھائی کو دی تھی مگر اس نے

تحمیں اور کافی دلیر خاتون تھی ان کی اچانک حاجج سے ملاقات ہوئی۔

حجاج نے سوال کیا تم حبیبہ سعدیہ کی بیشی ہو؟

حرہ: ”فراصہ من غیر مؤمن“ اگرچہ اسکا لفظی ترجیح یہ ہے کہ یہ ایک غیر مؤمن کی ہوشیاری ہے (اور اس بات کا کہنا یہ ہے کہ ہاں میں حروف ہوں لیکن یہ کہ تم جیسے بے ایمان فرد نے مجھے پہچان لیا یہ تمہاری ہوشیاری کی دلیل ہے)۔

حجاج: خدا تم کو یہاں لا دیتا کہ تم میرے دام میں کچھ جاؤ میں نے سنا ہے کہ تم علیؑ کو ابو بکرؓ و عمرؓ دونوں پر برتری دیتی ہو۔

حرہ: یہ بات جس نے تم سے نقل کی ہے جھوٹ کہا ہے اس لئے کہ میں علیؑ کو ہرگز ان جیسوں سے مقاہر نہیں کرتی بلکہ میں علیؑ کو تخبروں مثلاً آدم، نوح، لووط، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیم السلام سے بھی بالاتر بھی ہوں۔

حجاج: وائے ہو تم پر کہ تم علیؑ کو صحابہ کے علاوہ ان آنحضرت تخبری جن میں اولوالم Zimmerman بھی ہیں ان پر بھی برتر جانتی ہو؟ اگر تم اپنے اس دعویٰ پر دلیل نہ لاسکیں تو گردن اڑواڑوں گا۔

حرہ: یہ میں نہیں ہوں جو علیؑ کو تخبران سے برتر جانتی ہوں بلکہ خداوند عالم نے خود قرآن میں علیؑ کو ان سب پر فوکیت خوشی ہے کیونکہ قرآن حضرت آدمؐ کے بارے میں فرماتا ہے: ”وَعَصَى آدُمْ رَبَّهِ فَنَحْوَى.“ (سورۃ طہ آیت ۱۲۱) یعنی آدمؐ نے اپنے پروردگار کی ہافرمانی کر کے اس کی عطا سے محروم ہو گئے جبکہ قرآن حضرت علیؑ و ان کی زوجہ و دو فرزندوں کے بارے میں فرماتا ہے: ”سَعِيكُمْ مَشْكُورًا.“ (سورۃ انسان آیت ۲۲) یعنی آپ لوگوں کی سی و

کے لئے کوئی چیز ارث میں چھوڑ کر نہیں گئے اسی لئے باغِ فدک کو حضرت زہراؓ سے لے لیا اور اگر تمہاری بات قبول بھی کر لیں کہ تخبر اکرمؐ نے میراث چھوڑی ہے تو تخبر اکرمؐ کی رحلت کے وقت آپ کی نو زوجہ حمیں سب کا آنکھوں حصہ ہو گا اور اگر اس گھر کی زمین کا آنکھوں حصہ تو افراد میں تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں ایک بائش زمین آئے گی نہ کہ ایک انسان کی طول و قامت کے محدود۔

ابو حنیفہ یہ جواب بھی سن کر دنگ ہو کر رہ گئے اور غصہ کے عالم میں اپنے بھائیوں سے کہا: ”آخر جوہ فالہ راضی ولا اخ له۔“ یعنی ”اس کو مسجد سے نکال دو یہ خود راضی ہے۔“ (یعنی شیعہ ہے) اس کا کوئی بھائی وائی نہیں ہے۔ (خواص نراثی صفحہ ۱۰۹)

(۳۶)

ایک دلیر خاتون حجاج کے دربار میں

حجاج بن یوسف ثقیقی جو ہارخ انسانیت میں خالم ترین شخص گزرا ہے۔ جب پانچوں اموی خلیفہ عبدالملک کی طرف سے عراق کا سربراہ منتخب ہوا تو اس نے بہت سے شیعہ بزرگان۔ کمیل، قبیر اور سعید بن جبیر جیسے افراد۔ کو قتل کیا ان سب شیعوں سے دشمنی کا نتیجہ اس کا بغض علیؑ تھا۔ ایک دن ایک خاتون جو شجاعت و صلاحیت سے بھر پور تھی حرہ کے ہام سے مشہور تھی اور حضرت حبیبہ سعدیہ (جنہوں نے رسول خدا کو دودھ پلایا تھا) کی رشتہ دار تھی اور ان کی بیشی کے عنوان سے لوگ انسیں پہچانتے تھے، وہ حضرت علیؑ کے طرفداروں میں سے

کوشش قدردانی کے قابل ہے۔

حجاج : اے حرہ تم کو شباباً ہو اچھا یہ تو ہتا ذکر حضرت علیؓ کو نوع و لوط پر کیوں نکر بڑتی دیتی ہو؟

حرہ : خدا نے علیؓ کو ان دونوں پر بربر جاتا ہے کیونکہ خدا ان دونوں کے بارے میں فرماتا ہے : «صرب اللہ مثلا للذین کفرو امرنة نوح و امرنة لوط کانعا تحت عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنا من اللہ شيئا و قيل ادخلوا النار مع الداخلين». (سورۃ تحریر آیت ۱۰) یعنی خدا نے کافروں کی عبرت کے لئے نوح کی بیوی (وائلہ) اور لوط کی بیوی (ولبلہ) کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں ان دونوں نے اپنے شوہروں سے دعا کی (گیان کے شوہر) خدا کے مقابل میں ان کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ تم دونوں جنم میں جانے والوں کے ساتھ چلی جاؤ، جبکہ حضرت علیؓ کی زوجہ دختر غیر فاطمہ تھیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی تھی اور جن کی ناراضی خدا کی ناراضی تھی۔

حجاج : سیحان اللہ حرہ اب ذرا یہ بتاؤ کہ حضرت علیؓ کو حضرت ابراہیم پر کیوں نکر بڑتی دیتی ہو۔

حرہ : کیونکہ قرآن حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے : «رب ارني كيف تحى الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلسي». (سورۃ هرہ آیت ۲۶۰) یعنی خدا یا ذرا مجھے دکھا کہ مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، خدا نے کہا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ابراہیمؑ نے کہا کیوں نہیں صرف

قلبی اطمینان کے لئے چاہتا ہوں، لیکن میرا مولا علیؓ یقین کی اس منزل تک پہنچا ہوا تھا آپ کا ارشاد گرامی ہے : «لو کشف الغطاء ما ازدوات یقینا». یعنی تمام پر دے بھی اٹھا لئے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو گا۔ اس قسم کی بات کسی نے آج تک نہیں کی اور نہ کہ سکتا ہے۔

حجاج : اچھا علیؓ کو موسیٰ پر کس دلیل کے پیش نظر بڑتی دیتی ہو؟

حرہ : خداوند عالم حضرت موسیٰ کے بارے میں فرماتا ہے : «مخروج منها خالفا يترقب». (سورۃ هصہ آیت ۲۱) یعنی موسیٰ فرعونیوں کے خوف سے شر سے باہر چلے گئے، لیکن میرا مولا علیؓ شب ہجرت پست رسولؐ پر آرام کی نیزد سو کر شجاعت و ایثار کے لحاظ سے اس آیت کا مصدق قرار پیدا : «ومن يشرى نفسه ابعاءه مرضات الله». (سورۃ هرہ آیت ۷۰) یعنی لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اپنی فدا کاری کے سبب اپنی جان کو مرضی خدا کے سامنے پیچ دیتے ہیں۔

حجاج : حضرت داؤڈ پر حضرت علیؓ کو کیوں نکر بڑتی دیتی ہو؟

حرہ : اس لئے کہ خداوند عالم حضرت داؤڈ کے لئے ارشاد فرماتا ہے : «ياداً وَدَّ إِنَّا جَعْلَنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْبِعْ الْهُوَى فَيُضْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ». (سورۃ مص آیت ۲۶) یعنی اے داؤڈ ہم نے جسمیں زمین میں اپنا ناہب میلایا ہے تم لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ دیا کرو اور نفسانی خواہشات کی چیزوں کا نہ کرنا ورنہ یہ چیزوں کی تھیں خدا کی راہ سے پہنچو گی۔

حجاج : حضرت داؤڈ کی قضاوت کس مسئلے میں تھی۔

حرہ : دو افراد کے مسئلے میں تھی جن میں سے ایک کسان تھا، دوسرا

حومت عط کر جس کامیرے بعد کوئی سزاوارث ہو اور دوسرا طرف میرے موں
جن دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں: "طلقت یا دنیا ثلاٹا لا حاجۃ لی فیک" یعنی
اے دنیا تجھے میں نے تم دفعہ طلاق دی جس کے بعد رجوع کرنے کی کوئی گنجائش
نہیں رہتی۔ اسی وقت خداوند عالم نے یہ آیت نازل کی: "تُلَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ
نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرِيدُونَ عَلَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقْبِنِ" (سورۃ
تحصی آیت ۸۳) یعنی آخرت کا مگر تو تم انہیں لوگوں کے لئے خاص کروں گے
جو روئے زمین پر نہ سر کشی کرتا چاہتے ہیں اور نہ فساد اور پھر نیک انجام تو
پر بیرون گاروں ہی کا ہے۔

حجاج: اچھا حضرت علیؑ کو حضرت عیسیٰ پر کیونکر فضیلت دیتی ہو؟

حرہ: کیونکہ خداوند عالم قرآن میں حضرت عیسیٰ سے فرماتا ہے:
”وَادْقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مُرِيمٍ إِنَّكَ قَلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأَمِّي
الْيَهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سَبَحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّهِ
كَثُرَ قَلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلِمَتْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ
الْغَيْوَبِ مَا قَلْتَ لِهِمْ إِلَّا مَا أَمْرَقْتَ بِهِ“ (سورۃ مائدہ آیت ۱۱۶ و آیت ۱۱۷)

”اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت کے دن عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ
اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ کو
اور میری ماں کو خدا بنالو؟ عیسیٰ عرض کریں گے تو بلند بیان ہے میری کیا مجاہ جو
میں یوں کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے اور اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو
شرط معلوم ہو گا کیونکہ تو میرے دل کی سب باقیں جانتا ہے۔ ہاں البت میں تیرے

چڑواہ، چڑواہ کے بھیڑ کسان کے باغ میں چلے گئے اور دہاں جا کر اس کی زراعت
کو جاہ کر دیا، یہ دونوں افراد حضرت داؤدؓ کے پاس فیصلے کے لئے آئے، دونوں نے
اپنا مسئلہ حضرت داؤدؓ کے سامنے بیان کیا، حضرت داؤدؓ نے فیصلہ دیا کہ چڑواہ اپنے
بھیڑ پک کر کسان کو اس کا خسارا دے۔ کسان اس پیسے کو لے کر باغ کو دوبارہ سے
تروتازہ بنائے۔ حضرت سلیمانؑ جو حضرت داؤدؓ کے بیٹے ہے اپنے باپ سے کہنے
لگے: ”بیبا! بکھ ان جانوروں کا دودھ اور چشم بھی اس کسان کو دیا جائے۔ اس طرح
کسان کے خسارے کا جبران کیا جاسکتا ہے۔“ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے:
”فَهَمَّا سَلِيمَانٌ“ (سورۃ انبیاء آیت ۹۷) یعنی ہم نے حکم واقعی سے سلیمانؑ کو
بھجا ہیا، لیکن میرا مولا فرمایا کرتا تھا: ”سَلُوْنِي قَبْلَ اَنْ تَفْقَدُونِي“ یعنی مجھ سے
پوچھو قبل اس کے تم مجھے اپنے درمیان شپاو۔ تورات والوں کو تورات سے انجیل
والوں کو انجیل سے نیور والوں کو نیور سے اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں
گا۔ جیسا کہ حضرت علیؑ جب جگ خیر کی ریح کے بعد نبی اکرمؐ کے پاس گئے آپؐ
نے حاضرین سے فرمایا: ”اَفْضَلُكُمْ وَاعْلَمُكُمْ وَاقْظَاكُمْ عَلَىٰ“ یعنی علیؑ تم سب
سے افضل، تم سب سے زیادہ علم کا مالک، تم سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔
حجاج: اے حرہ تم پر آفرین ہو! اچھا یہ تو ہتاو کہ حضرت علیؑ کو حضرت
سلیمانؑ پر کیونکر برتری دیتی ہو؟

حرہ: خداوند عالم قرآن مجید میں حضرت سلیمانؑ کی زبانی لقل کرتا ہے:
”رَبِّ اغْفُرْلِي وَهَبْ لِي مُلْكَ الْأَرْضِ بِسَبِّي لَا حَدَّ مِنْ بَعْدِي“ (سورۃ عص آیت ۳۵)
یعنی سلیمانؑ فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے عرش دے اور مجھے اسی

جواب دیا اور اس ناشناس اور ابوالہذیل کے درمیان اس طرح مکمل شروع ہوئی:

اجنبی دانشمند: کہاں کے رہنے والے ہو؟

ابوالہذیل: اہل عراق ہوں۔

اجنبی دانشمند: تو اہل تجربہ اہل ہزر ہو گے۔ ذرا یہ بتاؤ عراق میں کس جگہ رہتے ہو؟

ابوالہذیل: بصرہ میں۔

اجنبی دانشمند: پھر تو اہل علم اہل تجربہ ہو گے۔ تمہارا کیا نام ہے؟

ابوالہذیل: میں ابوالہذیل علاف ہوں۔

اجنبی دانشمند: اوہ! مشور حکیم۔

ابوالہذیل: جی ہاں۔

اجنبی دانشمند اپنی جگہ سے اٹھے اور ابوالہذیل کو اپنے بردہ میں بھایا مکمل
کے بعد اس سے کہا: لامت کے بارے میں تمہارا کیا نظر یہ ہے؟

ابوالہذیل: آپ کی مراد کوئی لامت ہے؟

اجنبی دانشمند: میرا مقصد یہ ہے کہ رحلت خیبر^۱ کے بعد بخوان
جائشیں خیبر تم کس کو مقدم جانتے ہو؟

ابوالہذیل: اسی کو جس کو خیبر^۲ کے مقدم کیا ہے۔

اجنبی دانشمند: وہ کون ہے؟

ابوالہذیل: وہ ابو بجز^۳ ہیں۔

اجنبی دانشمند: ان کو کس ماہ پر مقدم جانتے ہو؟

جن کی بات نہیں جانتا کیونکہ اس میں کوئی تک نہیں کہ تو ہی غیب نہ باتیں خوب
جانتا ہے۔

بہذا صحیحی کی پرستش کرنے والوں کا عذاب اس ترتیب سے قیامت تک
موخر ہو گیا جبکہ میرے مولا علیؑ کو جب فرقہ "نصیریہ" غلوکرنے والے گروہ نے
خدا جانا تو علیؑ نے ان کو ان کی اس بات پر قتل کر کے ان کے عذاب کو قیامت
تک بھی تاخیر نہیں ہونے دیا۔

حجاج: حره تجھے صد آفرین ہو کہ جو دعویٰ کیا تھا اس پر پوری اڑی اور
اگر تم یہ جوابات نہ دے پا تھیں تو میں تمہاری گروہ ضرور ازاد ہتا۔ پھر حجاج نے حره
کو انعامات دے کر بوی عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ (فضائل ابن شاذان
صفیٰ ۱۲۲۔ حار جلد ۳ صفحہ ۱۳۹)

(۳۷)

ابوالہذیل سے مکالمہ

ابوالہذیل عراق کے اہل سنت کا معروف عالم دین (مکالہ ۳۶ میں اس کی
کفتوہ مزید آئے گی) ایک سفر کے دوران جب سوریہ کے ایک شر قہ میں پہنچا تو
اس نے ساکر بیساں ایک دیوانہ ہے لیکن بے برا خوش کلام۔ ابوالہذیل اس سے
ملئے اس کے گھر گیا، دیکھا ایک بوزھا شخص ہے مگر بوسے جمال اور خوش قامت
اپنی جگہ پر بیٹھا اپنے بالوں کو سکھا کر رہا ہے۔ بہیل نے اس کو سلام کیا اس نے
ا۔ اگرچہ ایک سچی دسامم دانشمند مگر تھا اپنے کو دیوانہ نہیا ہوا تھا۔

تھے۔ اے بہلیں اب میں تم سے کچھ سوال پوچھتا چاہتا ہوں لہذا ان سوالوں کے ذرا مجھے جواب دیدو۔

سوال ۱: کیا ایسا نہیں ہے کہ ابو جریر نے منبر پر جا کر یوں کہا ہوا: "ان لی شیطانا بعترینی فاذار ایضمنی مفضاً فاحذر ونی۔" یعنی بے شک میرے وجود میں شیطان ہے جو مجھے غافل کر کے رہتا ہے لہذا جب بھی مجھے غصے میں پانا مجھ سے دور ہو جانا لہذا اس ماضی پر تم لوگ کیوں کر اسے رہبر مانتے ہو؟

سوال ۲: ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم خود معتقد ہو کہ ٹیغپڑتے کسی کو اپنا جانشین نہیں ہمیا، لیکن ابو جریر نے عمر کو اپنا جانشین ہمیا اور عمر نے کسی کو جانشین نہیں ہمیا ان لوگوں کے کروار میں کیا تاتفاق ہے، اس کا جواب کیا ہے؟

سوال ۳: مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ عمر نے جب اپنی بعد والی خلافت میں چھ افراد کی شوریٰ ہمایی اور کمایہ سب الہیت ہیں تو بعد میں یہ کیوں کہا کہ اگر ان میں سے دو افراد چار افراد کی مخالفت کریں تو ان دو افراد کو قتل کر دیا اور اگر تین افراد دوسرے تین افراد کی مخالفت کریں تو ان تین میں اگر عبدالرحمن بن عوف ہے تو ان کو قتل کر دیا، کیا اس حتم کا حکم دینا ان کی دیات پر دلالت کرتا ہے کہ ال بہشت کے قتل کا فتویٰ دیں؟

سوال ۴: اے ابوالہدیل! تم لئن عباس و عمر کی ملاقات اور ان کی گفتگو کے بارے میں کیا سمجھتے اور کیا کہتے ہو۔ جب عمر ان خطاب ثمودر کھانے کی وجہ سے شدید ہمار ہو گئے اور عبد اللہ ان عباس ان کے پاس گئے تو دیکھا ہوئے پڑا ہیں، پوچھا کیوں پڑا ہو؟ کہنے لگے میری یہ بیانی اپنے لئے نہیں ہے بلکہ اس

ابوالہدیل: کیونکہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ تم میں جو سب سے بہرین و برتر فرد ہے اس کو مقدم رکھو اور اپنا رہبر قرار دو۔ لہذا تمام لوگ ابو جریر کے مقدم ہونے پر راضی تھے۔

اجنبی دائمہند: اے ابوالہدیل! ایسا ہے تم نے غلطی کی ہے اور یہ جو تم نے رسول خدا کا فرمان ابو جریر کی حمایت میں ذکر کیا اس پر میرا اعتراض یہ ہے کہ ابو جریر نے خود منبر پر جا کر کہا تھا کہ: "ولیعکم ولست بخیر کم۔" یعنی اگرچہ میں نے تم لوگوں کی رہبری لی ہے مگر تم میں بہرین شخص نہیں ہوں۔ (الحد الغدیر جلد ۲ صفحہ ۷۶)

لہذا اگر لوگوں نے ابو جریر کے جھوٹ کو بھی برتر جانتے ہوئے اپنا رہبر ہمیا ہے تو خود رسول خدا کے فرمان کی مخالفت کی ہے اور اگر خود ابو جریر نے جھوٹ بولا ہے یہ کہ کہ "میں تمہارے درمیان کوئی برتری نہیں رکھتا" تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ایسے جھوٹ بولنے والے افراد منبر رسول پر جائیں اور یہ جو تم نے کہا کہ تمام لوگ ابو جریر کی رہبری پر راضی تھے یہ تم نے کس طرح کہا جکہ انصار میں سے اکثر افراد جو حدیث میں تھے، کہتے تھے: "منا اہمرو منکم امیر" یعنی ایک مرد رہا ہم انصار میں سے ہو اور ایک مرد رہا تم مهاجرین میں سے، اور جب مهاجرین میں سے نبیر نے کہا کہ میں علیؑ کے علاوہ کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا تو اس کی شہنشیر کو توڑ دیا گیا۔ ہوسقیان حضرت علیؑ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں اس طرح ابو جریر کی بیعت کے وقت اختلاف کا ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ سب ابو جریر کی رہبری پر بھی راضی نہیں

کر ڈالیں گے۔

ان عباس کتے ہیں کہ پھر میں خاموش ہو گیا، اور عمر اور حضرت علیؓ کے درمیان عدالت کی وجہ سے امیر المؤمنینؑ کا نام نہیں لیا۔ لیکن خود عمر نے مجھ سے کہا: اے ان عباس! اپنے دوست علیؓ کا نام نہیں لیا؟
میں نے کہا: تو علیؓ کو لوگوں کا رہبر ہادو۔

عمر نے کہا: خدا کی قسم میں پریشان و پیتاب نہیں ہوں مگر صرف اس لئے کہ جس کا حق تھا ہم نے اس سے اس کا حق لے لیا: "وَاللَّهُ لَنِّي وَلِيَهُ لِيَحْمِلُنَّهُمْ عَلَى الْمُحْجَّةِ الْعَظِيمِ وَإِنْ يَطِيعُوهُ يَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ". یعنی خدا کی قسم اگر علیؓ کو لوگوں کا رہبر ہادو تو یقیناً وہ لوگوں کو سعادت کے بلند درجہ تک پہنچا دیں گے۔ اگر لوگ ان کی بجزوی کریں تو وہ ان لوگوں کو بہشت تک پہنچا دیں گے۔ عمر نے اگرچہ یہ سب باتیں کیں مگر پھر بھی اپنے بعد کے لئے خلافت کو اس چھ نفری شوری کے پردہ کی۔ اس کے پروردگار کی نسبت وائے ہواں پر۔

ابوالہذیلی: کہتے ہیں کہ وہ اجنبی داشتند جب یہ سب باتیں تمام کر چکا تو پھر سے اس پر دیوانگی طاری ہو گئی (یعنی تینی اپنے کو دیوانہ ہالیا) جب یہ ماجرا مامون (ساتویں خلیفہ اموی) کو جا کر بتایا تو مامون نے اسے بلا کر اپنے پاس رکھا، اس کا علاج کر لیا اور اپنے امور میں اپنا ہدم قرار دیا۔ حتیٰ کہ خود مامون اس کی منطقی باقتوں سے شیخہ ہو گیا۔ (احتجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۱۵۲-۱۵۳)

لئے ہے کہ میرے بعد کون مقام رہبری کو سنبھالے گا۔ پھر ان کے اور ان عباس کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے:

ان عباس: طلحہ بن عبد اللہ کو رہبر ہادو۔
عمر: وہ بڑا خود غرض انسان ہے مغیراً کرمؓ اسے اس حوالے سے پہچانتے تھے، میں ایسے شخص کو ہرگز رہبری نہیں دوں گا۔

ان عباس: نبیر بن حمام کو لوگوں کا رہبر ہادو۔
عمر: وہ ایک حلیل انسان ہے میں مسلمین کی رہبری ایسے حلیل شخص کو ہرگز نہیں دوں گا۔

ان عباس: سعد بن اہل و قاص کو لوگوں کا رہبر ہادو۔
عمر: سعد کا شمشیر و گھوڑے سے سروکار ہے۔ یعنی فوجی آدمی ہے۔ ایسا شخص رہبری کے لئے مناسب نہیں ہے۔

ان عباس: عبد الرحمن بن عوف کو رہبر ہادو۔
عمر: وہ تو اپنے گھر کو چلانے سے عاجز ہے۔

ان عباس: اپنے بیٹے عبد اللہ کو رہبر ہادو۔
عمر: نہیں خدا کی قسم ایسا مرد جو اپنی میوی کو طلاق دینے سے عاجز ہو ہرگز مقام رہبری کے لائق نہیں ہے۔

ان عباس: تو عثمان کو رہبر ہادو۔
عمر: تین مرتبہ کما خدا کی قسم اگر عثمان کو رہبر ہادو تو طائفہ بتی میط جو بنی امیہ کی نسل سے ہیں مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گے اور عثمان کو قتل

ایودلف کا اپنے بیٹے کو پیغمبر کے قول پر اشکال کا جواب
 قاسم بن عیسیٰ عجلی جو "ایودلف" کے نام سے مشہور تھے، جوان، بخی اور
 امام علیؑ کے بچے ہیروکاروں میں سے تھے۔ وہ اپنے خاندان کے سر پرست اور شاعر
 بھی تھے ان کا انتقال ۲۲۰ھ ق میں ہوا۔ (سفیہۃ الحمار جلد اول صفحہ ۳۶۲)
 ان کا ایک بیٹا جس کا نام "دلف" تھا وہ اپنے باپ کے بر عکس بدنیان و
 بد طینت تھا۔ ایک روز اس کے دوستوں کے درمیان پیغمبر کی اس روایت پر حرف
 ہونے لگی جو علیؑ کی شان میں تھی کہ: "لا یحکم الا مؤمن تقى ولا یفڪم الا
 ولد زينة او حِصَةٍ." یعنی اے علیؑ تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر جو مؤمن
 و متقى ہو اور تم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جس کی پیدائش زنا سے ہوئی ہو یا
 اس کا نطفہ حیض کی حالت میں رحم مادر میں قرار پایا ہو۔
 دلف جو اس موضوع ہی کا منکر تھا، اپنے دوستوں سے کہنے لگا: تمہارا
 نظریہ میرے باپ ایودلف کے بارے میں کیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ
 انہوں نے اپنی بیوی سے زنا کیا ہو؟
 اس کے دوست کہنے لگے: ہرگز ہم امیر ایودلف کے بارے میں ایسا
 نہیں سوچ سکتے ہیں۔
 دلف کہنے لگا: "خدا کی قسم میں حضرت علیؑ سے شدید ترین دشمنی رکھتا
 ہوں جب کہ نہ میں زنازوہ ہوں اور نہ ولد حیض ہوں۔"
 اسی ہنگام میں اس کے والد ایودلف مگر سے باہر آئے۔ جب بیٹے کو کچھ

مامون کا علماء سے مکالمہ

ایک دفعہ مامون (ساتواں خلیفہ عباسی) کے دربار میں الہامت کے بارگ
 علماء کی جمیعت پیشی ہوئی تھی اس میں کافی طویل مناظرہ شروع ہو گیا۔

ایک سنبھال دین کہنے لگے: پیغمبر اکرمؐ سے روایت ہے کہ آپؐ نے
 ابو بکر و عمر کے شان میں فرمایا: "ابوبکر و عمر سید اکھوں اہل الجنۃ" یعنی
 ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔

مامون نے کہا: یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ بہشت میں کوئی بوڑھا
 نہیں جائے گا۔ کیونکہ ایک روایت ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت پیغمبر اکرمؐ
 کے پاس آئی آپؐ نے اس سے کہا کہ "بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔" وہ
 عورت روتے لگی۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "انا انسانا هم
 انشاء فجعلنا هن ابكارا اغروا اترواها۔" (سورۃ واقعہ آیت ۳۷ ۳۸ ۳۹) یعنی ان کو
 وہ خوریں ملیں گی جن کو ہم نے نیا پیدا کیا ہے تو ہم نے انہیں کتواریاں پیاری
 پیاری تکوچولیاں بنایا ہے۔

اب اگر تم کو کہ ابو بکر و عمر جوان ہو کر بہشت میں جائیں گے تو اس
 روایت رسول خداؐ کو کیا کرو گے جس میں رسول خداؐ نے فرمایا: "ان الحسن
 والحسين سید اشباب اہل الجنۃ الاولین و الآخرين و ابوهما خیر منهما۔"
 یعنی حسن و حسین دونوں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد
 محترم ان سے بہتر ہیں۔ (خار جلد ۳۹ صفحہ ۱۹۳)

ابوہریرہ کی بے بیجاد بائیں سن کر یہ جوان بولا: اے ابوہریرہ تمہیں خدا کی قسم دیجہ ہوں کہ ذرا یہ تا و تم نے رسول خدا سے حضرت علیؓ کے بارے میں یہ دعا سنی ہے: "اللهم وال من والاہ و عاد من عاداہ" یعنی خدیلیا! جو علیؓ کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔

ابوہریرہ نے جب دیکھا کہ اس پچھی حدیث سے انکار نہیں کر سکتا تو کہنے لگا: "اللهم نعم" یعنی خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ "ہاں سنی ہے۔"

وہ غیور جوان بولا: الجزا میں بھی خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم دشمن علیؓ سے دوستی اور علیؓ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہو۔ الجزار رسول خدا کی تضدین میں تم بھی شامل ہو۔ یہ کہہ کر وہ جوان اس جلسہ سے انہ کر چلا گیا۔ (شرح نجح البلاعہ ان حدید حلیح ۲ صفحہ ۳۳)

(۲۱)

نجوان کا تمتوں کا جواب

ایک دوست نے کہا کہ میں سعودی عرب کی ایک مسجد میں تھا کہ ایک شخص جو سواری کا رہنے والا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا تم شیعہ لوگ نماز کے بعد یہ تین مرتبہ کیوں کہتے ہو: "خان الامین، خان الامین، خان الامین" یعنی جیر نئل امین نے خیانت کی۔

مجھے یہ سن کر تجھ بہا اور اس سے کہا میں دور کعت پڑھتا ہوں ذرا دیکھنا کس طرح پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا تھیک ہے۔ میں نے دور کعت نماز کا مل پڑھی،

لوگوں کے ساتھ جھٹ کرتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی اور جب وہ موضوع سے باخبر ہوئے تو کہنے لگے: خدا کی قسم یہ دلف زنازادہ بھی ہے اور ولد حیض بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک دفعہ میں یہ ماراپنے بھائی کے گھر لینا ہوا تھا کہ ایک کینز اس گھر میں داخل ہوئی میرے نفس لدارہ نے مجھے اس سے مجرمیتی پر آمادہ کیا۔ اگرچہ وہ کینز کہتی رہی کہ میں حالت حیض میں ہوں تب بھی میں نے اس سے مجرمیتی کر لی جس سے یہ دلف پیدا ہوا ہے۔ لہذا یہ حرام زادہ ہے۔ (کشف القنین صفحہ ۱۶۶
خار جلد ۳۹ صفحہ ۲۸)

دلف کے دوست و حاضرین سب دلف کی حضرت علیؓ سے دشمنی کی وجہ بھی گئے کہ جس کی بیجادتی خراب ہواس کی آخرت بھی خراب ہے۔

(۲۰)

ابوہریرہ کو ایک غیور جوان کا جواب

محاویہ نے کچھ جمعوئے صحابہ و تلامیذ کو پیسوں سے خریدا ہوا تھا تاکہ ان کے ذریعے امام علیؓ کی مخالفت میں جعلی حدیثیں نقل کروائے۔ ابوہریرہ، عروین عائیں اور مغیر بن شعبہ جیسے صحابہ اور عروۃ ابن نبیر جیسے تلامیذ۔

ابوہریرہ، حضرت علیؓ کی شادت کے بعد کوئے آکر محاویہ کی حمایت میں حضرت علیؓ کے غلاف احادیث گھڑتا تھا کہ تھیب نے یوں فرمایا، مسجد کوئہ میں بیٹھ کر لوگوں کو گراہ کیا کرتا تھا۔

ایک رات کوئے کا ایک غیور و آگاہ جوان بھی اس محفل میں بیٹھا تھا۔

اس کے آخر کی تین بھی مستحبی بھی پڑھیں، اس کے بعد اس کی طرف دیکھنے
ہوئے کما: کمو کیسا دیکھا؟

وہ کہنے لگا: تم تو ایک عجم ہو لیکن ہم عربوں سے بھر تم نے نماز پڑھی
ہے لیکن تم نے "خان الامین" کیوں نہیں کما؟

میں نے کما: اس طرح کے الزامات و تہذیب تم سادہ لوح افراد کے اذہان میں
استھار و شیاطین ڈالتے ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کیلئے ایجاد کرتے ہیں۔

مزید وضاحت: یہ کہ ان کا مطلب "خان الامین" سے یہ ہے کہ نعمۃ اللہ

شیعہ معتقد ہیں کہ جریئل ائمہ جو فرشتوں ہیں، انہیں یہ حکم ملا تھا کہ قرآن کو

حضرت علیؑ کے پاس لائیں، مگر انہوں نے خیانت کی اور قرآن تحریر اسلامؑ کے

پاس لے گئے۔ اس لئے شیعہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ "خان الامین" کہتے ہیں۔

یعنی جریئل نے خیانت کی ہے۔ لہذا اس قسم کے الزامات بعض الحست کے معروف

افراد نے دیے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈاکٹر سید محمد تقیٰ جانی نے وضاحت

کے ساتھ اپنی کتاب "پھر میں بدایت پا گیا" میں صفحہ ۲۵ پر تحریر کیا ہے۔

(۳۲)

ایک شیعہ کے محکم دلائل

ایک عالم دین کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں نبیؐ کی قبر کے کنارے کھڑا تھا
کہ دیکھا کہ ایک شیعہ ایرانی آیا اور وہ ضریع مقدس رسول خدا کو چونے لگا۔ مسجد

کا امام جماعت اسے ڈالنے لگا کہ ان بے جان اور بے شعور پھر، دیوار اور دروازوں

کو کیوں چوتھے ہو، یہ تو پھر اور لوہے کے ہیں۔

اس مسجد کے امام جماعت کے اس چیختے چلانے سے میرا دل اس ایرانی
کے لئے دکھل میں آگے بڑھا اور اس امام جماعت سے کہا: جتاب ان درود یواروں
کا چومنا رسول خدا سے مجت کی دلیل ہے جس طرح باپ اپنے پچھے کو مجت میں
چوتھا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔

امام جماعت کہنے لگا: نہیں یہ شرک ہے۔

میں نے کہا: کیا تم نے سورہ یوسف کی آیت ۹۶ نہیں پڑھی جس میں
خداؤند عالم فرماتا ہے: "فَلَمَّا أَنْجَاهُ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَ بَصِيرًا".
یعنی جب خرد یعنی والے نے یعقوبؑ کو یوسفؑ کی خبر دی اور یوسفؑ کے لباس کو
یعقوبؑ کی آنکھوں پر ملا تو ان کی بصارت لوٹ آئی۔ لہذا میرا آپ سے یہ سوال ہے
کہ یہ کیا لباس تھا جو حضرت یعقوبؑ کی پہنائی لوٹ آنے کا سبب ہا؟ کیا اس کے
علاوہ اور کوئی بات تھی کہ وہ حضرت یوسفؑ کے جسم سے مس کیا ہوا تھا؟

اس وہابی امام جماعت سے کوئی جواب نہ من سن سکا۔ پھر میں نے کہا: تم نے
سورہ یوسف کی آیت ۹۶ میں پڑھا ہوگا: جب حضرت یعقوبؑ قاتلے میں مصر سے
۸۰ کلو میٹر کے قاطلے پر تھے تو کہنے لگے: "إِنِّي لَاجِدُ رِبِيعَ يُوسُفَ" یعنی میں
یوسفؑ کی خوبیوں کو محسوس کر رہا ہوں۔ لہذا اولیاء کے یہ آثار معنوی ہیں جو شرک
نہیں ہیں بلکہ عین توحید ہیں۔

مزید وضاحت: اولیائے خدا کی تصور کی نزدیک سے زیارت کے وقت
ہمارا قلبی و معنوی احساس بڑھ جاتا ہے اور ہم انہیں خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار

دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو مسکنا خدا کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہیں لہذا ان صاحبان کو واسطہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے : ”قَالُوا يَا أَبَا إِسْحَاقَ اسْتَغْفِرْنَا ذُنُوبُنَا إِنَا كَانَ حَاطِنِينَ۔“ (سورہ یوسف آیت ۷۹) یعنی حضرت یعقوبؑ کے پیچے کرنے لگے : اے بیبا! خدا سے ہمارے گناہ کی مغفرت کی دعا مانگیں، یہوکہ ہم نے خطا کی ہے۔ لہذا الولیائے خدا سے توسیع چاہئے۔ جو لوگ ان تسلیمات کو شرک سے تبیر کرتے ہیں وہ قرآن سے نا آشنا ہیں اور اپنے غلط تحسب کی ہا پر اس قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ خداوند عالم سورۃ مائدہ کی آیت ۳۲ میں فرماتا ہے : ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ وَابْنَهُ أَكْثَرُ الْأَمْلَامِ“۔

یعنی اے صاحبان ایمان! خدا سے ڈر اور خدا کے لئے وسیلہ ہنا ف یہ آیت فقط ادائے واجبات و ترک محظمات ہی کو وسیلہ قرار نہیں دیتی بلکہ واضح کرتی ہے کہ مسحیات بمشمول انجیاء و اولیاء سے توسیع بھی وسیلہ ہے۔ روایت ہے کہ منصور دو اعلیٰ (دوسری اخیفہ عباسی) نے مفتی اعظم (مالک بن انس) جو مذہب مالکی کے سربراہ تھے ان سے پوچھا : حرم یتھبؑ میں روی قبلہ ہو کر دعا مانگوں یا یتھبؑ کی ضریع کی طرف رخ کر کے دعا مانگوں؟ مالک نے جواب میں کہا : ”لَمْ تَصْرُفْ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَكَ وَوَسِيلَةَ إِيمَانِكَ آدَمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَهِ بِإِلَاستِقبلَهُ وَامْتَشَعَ بِهِ فَيَشْفَعُكَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْلَلُوا أَنفُسَهُمْ“۔ یعنی کیوں یتھبؑ کی طرف سے رخ موڑتے ہو جائے وہ تمہارے اور تمہارے باپ آدمؑ کے لئے روز قیامت وسیلہ ہیں، ان کی طرف رخ کرو ان کو اپنا شفیع قرار دو کیونکہ خدا ان کی شفاعت کو قبول کرنے والا ہے اور خداوند عالم فرماتا ہے : ”وَلَوْ أَنَّهُمْ أَذْلَلُوا

جازک . فاستغفرو اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدو اللہ تو ایا رحیما۔“ (سورہ نساء آیت ۶۲) یعنی اے رسول! ان لوگوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر قلم کیا، اگر یہ تمہارے پاس چلے آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور اے رسول! تم بھی ان کی مغفرت چاہتے تو یہوکہ یہ لوگ خدا کو بولا توبہ قول کرنے والا مریان پاتے۔ شیخہ سنی دونوں سے نقل ہے کہ حضرت آدمؑ نے توبہ کے وقت خانہ خدا کے سامنے پیغمبر اسلامؐ کو واسطہ قرار دیتے ہوئے یہ دعا کی تھی : ”اللَّهُمَّ اسْتَلِكْ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفْرَتْ لِي“۔ یعنی خدا تجھے محمدؐ کے حق کا واسطہ دے کر دعا کر کرنا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ (درہٹور جلد اول صفحہ ۵۹ و متدرک حاکم جلد ۲ صفحہ ۶۱۵ و مجمع الیمان جلد اول صفحہ ۸۹) اس موضوع پر کہ اولیائے خدا کی قبور کا چومنا یا ان کو وسیلہ قرار دینا شرک نہیں ہے الحست کی کتابوں سے تین روایتیں نقل کی جاتی ہیں :

پہلی روایت : ایک شخص پیغمبر اسلامؐ کے پاس آیا اور سوال کیا : یادِ رسول اللہ! میں نے قسم کھائی ہے کہ بھشت کے دروازے اور حوار ایں کی پیشانی کو چو مون گا، اب میں کیا کرو؟ پیغمبر اکرمؑ نے جواب دیا : ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی کو چوم لو۔ یعنی اگر ایسا کرو گے تو اپنی آرزو کو بحقیقت کرے ہو۔ اس نے کہا : اگر ماں باپ مر چکے ہوں تو؟ پیغمبر اکرمؑ نے کہا : ان کی قبور کو چو مو۔ (العلام قطب الدین حنفی صفحہ ۲۳)

دوسری روایت : جب حضرت ابراہیمؑ اپنے پیچے حضرت اسماعیلؑ سے ملنے شام سے مک گئے تو پہاگھر پر موجود نہ تھا چنانچہ وہ شام کو واپس آگئے۔ جب حضرت اسماعیلؑ سفر سے لوٹے تو زوجہ اسماعیلؑ نے حضرت ابراہیمؑ کے آنے کی خبر دی تو

میں نے کہا: تم خانہ کعبہ کے کوئے پر گئے جبراہود کو چھوٹے ہو؟
شرطہ: ہاں۔

میں نے کہا: جب روضہ رسولؐ کے اس پتھر کو چومنا شرک ہے تو جبراہود
کو چومنا بھی شرک ہے۔

شرطہ: اس کو تخبر اکرمؐ نے چھوڑا ہے۔

میں نے کہا: جب کسی چیز کو تمہارا چومنا شرک ہے تو بالکل فرق نہیں ہے
چاہے تخبر ہو یا کوئی اور۔

شرطہ: تخبر اکرمؐ نے جبراہود کو اس لئے چوہا کہ وہ جنت سے آیا تھا۔

میں نے کہا: اچھا۔ چونکہ وہ پتھر جنت سے آیا ہے اس لئے آپ اسے
چھوٹے ہیں اور دوسری طرف تخبر نے چونکہ اس کو چھوٹے کا حکم دیا ہے اس لئے
چھوٹے ہیں۔

شرطہ: ہاں! اسی لئے چھوٹے ہیں۔

میں نے کہا: یعنی جتنی چیزیں بذات خود محترم نہیں ہیں مگر وجود تخبرؐ کی
وجہ سے قابل احترام ہو گئی ہیں۔

شرطہ: ہاں۔

میں نے کہا: تو جب جنت یا اس کی چیزیں وجود تخبرؐ کی وجہ سے قابل
احترام ہو گئی ہیں اور انہیں تمہارا چوہا جاسکتا ہے تو یہ قبر نبیؐ کے اطراف میں لگا ہوا لہا
بھی قبر نبیؐ سے نزدیک ہونے کی وجہ سے احترام کا حال ہے۔ لہذا اسے بھی بخوان
تمہارا چومنا جائز ہے۔

وہ دوڑے اور اپنے والد کے پتھر کے نشان ڈھونڈنے اور والد کے احترام میں اس
جگہ پر یوسہ دینے لگے۔ (الاعلام قطب الدین حق صفحہ ۲۳)

تیسرا روایت: سقیان ثوری جو (المحت کے صوفی مسلک سے تعلق رکھتا
تھا) لام صادقؐ کے پاس آیا اور کہنے لگا: لوگ کہیے کے پردے کو کیوں چھوٹے ہیں؟
جبکہ وہ پرانے کپڑے کا پردہ ہے جو لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لام صادقؐ
نے اس کے جواب میں فرمایا: یہ اس شخص کی سی مثال ہے جو دوسرے کا حق
ظانع کرتا ہے اور پھر اس کے دامن کو پکڑ کر معافی مانگتا ہے تاکہ وہ اسے ٹھیک
وے۔ (أنوار البهية شرح حال لام صادق)

(۲۳)

ایک مجتہد کا سعودی پولیس سے مباحثہ

حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی قدس سرہ اپنی مشہور کتاب
"الاحتجاجات العشرة" کے احتجاج ششم میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں روضہ
رسولؐ پر حاضری دینے گیا تو دیکھا کہ حوزہ علیہ قم کا ایک طالب علم ضریع تخبر
کو یوسہ دینے کے لئے آگے بڑھا اور وہاں کے سکونتی گارڈ (شرطہ) سے چھے ہوئے
ضریع مقدس کو چھوٹے لگا۔ جب شرطہ نے دیکھا تو قصہ سے بھرا میرے پاس آیا
اور کہنے لگا: جناب عالیٰ! آپ اپنے لوگوں کو ضریع کو چھوٹے سے منع کیوں نہیں
کرتے، یہ پتھر کے دروازے اور اینٹوں کی دیواریں ہیں جن کو چومنا شرک ہے۔
لہذا ان کو منع کریں کہ یہ ایسا نہ کیا کریں۔

علی بن میثم کے چند مکالمے

ایک شیعہ بر جست عالم دین جو تاریخ شیعہ کے حکلم (یعنی علم کلام میں ماہر) بھی تھے علی بن اسما میمل بن شعیب بن میثم جو میثم تمار کے نواسے تھے اور علی بن میثم کے ہم سے مشور تھے امام رضا کے اصحاب خاص میں ان کا شمار ہوتا تھا اور مخالفین سے حصہ و مناظرہ کرنے میں ان کو کافی صدارت حاصل تھی۔ لہذا طبری نے میثمنہ ہم یہاں ان کے کچھ مناظروں کو ذکر کرتے ہیں۔

(۲۳)

علی بن میثم کا ایک مسیحی سے مکالمہ

علی بن میثم: تم لوگ صلیب کو اپنی گردنوں میں کیوں آؤزیں کرتے ہو؟
 مسیحی: اس لئے کہ یہ اس سویں کی شیعہ ہے جس پر حضرت عیسیٰ علی السلام کو سوی دی گئی۔

مزید وضاحت: یہ کہ قرآن کی جلد جو کسی جائز کے چجزے سے بنتی ہو جو جنگل میں چرتا ہے اس کی اس کمال کی خاص اہمیت نہیں ہوتی مگر جب اسی کمال سے قرآن کی جلد بنا دی جائے تو اگرچہ اس چجزے کو جلد بننے سے پہلے نجس کرنا حرام نہیں تھا مگر اسے نجس کرنا بھی حرام ہو جائے گا اور اس کی اہمیت بھی پہلے سے بدھ جائے گی اسی لئے اسے چومنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ کسی نے اسے شرک یا حرام نہیں کہا۔ خیربر اکرم، انہے اطمینان اور ویگر اولیاءِ خدا کی ضریعہ کو چومنا بھی اسی طرح ہے۔ اس میں شرک اور بدعت نہیں ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں لعلیٰ و مجنون گزرے ہیں کہ ایک وفادار ملیٰ کے محلے سے ایک کتا مجنون کے محلے میں گیا، مجنون نے جیسے ہی اس کے کو دیکھا اس کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر پیدار کرنے لگا۔ کسی نے آکر اس سے کہا: "لیس علی المجنون حرج" کیونکہ تم دیوانے ہو اس لئے کہے کو پیدار کرنے سے دربغ نہیں کر رہے ہو۔ مجنون نے جواب میں کہا: "لیس علی الاعمى حرج" کیونکہ تم انہیں ہو اس لئے میرے اس پیدار کرنے کو سمجھ نہیں سکتے اور پھر مجنون نے یہ اشعار کہے:
 امر علی الدیار دیار لیلی اقبل والجدار و ذالجدار
 وما حب الدیار شففن قلی و لكن حب من سکن الدیار
 یعنی جب میں ملیٰ کے گمراہ کے پاس سے گزروں کا تو اس کی ایک ایک دیوار کو چومنوں گا اور یہ چومنا اس گمراہ سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ملیٰ اس میں رہتی ہے۔ (اسکول شیخ نیمای جلد اول صفحہ ۹۱)

علی بن میثم کا منکر خدا سے مکالمہ

ایک دن علی بن میثم، حسن بن سل (بومامون کا وزیر تھا) کے پاس گئے تو دیکھا
ایک منکر خدا وزیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وزیر اس کا احترام کر رہا ہے اور وہ منکر
خدا سب کے سامنے گستاخی کرتے ہوئے اپنے مدھب کی حقانیت بیان کر رہا ہے۔

علی بن میثم نے اپنے مناظرے کو اس طرح شروع کیا:
اے حسن بن سل! آج میں نے تمہارے گھر کے باہر ایک عجیب و
غریب چیز دیکھی۔

وزیر: کیا چیز؟

علی بن میثم: میں نے دیکھا ایک کشتی بغیر ناخدا کے چلی جا رہی ہے۔
ای وقت منکر خدا جو بیٹھا ہوا تھا یو لا: اے وزیر یہ شخص "علی بن میثم"
دیوانہ ہے جبھی ایسی باتیں کرو رہا ہے۔

علی بن میثم: نہیں میں نے صحیح بات کی ہے میں دیوانہ نہیں ہوں۔
منکر خدا: کشتی جو بحادث سے بے عقل و جان نہیں رکھتی کس طرح
بغیر ناخدا اور ہمما کے چلی جا رہی تھی۔

علی بن میثم: میری بات تعجب آور ہے یا تمہاری جو کہتے ہو کہ یہ دریا
بے کرال جس میں عقل و جان رکھنے والی بھی یہ بغیر پیدا کرنے والے درہمما کے
خلاف میں ہے، یہ مختلف حرم لی بزریاں جو زمین سے الگتی ہیں اور یہ بارش وغیرہ جو
آسمان سے مرتی ہے تیرے تھوں ان کا کوئی خالق و مبدع نہیں ہے جبکہ خود تجب

علی بن میثم: کیا حضرت عیسیٰ کو بھی یہ بات پسند ہو گی کہ وہ اس حرم
کی چیز گردن میں آؤ رہا کریں؟
مسیحی: نہیں۔

علی بن میثم: کیوں؟
مسیحی: اس لئے کہ وہ چیز جس پر انہیں سولی دی گئی ہو وہ کس طرح
چاہیں گے کہ اس کو مغلے میں لٹکائیں۔

علی بن میثم: ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضرت عیسیٰ گدھے پر سوار ہو کر
اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے جیسا کرتے تھے؟
مسیحی: ہاں۔

علی بن میثم: کیا حضرت عیسیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ گدھا زندہ رہے
تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔
مسیح: ہاں۔

علی بن میثم: عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ جس چیز کی ٹھا چاہتے تھے
اسے قاتم نے ترک کر دیا ہے اور جس چیز کے وہ پسند نہیں کرتے تھے اسے گردن
میں لٹکائے پھرتے ہو۔

لہذا سزاوار تو یہ تھا کہ اس گدھے کو جس کے باقی رہنے کو حضرت عیسیٰ
پسند کرتے تھے اس کی تصویر گردن میں لٹکاتے تھے کہ اس صلیب کی تصویر کے جس
کو وہ ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ (الصول الحقار سید مرتفعی جلد اول صفحہ ۳۱)

کر رہے ہو کہ ایک کشتمی غیر نادمکے کیسے حرکت کر سکتی ہے۔

وہ مکمل خدا جواب نہ دے سکا اور شرمندہ ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ یہ کشتمی کی مثال مجھے قائل کرنے کے لئے پیش کی گئی تھی۔ (فصل المختار سید مرتضی صفحہ ۲۲)

(۳۶)

علی بن میثم کا ابوالہذیل سے مکالمہ

جیسا کہ پہلے ابوالہذیل کا نام گزر چکا ہے کہ یہ الحست کے بہت بڑے عالم دین اور بڑی شخصیت شمار ہوتے تھے۔ قرن سوم کے آغاز میں ۲۳۰ھ ق ہندوستان میں پیدا ہوئے سو سال کی عمر پا کر ۲۳۵ھ ق بخارا میں انتقال ہوا۔

ایک دن علی بن میثم نے ابوالہذیل سے پوچھا: کیا ایسا نہیں ہے کہ الجیس انسانوں کو ہر قسم کی نیکی سے روکتا اور ہر قسم کی بدائی پر انہمارتا ہے؟

ابوالہذیل: ہاں ایسا ہی ہے۔

علی بن میثم: کیا یہ ممکن ہے کہ الجیس جس نیکی کو نہ جانتا ہو اس سے روکے اور جس بڑے فعل کو نہ جانتا ہو اس پر آمادہ کرے؟

ابوالہذیل: نہیں بلکہ وہ جانتا ہے۔

علی بن میثم: پس یہ بات تو ثابت ہوئی کہ الجیس تمام نیکی و بدی کو جانتا ہے۔

ابوالہذیل: ہاں۔

علی بن میثم: تو پھر ذرا مجھے یہ بتاؤ تخبر اکرمؐ کے بعد تمہارا امام کون

ہے؟ اور کیا وہ تمام نیکی و بدی کو جانتا ہے یا نہیں؟

ابوالہذیل: نہیں وہ تمام نیکی و بدی کو نہیں جانتے۔

علی بن میثم: لہذا اس طرح تو الجیس تمہارے امام سے زیادہ دانا تھا۔

ابوالہذیل سے کوئی جواب نہ ملن پڑا اور شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ (الحصول

الحقار سید مرتضی جلد اول صفحہ ۵ و حوار جلد ۱۰ صفحہ ۳۷۰)

ایک دن ابوالہذیل نے علی بن میثم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس حضرت علیؑ کی نامت اور بعد رسول خدا ابو ہریرہ پر ان کی مرتبی پر کیا دلیل ہے؟

علی بن میثم: تمام مسلمین کا اجماع و اتفاق رائے ہے کہ علیؑ ہی رسول خدا کے بعد عالم و مؤمن کامل تھے۔ لیکن اس وقت اس قسم کا اعواز ابو ہریرہ کے لئے نہیں تھا۔

ابوالہذیل: کون کہتا ہے کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد ابو ہریرہ کے مؤمن و عالم ہونے پر اجماع نہیں تھا؟

علی بن میثم: میں اور مجھ سے پہلے والے اور عصر حاضر کے تمام لوگ یہی کہتے ہیں۔

ابوالہذیل: لہذا تم اور تمہارے افراد سب کے سب گمراہی و سرگردانی میں ہیں۔

علی بن میثم: اس قسم کا جواب تو صرف گالی اور لڑائی والا ہے۔ تم جائے منطقی جواب دیتے کے اس طرح کے جواب دے کر ہمیں گمراہ مجھے ہو۔ لہذا یاد رکھو پھر پتھر کا جواب پتھر ہوتا ہے۔

(۲۷)

عمر بن عبد العزیز کا امت پر حضرت علیؑ کی برتری کا اعلان کرنا
عمر بن عبد العزیز (آنہوا خلیفہ اموی) کی خلافت کے زمانے میں ایک
سی شخص قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا: "ان علیاً بخیر هذه الامم والاماراتي طلاق
فلاناً۔" علیؑ امت میں سب سے بہترین فرد ہیں ورنہ گویا میری زوجہ تین طلاق شدہ
ہے کیونکہ وہ معتقد تھا کہ علیؑ، پیغمبر اکرمؐ کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بہترین
فرد ہیں لہذا اس کی یہ طلاق باطل تھی۔ (اس بات کی طرف متوجہ رہتے ہوئے کہ
الہست کے عقیدہ کے مطابق ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں ہو سکتی ہیں)
اس شخص کا خرچو حضرت علیؑ کو تمام مسلمانوں پر برتر نہیں مانتا تھا اس
نے کہا: یہ طلاق ہو گئی اور میں اب اپنی بیشی کو اپنے گھر لے جاریا ہوں۔ لہذا اخسر
و دلاد کا نزاع ہونے لگا۔

دلاد کتنا تھا کہ طلاق کی شرط یہ ہے کہ علیؑ سب پر برتر ہوں، جبکہ یہ
بات سب کے نزدیک روشن ہے کہ حضرت علیؑ مسلمین میں سب سے برتر ہیں۔
لہذا شرط باطل ہو گئی تو طلاق بھی باطل ہو گئی۔

جب ان دونوں کا یہ نزاع بڑھا اور کچھ لوگ خر کی طرف داری کرنے
لگے اور کچھ لوگ دلاد کی توبیہ مسئلہ عمر بن عبد العزیز کو لکھا گیا کہ وہ اس قضیہ کو
حل کرے۔ عمر بن عبد العزیز نے ایک مجلس تکمیل دی جس میں بنی ہاشم و بنی
امیہ اور بزرگان قریش کو مدد عو کیا گیا ان سے اس مسئلے کو حل کرنے کا کام آیا۔ جب
گنجائشوں شروع ہوئی اور بنی امیہ سے کوئی جواب نہ پڑا اور وہ ایک طرف ہو گئے تو

بنی ہاشم کا ایک فرد اخفاور کرنے لگا کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ پہلے علیؑ
امت کے تمام افراد پر برتر ہیں اور کیونکہ طلاق مشروط ہے عدم برتری علیؑ پر بجکہ
وہ برتر ہیں۔ لہذا طلاق اصلاً واقع نہیں ہوئی۔

اس ہاشمی مرد نے اپنی بات کی مزید وضاحت میں عمر بن عبد العزیز سے
کہا: تم کو خدا کی قسم ذرا یہ تاذ کر کیا یہ روایت پیغمبرؐ سے نہیں سنی کہ ایک روز
آپؐ اپنی بیشی فاطمہؓ کے گھر ان کی عیادت کو گئے اور ان سے فرمایا: بیشی تمہارا
کوئی پیغیر کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ فاطمہؓ نے عرض کی: بیلا جان! انگور کھانے کو
دل چاہتا ہے۔ اگرچہ انگور کا موسم نہیں تھا اور علیؑ بھی سفر پر گئے ہوئے تھے
پیغمبرؐ نے اس طرح دعا کی: "اللهم آتنا به مع الفضل امتی عندك منزلة." یعنی
خدیلیا! انگوروں کو اس کے پاس مجھے جو تیری بارگاہ امت میں سب سے بیڑ ہے۔ اسی
وقت حضرت علیؑ پہنچے، دروازہ کھلکھلایا اور گھر میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں
ایک سچھا تھا جسے اپنی جما کے دامن سے ڈھانکے ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:
یا علیؑ یہ کیا ہے؟ علیؑ نے فرمایا: یادِ رسول اللہ! انگور ہیں جو فاطمہؓ کیلئے لایا ہوں
کیونکہ انہیں انگور پسند ہیں۔ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: "اللہ اکبر" خدیلیا! جس طرح تو
نے مجھے خوش کیا اس جھت سے کہ علیؑ کو امت میں سب سے بہترین شخص قرار
دیا اسی طرح ان انگوروں کے ذریعے میری بیشی فاطمہؓ کو شفادے۔ پھر آپؐ نے
انگور حضرت فاطمہؓ کو دیتے ہوئے کہا: بیشی خدا کا نام لیکر کھاؤ۔ حضرت فاطمہؓ
نے انگور کھائے۔ پیغمبر اکرمؓ خانہ فاطمہؓ ہی میں تھے کہ فاطمہؓ نے صحیابی پائی۔

عمر بن عبد العزیز نے اس مرد ہاشمی سے کہا: تم نے مجھ کما اور میں بھی

سُنی شافعی: اگر ہو سکے تو ان استدلالات میں سے کوئی ایک نقل کریں۔

شیخ بہمی: مثلاً وہ کہتے ہیں کہ صحیح خاری میں (جو الحست کی معترض کتب میں سے ایک کتاب ہے) پیغمبر اکرمؐ سے روایت نقل ہوتی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: "فاطمہ بضعہ منی من اذاها فقد آذانی ومن اغضبها فقد اغضبني۔"

یعنی فاطمہؓ میرے جگہ کا نکلا ہے۔ جس نے اس کو اذیت دی مجھے اذیت دی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ (صحیح خاری، دارالجیل بیروت جلد ۷ صفحہ ۲۷)

اور اسی کتاب میں چار ورق بعد روایت نقل ہے کہ:

"خرجت فاطمة من الدنيا وهي غاضبة عليهما."

یعنی فاطمہؓ مررت وقت ان (عمرو والیبر) سے ناراض گئی ہیں۔ (صحیح خاری، دارالجیل بیروت جلد ۷ و دیگر فضائل خمس من الصحاح الرتہ جلد ۳ صفحہ ۱۹۰)

اب ذرا آپؐ بتائیں کہ ان دونوں روایتوں کا الحست کے اعتبار سے طریقہ جمع کیا ہو گا؟ وہ سُنی شافعی فکر کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر یوں کہوں کہ ان دونوں روایتوں کا طریقہ جمع یہ ہے کہ یہ دونوں عادل نہیں تھی تو گویا یہ دونوں رہبری کے لائق نہیں تھے۔ لہذا کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا بعض اوقات شیعہ جماعت بولتے ہیں ممکن ہے اس میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہو لہذا مجھے ایک رات کی مہلت دو کہ میں صحیح خاری کا مطالعہ کر کے آؤں اور ان دونوں روایتوں کا جو و جھوٹ معلوم کرلوں اور جو ہونے کی صورت میں اس کا جواب تلاش کروں۔

شیخ بہمی: (دوسرے دن جب اس سُنی شافعی کو دیکھا تو اس سے پوچھا)

گوای دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے اور مانتا بھی ہوں۔ پھر اس نے اس عورت کے شوہر سے کہا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے۔ اگر اس کے باپ نے کوئی دخل اندازی کی تو اس صورت میں زخمی کر دینا۔ (شرح نجی البیان المبین الحدید الحقائق الحنفی جلد ۳ صفحہ ۲۹۲ تا ۲۹۵)

اس طرح اس بھری مجلس میں عمر بن عبد العزیز نے علی الاعلان حضرت علیؑ کا تمام امت پر برتر ہونے کا اعلان کیا اور اسی ما پر اس طلاق کو باطل قرار دیتے ہوئے نکاح کے باقی رہنے کا فتویٰ دیا۔

(۲۸)

شیخ بہمی کا ایک مخالف سے مباحثہ

محمد بن حسین بن عبد الصمد جو شیخ بہمی کے نام سے مشہور تھے اور علامہ معرف و ملت تشیع کے لئے فخر کے باعث تھے جنہوں نے امام احمد میں اس دنیاۓ فانی کو مشد مقدس میں خدا حافظ کما اور جوار امام رضاؑ میں دفن ہیں۔

ایک روز دوران سفر ان کی ملاقات ایک سُنی عالم دین سے ہوئی انہوں نے خود کو اس کے سامنے شافعی مذہب کا ظاہر کیا وہ عالم جو علماء شافعی میں سے تھا جب اس نے جانا کہ یہ شیخ بہمی بھی شافعی ہیں اور مرکز تشیع یعنی ایران سے آرہے ہیں تو اس نے شیخ بہمی سے پوچھا: کیا شیعوں کے پاس اپنے دھوکی کے ثبوت پر کوئی دلیل ہے؟ شیخ بہمی نے جواب دیا: ہاں! بعض اوقات ایران میں شیعوں سے سامنا ہوا تو میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس اپنے دعووں پر حکم استدلال ہیں۔

کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، ان لوگوں پر خداوند عالم کی طرف سے درود و سلام اور رحمت ہوتی ہے۔

سید موصیٰ: پنجبر کے علاوہ اماموں پر کوئی مصیبت پڑی ہے جو وہ درود و سلام کے سخت قرار پائیں گے؟

علامہ حلی نے یہ سئے اطمینان سے جواب دیا: سخت ترین مصائب جوان پر پڑے اس سے تم جیسے افراد وجود میں آئے جو منافقوں کو آل رسول پر مقدم کرتے ہیں۔ حاضرین علامہ حلی کی بڑی سمجھی پر ہنسنے لگے۔ (پیغمبر الامال جلد ۳ صفحہ ۲۳۳)

(۵۰)

شیعہ عالم کا سربراہ تنظیم امر بالمعروف و نهى عن المحرر سے مباحثہ
ایک شیعہ عالم دین مدینہ میں امر بالمعروف و نهى عن المحرر کے دفتر میں گئے تو ان کے اور اس دفتر کے سربراہ کے درمیان اس طرح مناظرہ شروع ہوا:
سربراہ: رسول اللہؐ اب دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور جو مردہ ہو چکا ہو وہ فائدہ و نفعان نہیں پہنچا سکتا۔ لہذا آپ لوگ اب پنجبر سے کیا مانگتے ہیں؟
شیعہ عالم دین: رسول خدا اگرچہ اس دنیا سے پرده فرمائچکے ہیں مگر وہ بھیجتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟

شیعہ عالم دین کیوں کہ قرآن فرماتا ہے:
”وَلَا تُحِسِّنَ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ امْوَالَهُا بَلْ احْياءً عَنْ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔“ (سورۃ آل عمران آیت ۱۶۳)

کیا ہوا آپ نے تحقیق کر لی؟ وہ کہنے لگا باہم میں نے تحقیق کر لی بالکل جو میں نے کہا تھا وہی ہے کہ شیعہ جھوٹ پوچھتے ہیں کیونکہ میں صحیح مختاری کا مطالعہ کیا تو اگرچہ اس میں یہ دونوں روایتیں تھیں مگر ان دونوں روایتوں کے درمیان شیعوں نے جو چار صفحے کا فاصلہ بنتا تھا وہ پانچ صفحے سے بھی زیادہ ہے۔ واقعاً عجیب جواب ہے کیونکہ مقصد ان دونوں روایتوں کا اس کتاب میں ہونا ہے چاہے پانچ ورق کے فاصلے پر یہ روایتیں ذکر ہوئی ہوں یا ۵۰ ورق کے بعد ذکر ہوئی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔

(۳۹)

علامہ حلی کا سید موصیٰ سے مباحثہ

آنحضرت صدی بھری کے اوائل میں ایران کا بادشاہ ”شاہ خدابندہ“ جو سنی اللہ ہب تھا ۷۰۴ھ میں علامہ حلی کے ساتھ قوی و لطیف مناظروں کے بعد شیعہ ہو گیا اور آشیخ کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ ایک روایت کے مطابق پچھے علامہ الہست شاہ خدابندہ کے دربار میں حاضر تھے۔ علامہ حلی بھی شاہ کی دعوت پر اس مجلس میں تشریف لائے۔ پھر سنی شیعہ علماء کے مانن مناظرہ ہوا جو درج ذیل ہے:
سید موصیٰ: آپ پنجبر کے سوادمرے اولیاء اور صالحین پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟

علامہ حلی: ”وَبِشَرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ رَبَّنَا إِلَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (سورۃ همزة آیت ۱۵۵)
”۷۱۵۵“ یعنی وہ لوگ جو خدا کی راہ میں استقامت سے کام لیتے ہیں جب بھی ان پر

مؤلف فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب امام شیخی قید میں تھے استاد جو ان سے بہت انسیت رکھتے تھے کہنے لگے میری آرزو ہے کہ اپنے شامدہ کی تحت الحکم کے کو امام شیخی کی نظیں کی خاک سے مس کروں اور اسی خاک آکو تھت الحکم کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس طرح کے انہمار خیال عواظف قبیل و شدت محبت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے۔ قرآن مجھی اس مسئلے کو صراحت سے بیان کرتا ہے کہ اولیاء خدا کو واسطہ ہانا نیجہ خیش و فائدہ مند ہوتا ہے جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت ۲۳ میں ارشاد ہوتا ہے:

”ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاوزک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم
الرسول لو جدوا اللہ توابا رحیماً“

”جب وہ جنوں نے اپنے نقوں پر ظلم (یعنی گناہ) کیا آپ کے پاس آئیں اور خدا سے طلب استغفار کریں اور رسول مجھی ان کے لئے مغفرت طلب کریں تو یقیناً وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پائیں گے۔“

(۵۱)

علامہ ایمنی کا تسلی خیش جواب

علامہ ایمنی جو اپنے زمانے کے بزرگ عالم دین اور صاحب کتاب الفرید بھی ہیں اپنے کسی سفر کے دوران کسی مجلس میں شرکت کی۔ ان میں ایک سنی عالم ان سے کہتے ہیں کہ آپ شیخہ لوگ حضرت علیؓ کے سلسلے میں غلوکیوں کرتے ہیں۔ مثلاً ان کو ”یادالله“ و ”عین اللہ“ (یعنی خدا کا ہاتھ، خدا کی آنکھ) سے کیوں

”جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو بچھہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا سے رزق پاتے ہیں۔“
اسی طرح دوسری روایات بھی ہیں جو تیغبرؑ کی رحلت کے بعد بھی احرام تیغبرؑ پر دلالت کرتی ہیں جس طرح ان کی زندگی میں ان کا احرام کیا جاتا تھا۔
سرمد़اہ: یہ موت و حیات جو قرآن اور روایات میں ہے وہ نہیں ہے جس میں ہم اس وقت ہیں۔

شیخہ عالم دین: تمہارے لئے کیا حرج ہے کہ جہاری اس بات کو مان لو کہ تیغبرؑ کرم رحلت کے بعد بھی ہمارے لئے اسی طرح سے ہیں جس طرح عالم حیات میں تھے۔ اذن خدا سے اب بھی ہم پر وہی لطف و کرم کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے باپ جب سے اس دنیا سے گئے تو کیا آپ ان کی قبر پر نہیں گئے اور کیا ان کی مغفرت کے لئے دعا نہیں مانگی؟
سرمد़اہ: کیوں نہیں؟

شیخہ عالم دین: ہم کیونکہ زمانہ تیغبرؑ میں نہیں تھے اور اگر ہوتے تو ان کی زیارت کرتے اور اب جب ان کی قبر پر آئے ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں۔
مزید روشن عمارت: اس قبر کا رسول خدا کے جسم اطرے سے مہنالے مبارک قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی خاک کو اگر ہم تمیز کردار دیتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی کہے کہ میں اپنے استاد کی ہیروں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرمد قرار دیتا ہوں۔

ج سرمد ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

کیا مٹی اور پتھر پر سجدہ شرک ہے

ایک مرجع تقلید (آیت اللہ العظیمی آقائے خوئی) ایک دن مسجد بنوی میں نماز صحیح ادا کر رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر رونہ نبیؐ کے نزدیک تلاوت قرآن میں مصروف ہو گئے۔

ان کا بیان ہے کہ میں پیشًا قرآن پڑھ رہا تھا کہ ایک بعدہ مؤمن آکر نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے دوران اس نے اپنا جیب سے سجدہ گاہ نکالی تاکہ اس پر سجدہ کرے، میں نے دیکھا دو افراد جو بظاہر مصری تھے آپس میں کہنے لگے اس کو دیکھو یہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ شیعہ مؤمن سجدے میں مر رکھ کر سجدہ کرنا چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک اخلاق اور غصہ سے اس شیعہ کے سجدہ سے سجدہ گاہ چھیننے کے لئے پکا کر میں نے غصہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ کیوں اس مرد مسلمان کی نماز باطل کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا: اس مقدس جگہ پر یہ پتھر پر سجدہ کرنا چاہتا ہے۔

میں نے کہا: اس کے پتھر پر سجدہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں بھی پتھر پر سجدہ کرتا ہوں۔

وہ کہنے لگا: پتھر پر سجدہ کیوں کرتے ہو؟
میں نے کہا: وہ شیعہ و مذہب جعفری کا پیروکار ہے میں بھی مذہب جعفری کا معتقد ہوں، کیا تم لوگ جعفری بن محمد امام صادقؑ کو جانتے ہو؟
وہ کہنے لگے: ہا۔

تعیر کرتے ہیں کسی صحابہ کی اس حدائق توصیف میان کرنا صحیح نہیں ہے۔

علامہ نے بے دھڑک کہا: اگر عمر بن خطاب نے حضرت علیؓ کو اس خطاب سے پکارا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟

سی عالم: عمر بن خطاب کا قول ہمارے لئے جوت ہے۔

علامہ نے اسی مجلس میں الہامت ہی کی کسی اصلی کتاب کو منگوا کر ان کا صفحہ پلٹ کر اس سی عالم کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھنے حدیث ہے کہ: «ایک شخص طواف کعبہ میں مصروف تھا اور اسی عالم میں اس نے ایک ناحرم عورت کی طرف نامناسب نگاہ کی۔ حضرت علیؓ نے اس کو اس حال میں دیکھ لیا اور وہیں ایک ہاتھ اس کے منہ پر مارا وہ شخص اسی طرح پر ہاتھ رکھے عمر بن خطاب کے پاس شکایت کرنے آیا اور قصہ بیان کیا۔ عمر بن خطاب نے اس کو جواب میں کہا: (قد رأى عين الله و حضرت يد الله). تمہیں انہوں نے خدا کی آنکھ سے دیکھا اور وہست خدا نے مارا۔ یعنی علیؓ کی آنکھ جو دیکھتی ہے اس میں خطا نہیں کرتی کیونکہ ان کی آنکھ اعتماد خدا سے لبریز ہے جو غلطی نہیں کرتی۔ اسی طرح علیؓ کا ہاتھ رضاۓ خدا کے علاوہ حرکت نہیں کرتا۔

سوال کرنے والے نے جب اس حدیث کو دیکھا تو مطمئن ہو گیا۔

مزید وضاحت: اس قسم کی تعیریں حضرت مجیدؓ کے لئے بھی ہیں مثلاً روح اللہ، جوان کے احترام و تجلیل میں کہا جاتا ہے نہ یہ کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ خدا کی روح یا ہاتھ یا آنکھ ہیں اور خدا یہ چیزیں رکھتا ہو۔

میں نے کہا: کیا وہ رسول کے الحیث سے ہیں؟
وہ کہنے لگے: ہاں۔

میں نے کہا: وہ ہمارے مذہب کے سربراہ امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زمین یا اجزاء زمین پر سجدہ کرو کسی اور حیث پر سجدہ جائز نہیں ہے۔

وہ سئی: تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا دین ایک ہے نماز ایک ہے۔

میں نے کہا: اگر دین و نماز ایک ہی ہے تو تم الحست نماز کو حالت قیام میں مختلف طریقوں سے کیوں پڑھتے ہو، تم لوگوں میں سے بعض مذہب مالکی والے ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، تم میں سے بعض ہاتھ سنینے پر رکھتے ہیں، جبکہ دین سب کا ایک ہے اور رسول خدا جو نماز پڑھتے تھے وہ ایک ہی طرح کی تھی۔ لہذا تم لوگ اس سوال کے جواب میں کوئے کہ ابوحنیفہ یا شافعی یا مالکی یا احمد بن حنبل نے اسی طرح کا حکم دیا ہے۔

وہ کہنے لگے: ہاں انہوں نے ہی ہمیں اس طرح کا حکم دیا ہے۔

میں نے کہا: تو جعفر بن محمد امام صادقؑ جو ہمارے مذہب کے سربراہ ہیں اور انہی تھمارے اعزاز کے مطابق کہ خاندان رسالتؓ سے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ: (أهل الیت ادری بما فی الیت) یعنی گھر والے جو کچھ گھر میں ہوتے ہے اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں اور اقرباء رسولؐ دوسروں سے زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ لہذا امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ اجزاء زمین پر سجدہ کرو روئی یا ریشم پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ لہذا ہمارا اختلاف فروع میں ہے اصول میں نہیں ہے۔ لہذا اس میں کوئی شرک کا پلو ہرگز نہیں لکھا۔ لہذا جب بات یہاں تک پہنچی تو جو الحست

وہاں پہنچے ہوئے تھے اور ہمارے ڈاکرے کو من رہے تھے ان سب نے میری تقدیق کی۔ پھر میں نے دوبارہ اس شخص سے جو شیعہ نمازی کے آگے سے سجدہ گاہ کو اٹھانا چاہتا تھا کہا: تمہیں رسول خدا سے حیاء نہیں آتی کہ جوان کی قبر کے نزدیک ان کے خاندان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز باطل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ ان خاندان الحیث کے بارے میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے: انہا بُرِيدَ اللَّهُ لِيَدْهُبَ عَنْكُمُ الرِّجُسُ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيَطَهُرُ كُمْ تَطْهِيرًا۔ (سورۃ الحزاب آیت ۳۲) یعنی مس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے الحیث کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ سن کر باقی اطراف والے اس شخص کی خدمت کرنے لگے اور کہنے لگے یہے چارا مسلمان جو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے اس کو کیوں افریت دینا چاہتے ہو؟ یہ سن کر وہ دونوں مصری جلدی سے اٹھے اور مجھ سے مhydrat کرتے ہوئے چلے گئے۔

تشریح: حقیقتاً ان علماء وہابی کا کام کتنا عجیب ہے کہ لوگوں کو مگر اہ کرتے ہیں کہ تھت حصینی یا پتھر یا لکڑی وغیرہ پر سجدہ کرنا شرک ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ چٹائی و فرش وغیرہ پر سجدہ کو شرک نہیں مانتے لور وہ سجدہ گاہ جو مٹی یا لکڑی سے بنی ہوئی ہے اس پر سجدہ کو شرک مانتے ہو؟ کیا سجدہ گاہ پر سجدہ کرنا اسی کی عبادت کرنا ہے جبکہ تم لوگ دیکھتے اور سنتے ہو کہ شیعہ لوگ نماز میں تین مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں یعنی وہ ذات ہر عیب و شرک سے منزہ ہے۔ یا یوں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ یعنی میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، بزرگ ہے لور تمام حمد و شاش اسی کے لئے

کے وقت لباس پر بھی سجدہ کی اجازت دی گئی ہے جیسا کہ انس بن مالک سے نقل ہے کہ : "كما نصلی مع النبي فيضع احدنا طرف التوب من شدة الحر في مكان السجود۔" یعنی ہم بغیر اکرم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو ہم میں سے بعض شدید گرمی کی وجہ سے سجدہ گاہ کی جگہ اپنی پیشانی سجدہ کے وقت اپنے لباس کے ایک کونے پر رکھتے تھے۔ (التاج الجامع جلد ۲ صفحہ ۱۹۲ و احادیث صحاح ست جلد ۱۱ ابواب بحود)۔ اسی طرح کی دوسری روایات سے استفادہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کپڑے پر بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں بغیر بھی کپڑے پر سجدہ کرتے تھے یا نہیں اس پر یہ روایات دلالت فہیں کرتی۔

دوسر امطلب : اگر اجزاء زمین پر سجدہ کرنا شرک ہو تو کتنا پڑے گا کہ فرشتوں کا سجدہ جو حکم خدا سے حضرت آدم کے سامنے تھا وہ بھی شرک تھا یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا (نحوذ بالله) شرک ہے بھی شرک ان دو صورتوں میں تو زیادہ شدید ہو گا کیونکہ فرشتوں نے خود حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا نہ کہ آدم پر سجدہ کیا تھا۔

اسی طرح تمام مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں نہ کہ خود کعبہ پر، جبکہ کسی مسلمان نے بھی آدم کو سجدہ کرنے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کو کبھی شرک نہیں کہا کیونکہ حقیقت سجدہ یہ ہے کہ نہایت واضح کے ساتھ خدا کے سامنے اس کے فرمان کے مطابق ہو۔ لہذا کعبہ کی طرف سجدہ کرنا حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ہے۔

اسی طرح آدم کو سجدہ کرنا اولاً تو حکم خدا تھا، ثانیاً یہ شکرِ الٰہی تھا۔ اسی

ہے۔ تم لوگوں کی توزیع بھی عربی ہے عربی الفاظ کی خصوصیات کو بہر جانتے ہو کر ان دونوں لفظوں میں بہت فرق ہے۔ السجود علیہ یعنی اس پر سجدہ اور السجود علیہ یعنی اس کے لئے سجدہ۔ لہذا اگر کسی چیز پر سجدہ کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس چیز کی پرستش کرتے ہیں بلکہ اس حال میں اختائی خصوص و خصوع کے ساتھ عبادات انجام دیتے ہیں۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مت پرستوں نے کبھی ہوں پر سجدہ کی غرض سے پیشانی رکھی ہو بلکہ مت کو اپنے سامنے رکھ کر زمین پر سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ ہوں کی پرستش کرتے ہیں نہ کہ زمین کی یا اس چیز کی جس پر پیشانی رکھتے ہیں۔

نتیجہ : لہذا اس بہت سے خاک یا زمین پر سجدہ کرنا گویا اس کے لئے سجدہ نہیں ہے بلکہ سجدہ دراصل خدا کے لئے ہے۔ اس فرق کے ساتھ جو ہمارے سر بردار مذہبِ امام صادق فرماتے ہیں کہ اجزاء زمین مثلاً مٹی کی سجدہ گاہ یا لکڑی کی سجدہ گاہی پر سجدہ کرو جبکہ الحسنت کے علماء ابو حنیفہ و شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ جس پر نماز پڑھ رہے ہو اسی پر سجدہ کرو۔

اس جگہ الحسنت شیعوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہر پر سجدہ کیوں کرتے ہو ہماری طرح فرش پر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی سجدہ گاہ فرش نہیں تھا بلکہ آپ اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان خاک پر سجدہ کرتے تھے۔ لہذا ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔ (التاج الجامع جلد ۲ صفحہ ۱۹۲ و احادیث صحاح ست جلد ۱۱ ابواب بحود)۔

ہال بعض روایات کے مطابق ضرورت کے وقت مثلاً شدید گرمی وغیرہ

طرح خاک و پتھر و لکڑی پر مسجدہ کرنا دراصل مسجدہ خدا کے لئے ہے اور یہ مسجدہ ایسی چیزوں پر ہے جو زمین سے ہیں اور یہ حکم ہمارے رہنماء پیشوأ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے دیا ہے۔ لہذا اجزاء زمین پر مسجدہ کرنا شرک نہیں ہے۔

(۵۳)

شیعہ عالم کا رہنمائی تنظیم امر بالمعروف و ننی عن المحرّم مہا ش
ایک شیعہ عالم مدینہ میں تنظیم امر بالمعروف و ننی عن المحرّم دفتر کسی کام سے گئے۔ وہاں ان سے اور اس تنظیم کے رہنماء کے درمیان شیعوں کے متعلق اس طرح سے گفتگو شروع ہوئی۔

رہنماء: آپ لوگ قبر نبیؐ کے نزدیک نماز زیارت کیوں پڑھتے ہیں جبکہ نماز غیر خدا کے لئے شرک ہے؟

شیعہ عالم: ہم پیغمبرؐ کے لئے نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز خدا کے لئے پڑھتے ہیں اور اس کا ثواب رسول خدا کی بارگاہ میں ثاند کرتے ہیں۔

رہنماء: قبر کے کنارے نماز پڑھنا شرک ہے۔

شیعہ عالم: اگر نماز قبر کے کنارے پڑھنا شرک ہے تو کعبہ کے کنارے بھی نماز پڑھنا شرک ہونا چاہئے کیونکہ مجر اہمیل میں حضرت باجرہ و حضرت اہمیل کی قبر ہے اور بعض دیگر پیغمبروں کی قبریں بھی ہیں کیونکہ یہ بات تو شیعہ سنی سب نقل کرتے ہیں کہ وہاں بیت سے انبیاء مفن ہیں لہذا ہوں تم لوگوں کے مجر اہمیل میں بھی نماز پڑھنا شرک ہے بلکہ تمہارے ہی نہ ہب کے

رہنماؤں نے مثلاً (حقیقی و مالکی و شافعی و حنبلی) سب نے مجر اہمیل میں نمازیں پڑھی ہیں۔ لہذا اس بنا پر قبرستان میں نماز پڑھنا شرک نہیں ہے۔ (منظرات فی الحومن الشرفین سید علی بخطهانی۔ مناظرہ پنجم)

ایک دوسرا وہاںی: خود رسول خدا نے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔

شیعہ عالم: تم پیغمبر اکرمؐ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کر رہے ہو چونکہ اگر رسول خدا قبرستان میں نماز پڑھنے کو منع کرتے یا حرام چانتے تو یہ ہزاروں لاکھوں حاج و زوار کیوں کر پیغمبر اکرمؐ کی مخالفت کرتے اور یہ فعل حرام خود مسجد نبویؐ میں جس میں رسول خدا و عمر و ابو بکر کی قبریں ہیں مر جکب ہوتے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ پیغمبرؐ سے بعض روایات نقل ہوئی ہیں کہ آپؐ اور بعض دوسرے محلہ کرام قبرستان میں نماز پڑھا کرتے تھے۔

مختصر ان روایات میں سے وہ روایت ہو صحیح خاری کی جلد ۳ صفحہ ۲۹ پر رسول خدا کے نقل ہوئی ہے کہ آپؐ نے عید قربان کے دن قبرستان پیجع میں دور کعت نماز پڑھی، نماز کے بعد آپؐ نے فرمایا: آج کے دن کی پہلی عبادت یہ دور کعت نماز ہے، پھر جا کر قربانی کریں گے، جس نے بھی ایسا کیا اس نے میری سنت کی بیروی کی۔

اس روایت کے مطابق رسول خدا نے قبرستان میں نماز پڑھی لیکن تم لوگ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے اگر اسلام سے مراد شریعت محمدیؐ ہے تو صاحب شریعت نے قبرستان میں نماز پڑھی ہے کیونکہ رسولؐ کے زبان سے اب تک پیجع قبرستان ہے قبور کے کنارے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن تم لوگ پیغمبرؐ کی مخالفت کرتے ہوئے اطراف قبور میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو۔

(۵۲)

اس بارے میں ایک غم انگیز داستان

ڈاکٹر سید محمد تجھانی جو سنی عالم دین تھے اور اب شیعہ ہو چکے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں مدینہ میں پیغمبر کی زیارت کے لئے گیا ہوا تھا اور الہیت پر صلاتیں پڑھ رہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ میرے قریب ایک بوڑھا شخص کھڑا رہا ہے۔ میں اس کے رو نے سے سمجھ گیا کہ وہ شیعہ ہے، وہ رو قبلہ ہوا اور نماز پڑھنے لگا، اچانک ایک سعودی شرط غصہ سے بھر اس کے نزدیک آیا گویا دور سے وہ اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ضعیف سجدہ میں گیا اس شرط نے ایسی لات ماری کہ وہ ضعیف النازمین پر جاگرا، اسے کافی دیر تک ہوش نہیں آیا۔ لیکن یہ شرط اسی طرح مارتا رہا۔

مجھے اس ضعیف کے حال پر رحم آیا میں نے خیال کیا شاید وہ مر گیا ہے، میری غیرت کو جوش آیا میں نے اس شرط سے کہا: اس بے چارے کو حالت نماز میں کیوں مار رہے ہو؟

شرط مجھ سے کئے لگا: تم خاموش رہو، مداخلت نہ کرو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔

وہاں دیگر زوار بھی تھے جو کہ رہے تھے کہ یہ اس کی سزا ہے یہ کیوں قبرستان میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے غصہ میں کہا: کس نے قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے اور پھر کافی طویل گھنگو کے بعد کہا کہ اگر قبرستان میں نماز پڑھنے کو حرام بھی مانا جائے تو کیا اس طرح سے ظلم و ستم کر کے روکا جاتا ہے

(۵۵)

فاطمہ زہرا کی مظلومیت کیوں؟

ایک وہاں شیعہ عالم دین سے کہا ہے کہ تم لوگ قبر (فاطمہ زہرا) کے پاس یہ کیوں کہتے ہو کہ: السلام عليك ایتها المظلومة یعنی ہمارا اسلام ہو آپ پر اے مظلومہ فی می۔ کس نے دختر رسول فاطمہ زہرا پر ظلم و ستم کیا ہے؟

وہ مجھ سے اعلان جگہ ہی کیوں نہ کرتے۔

اس مقام پر شیعہ عالم نے اس دہلی سے کہا: ذرا ابو بحر کی بات پر توجہ تو کرو کہ کس طرح وہ موت کے وقت افسوس اور پیشانی کا احتصار کر رہے ہیں۔ دہلی جو اس استدلال کے سامنے لا جواب ہو کر رہ گیا تھا کہنے لگا: اس کتاب کا مصنف انہ تجیہ شیعیت کی طرف مائل تھا۔ (مناظرات الحرمین الشریفین مناظرہ نمبر ۹)

شیعہ عالم: اگر ان تجیہ مذہب تشیع کی طرف مائل تھا تو کتاب مسلم و صحیح خاری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جن میں دو روایتیں ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ابو بحر سے ناراض اس دنیا سے گئی ہیں۔ "فہجرتہ فاطمہ ولم تکلمہ فی ذالک حتیٰ ماتت۔" اس بارے میں صحیح مسلم کی جلد ۵ کے صفحہ ۱۵۳ چھاپ مصر اور صحیح خاری کی جلد ۵ صفحہ ۷۷ چھاپ الشعب کے باب "غزوة خیر" میں رجوع کریں۔ (شرح صحیح البانۃ انہی الحدید جلد ۶ صفحہ ۲۶)

(۵۶)

ترہت امام حسین پر بجدہ کرنا

ایک سی عالم دین جو دانش گاہ الازہر سے فارغ التحصیل تھے، بام (شیخ محمد مراغی الطائی) جو سوریہ کے رہنے والے تھے انہوں نے مذہب تشیع کے سلسلے میں تحقیقات کرنے کے بعد ایک کتاب لکھی "لماذا اختارت مذهب الشیعہ" یعنی کیوں میں نے مذہب تشیع کو اختیار کیا۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سی عالم دین سے تربت حسینی و خاک پر بجدہ کرنے کے سلسلے میں اس طرح مناظرہ ہوا:

شیعہ عالم: اس ظلم و ستم پر فاطمہ کی غم انگیز و اسٹان خود تمہاری کتابوں میں لکھی ہے۔

وہاں: کونسی کتاب میں؟

شیعہ عالم: الامامة السیاسہ جوانی تجیہ دینوری کی لکھی ہوئی ہے اس کے تیر ہوئیں صفحے پر لکھی ہے۔

وہاں: اس قسم کی کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔

شیعہ عالم: میں یہ کتاب بازار سے تمہارے لئے خرید کر لاتا ہوں۔

وہاں نے میری بات مانی، میں گیا اور کتاب خرید کر اس کے پاس لایا اور اس کی جلد اول کے صفحہ ۱۹ کو کھولا اور اس سے کہا لو یہ پڑھو: لکھا تھا کہ جب ابو بحر کے زمانہ خلافت میں علیؑ و بعض دیگر لوگ جو ابو بحر کی بیعت نہیں کرتا چاہتے تھے سب حضرت علیؑ کے گھر میں جمع تھے، ابو بحر نے عمر بن خطاب کو بلایا اور ان لوگوں سے بیعت لینے کو حضرت علیؑ کے گھر روانہ کیا، عمر و حضرت علیؑ پر اکابر بندہ آواز سے لکھتے ہیں کہ جو بھی اندر ہے ابو بحر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے باہر آجائے جب کوئی باہر نہیں آیا تو عمر نے لکڑیاں مغلوبیں اور کہنے لگے خدا کی قسم اگر تم لوگ باہر نہیں آئے تو اس گھر کو تم لوگوں سمیت جلا کر خاک کر دوں گا۔ کسی نے عمر سے کہا: اے عمر اس گھر میں دختر رسول فاطمہؓ بھی ہیں وہ کہنے لگے: میرے لئے کوئی فرق نہیں۔ چاہے فاطمہؓ ہی کیوں نہ ہوں۔ مجبوراً بعض لوگ تو خوف سے باہر آگئے مگر حضرت علیؑ نہیں آئے۔ اسی روایت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب ابو بحر مرج پر تھے تو کہتے تھے کہ کاش میں علیؑ کے گھر کے درپر ن جاتا چاہے

”جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً.“ یعنی خدا نے زمین کو میرے لئے سجدہ گاہ اور پاکیزہ قرار دیا ہے لہذا اس پر تمام مسلمین کا اتفاق ہے کہ سجدہ حالص مٹی پر جائز ہے اس لئے ہم لوگ خاک پر سجدہ کرتے ہیں۔

حید: کس طرح مسلمین اس مسئلے پر اتفاق نظر رکھتے ہیں؟

محمد مرعی: جب رسول خدا نے نکل سے مدینہ بھرت کی وہاں پہنچتے ہی آپ نے وہاں ایک مسجد بنانے کا حکم دیا کیا اس مسجد کا فرش تھا؟
حید: نہیں۔

محمد مرعی: پس پیغمبر اکرم اور دیگر مسلمین نے کس چیز پر سجدہ کیا؟
حید: اسی خاک کی زمین پر سجدہ کیا۔

محمد مرعی: رحلت رسول کے بعد اور زمانہ خلافت ابو بکر و عثمان و عمر میں مسلمان کس چیز پر سجدہ کرتے تھے؟ کیا اس وقت مسجدوں کے فرش تھے؟
حید: اس وقت فرش نہیں تھے وہ لوگ اسی مسجد کی خاک پر سجدہ کرتے تھے۔

محمد مرعی: لہذا تم اپنے اس بیان سے اعتراض کرتے ہو کہ پیغمبر اکرم نے اپنی تمام نمازوں میں زمین پر سجدہ کیا اسی طرح دیگر مسلمانوں نے بھی اس زمانے اور اس کے بعد والے زمانوں میں خاک پر سجدہ کرتے رہے لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاک پر سجدہ صحیح ہے۔

حید: میرا اشکال شیعوں کی اس بات پر ہے کہ وہ لوگ کیوں صرف خاک ہی پر سجدہ کرتے ہیں اور وہ خاک بھی جو زمین کر بلائے ہی گئی ہو اور اس سے

محمد مرعی: میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے پچھے سنی دوست جو داشت گاہ الازہر میں میرے ہم کلامی تھے مجھ سے ملنے آئے۔ اس ملاقات میں اس طرح حد شروع ہوتی:

سنی دوست: شیعہ لوگ تربتِ حسینی پر سجدہ کرتے ہیں۔ لہذا اس فعل کی بنا پر وہ لوگ شرک ہیں۔

محمد مرعی: تربت پر سجدہ کرنا شرک نہیں ہے کیونکہ تربت پر سجدہ خدا کے لئے کرتے ہیں نہ کہ تربت کے لئے۔ اگر ہوول تمہارے فرضی محل کی ہنا پر کہ اس تربت میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی خاطر وہ لوگ اس پر سجدہ کرتے ہیں نہ یہ کہ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو یقیناً اس طرح کا فعل شرک ہے لیکن شیعہ اپنے معہود جو خدا ہے اس کے لئے سجدہ کرتے ہیں یعنی نہایت تواضع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں خدا کے لئے اس تربت پر پیشانی رکھتے ہیں۔

مزید روشن عبارت: یعنی حقیقت سجدہ خدا کے سامنے نہایت خصوصی و خشوع ہے نہ کہ ہر کے سامنے۔

حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام حید تھا: احسن ہو تم پر تم نے اچھا تجزیہ و تحلیل کیا لیکن یہ سوال ہمارے لئے باقی رہ جاتا ہے کہ تم شیعہ لوگ تربتِ حسینی ہی پر سجدہ کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ جس طرح تربت پر سجدہ کرتے ہو دوسری چیزوں پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟

محمد مرعی: ہم جو خاک پر سجدہ کرتے وہ پیغمبر اکرمؐ کی اس حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں جو تمام مسلمین کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا:

مرہناتی گئی ہو اس کو اپنی بیب میں رکھ کر چلتے ہیں جہاں نماز پڑھتے اس کو رکھ کر اس پر سجدہ کرتے ہیں؟

محمد مرعی: اولاً تو شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین کی ہر قسم کی چیز خواہ دہ خاک ہو یا پتھر سجدہ جائز ہے اور ثانیاً یہ کہ سجدہ کے لئے شرط ہے کہ سجدہ کی جگہ پاک ہو۔ لہذا نجس یا آکودہ زمین پر سجدہ صحیح نہیں ہے اسی لئے پاکیزہ خاک کی ایک سجدہ گاہ جس کو مرکتے ہیں تیار کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ اس سجدہ گاہ پر جو خالص خاک سے تیار کی گئی ہے اطمینان قلبی کے ساتھ اس پر سجدہ کریں کیونکہ شیعہ جس زمین یا خاک کے پاک ہونے کا اطمینان نہ ہو اس پر سجدہ نہیں کرتے۔

حیدر: اگر شیعوں کا مقصد خالص خاک پر سجدہ کرنا ہے تو کیوں صرف خاک اپنے ساتھ رکھتے ہوں اس سے مرہناتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔

محمد مرعی: کیونکہ مٹی کو ساتھ رکھنے سے لباس خاک آکوں ہوتا ہے اور کیونکہ مٹی کو کہیں بھی کسی چیز میں رکھیں وہ خاک آکوں ہو جاتی ہے اسی لئے مٹی میں پانی ملا کر اس سے مرہناتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں جونہ باعثِ رحمت ہے اور نہ اس سے لباس دھا تھوڑا آکوڈہ ہوتے ہیں۔

حیدر: تم لوگ زمین کی چیزوں کے علاوہ قالین، دری اور فرش پر سجدہ کیوں نہیں کرتے؟

محمد مرعی: یہ اتنے تو میں نے پسلے کی کہ سجدہ کی غرض خدا کے سامنے انتہائی خضوع و ختوں کرنا ہے چاہے خود خاک پر ہو یا اس سے بھی ہوئی۔

میر پر ہواں سے خدا کے سامنے زیادہ خضوع ہوتا ہے کیونکہ خاک سب سے پست ترین چیز ہے اور انسان کا سب سے عظیم ترین عضو اس کی پیشانی ہے۔ لہذا جب انسان اپنی عظیم ترین چیز کو پست ترین چیز خاک پر حالت سجدہ میں رکھتا ہے تاکہ نہایت خضوع کے ساتھ خدا کی عبادت کرے اسی لئے منتخب ہے کہ سجدہ کی جگہ پاک ہو۔ لہذا نجس یا آکودہ زمین پر سجدہ صحیح نہیں ہے اسی لئے پاکیزہ خاک کی ایک سجدہ گاہ جس کو مرکتے ہیں تیار کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ اس سجدہ گاہ پر جو خالص خاک سے تیار کی گئی ہے اطمینان قلبی کے ساتھ اس پر سجدہ کریں کیونکہ شیعہ جس زمین یا خاک کے پاک ہونے کا اطمینان نہ ہو اس پر سجدہ نہیں کرتے۔

حیدر: سجدہ کرنے والے خدا کے سامنے ہدے کی پستی و تدبیل پر بھی دلالت نہ کرے۔ لہذا اس وضاحت کے بعد آپ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو خدا کے سامنے خضوع و خشوی کے ساتھ میر پر سجدہ کرتے ہیں کافر، مشرک ہیں یا قالین و رنگ بر گئی کپڑوں پر سجدہ کرنا جس سے تواضع نہیں رہتی، یہ تقرب خدا ہے؟ جو کوئی بھی اس طرح کا قصور کرے وہ تصور باطل و بے اساس ہے؟

حیدر: تو وہ کلمات کیا ہیں جو اس میر پر لکھے ہوتے ہیں جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں؟

محمد مرعی: اولاً تو سب مروں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا جس پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ ثانیاً ان میں سے بعض پر یہ لکھا ہوتا ہے: (سبحان ربی الاعلی و بحمدہ) یعنی جو خود ذکر سجدہ کی طرف اشارہ ہے اور بعض پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ترمذ زمین

جو نماز تمام شرائط صحیح پر مشتمل ہو اگر اس کا سجدہ ترتیب حسینی پر ہو تو قبول ہونے کے علاوہ زیادہ ثواب کا باعث ہے۔

حمدید: کیا زمین کربلا تمام زمینوں حسینی کر سکتے ہیں اور مدینہ کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو تمام ترتیب حسینی پر سجدہ دوسری تریوں کی نسبت افضل ہے؟

محمد مراغی: اس میں کیا عیب ہے کہ اگر خدا اس طرح کی خصوصیت زمین کربلا کو عطا کر دے۔

حمدید: زمین مکہ جو حضرت آدمؑ کے زمانے سے تکرار تک کعبہ کی جگہ بنتی ہوئی ہے اور زمین مدینہ جو جد پیغمبرؐ کو اٹھائے ہوئے ہے کیا ان کا مقام زمین کربلا سے کمتر ہے ویسے یہ عجیب ہے کیا حسینؑ اپنے جد پیغمبرؐ سے بڑھ گئے ہیں؟

محمد مراغی: ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ عظمت و شرافت حسینؑ اپنے جد رسول اکرمؐ کی عظمت مقام و شرافت کے سب سے ہے لیکن خاک کربلا کو جو سب زمینوں پر برتری حاصل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسینؑ نے اپنے جد کی راہ میں اس زمین پر شہادت پیش کی ہے اور مقام حسینؑ مقام رسالت کا ایک جز ہے لیکن اس جماعت سے کہ آپ اور آپ کے اصحاب و انصار نے خدا کی راہ میں اسلام کو زندہ کرنے والکان دین کو استوار کرنے اور ان کے تحفظ کرنے میں اپنی جانوں کو غدار کر کے شہادت حاصل کی خداوند عالم نے اسی وجہ سے امام حسینؑ کو تین خصوصیتیں عطا کی ہیں۔ پہلی یہ کہ دوسرے انہمؑ آپ کی نسل سے قرار پائے۔

دوسری یہ کہ ان کی ترتیب میں شفا ہے۔ تمیری یہ کہ ان کے روپہ اقدس پر کوئی جا کر دعا کرے تو مستجاب ہوتی ہے۔ کیا ترتیب حسینی کو اس طرح کی خصوصیت عطا

کربلا سے میں گئی ہے تم کو خدا کی قسم ذرا یہ بتاؤ کہ یہ لکھا ہونا موجب شرک ہے؟ کیا یہ سب لکھا ہونا اس خاک کے صحیح سجدہ سے خارج کردتا ہے؟

حمدید: نہیں یہ ہرگز موجب شرک یا اس پر سجدہ کے جائز ہونے میں مانع نہیں ہے لیکن ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے کہ ترتیب کربلا میں کیا خصوصیت ہے جو اکثر شیعہ اس پر سجدہ کو زیادہ باعث ثواب سمجھتے ہیں؟

محمد مراغی: اس کا راز یہ ہے کہ ہمارے اماموں سے بعض روایات نقل ہوئی ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ سجدہ کرنا ترتیب امام حسینؑ پر دوسری تریوں سے زیادہ اہمیت و ثواب ہے۔ امام صادقؑ کا ارشاد ہے: "السجود على تربة الحسين يخرق العجب السبع." یعنی ترتیب حسینؑ پر سجدہ کرنا سات پردوں کو دور کر دیتا ہے۔ (حدار جلد ۸۵ صفحہ ۱۵۳) یعنی نماز کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے اور اس کی آسمان کی طرف بلندی کا باعث ہوتا ہے اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صرف ترتیب حسینؑ پر سجدہ کرتے تھے اپنے کو خدا کے سامنے چھوٹا و دلیل ظاہر کرنے کی خاطر۔ (حدار جلد ۸۵ صفحہ ۱۵۸ اور ارشاد القلوب صفحہ ۱۳۱)

لہذا اس ترتیب حسینی کو ایک قسم کی برتری حاصل ہے جو دوسری تریوں میں نہیں ہے۔

حمدید: کیا ترتیب حسینی پر نماز موجب قبول نماز ہوتی ہے چاہے نماز باطل ہی کیوں نہ ہو؟

محمد مراغی: مذہب شیعہ میں ہے کہ اگر نماز کی صحیح کی شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی فاسد ہے تو نماز باطل ہے اور اسی نماز قبول نہیں ہوگی لیکن

کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ کیا یہ کہنے سے کہ زمین کربلا، ارض مدینہ سے افضل ہے یہ معنی نہ لگتے ہیں کہ حسین پیغمبر پر مدتری رکھتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ ہم پر اشکال کرتے ہیں۔ حالانکہ مطلب اس کے بر عکس ہے۔ یعنی ترمذ حسین کا احراام خود امام حسین کا احراام ہے اور امام حسین کا احراام ان کے چد رسول خدا اور خدا کا احراام ہے۔ جب میری بات اس حد تک پہنچی تو ایک دوست جو میری باتوں سے قائل ہو چکا تھا خوشی کے عالم میں اپنی جگہ سے اخفا اور مجھ سے شیعوں کی کتابوں کی درخواست کی اور مجھ سے کہنے لگا: تمہاری باتیں بہت اچھی تھیں میں تواب تک سمجھتا تھا کہ شاید شیعہ لوگ امام حسین کو رسول خدا سے بیوامانتے ہیں۔ اب میرے سامنے حقیقت واضح ہو گئی ہے اور تمہاری شیرین گفتگو کا شکریہ اور آج سے میں خود ترمذ کربلا کی ایک مر اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس پر نماز پڑھا کروں گا۔ (کتاب لماذا اخترت مذهب التشیع محمد مرعی الظاہر صفحہ ۳۲۱ الی صفحہ ۳۲۸)

(۵)

اگر پیغمبر اسلام کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو کون ہوتا؟ ایران کے ایک آیت اللہ العظیمی سید عبداللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ میں باب السلام کے سامنے کتاب فروش کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ ایک سنی عالم دین آئے اور مجھے سلام کر کے مجھ سے اس طرح گفتگو شروع کی:

سنی عالم: آپ لوگ پیغمبر اکرم کی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں: ”لوکان نبی غیری لکان عمر“۔ یعنی اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ

عمر بن خطاب ہوتا۔
 میں نے کہا: پیغمبر نے اس حتم کی حدیث ہرگز نہیں کہی ہے بلکہ یہ
 حدیث جعلی و جھوٹ ہے۔
 سنی عالم: دلیل کیا ہے؟
 میں نے کہا: تم لوگ حدیث منزلہ کے بارے میں کیا کہتے ہو اور اس
 حدیث کے ہمارے اور تمہارے درمیان قطعی ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو
 رسول خدا نے حضرت علیؑ کے بارے میں ارشاد فرمائی: ”یا علی انت منی بمنزلة
 هارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدي“۔ یعنی اے علیؑ! تمہیں مجھ سے وہی نسبت
 ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ (صحیح مسلم
 جلد ۳ صفحہ ۲۳۵، صحیحخاری جلد ۲ صفحہ ۱۸۵، مندرجہ جلد ۱ صفحہ ۹۸)
 سنی عالم: ہاں یہ حدیث ہم لوگوں کے نزدیک مسلم و قطعی ہے۔
 میں نے کہا: لہذا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر اکرم
 کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حتماً علیؑ ہی ہوتے۔ لہذا اس حدیث کی ہنا پر وہ حدیث جو
 تم نے ابھی نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میر بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا
 جھوٹی و جعلی ہے۔
 وہ اس جواب کے سامنے حرمت زدہ ہو کر رہ گیا اور کچھ نہ کہ
 سکا۔ (الاحتجاجات المحررة صفحہ ۱۶)

یوم القيامۃ و حرامہ حرام الی یوم القيامۃ۔” یعنی حلال محمد تاروز قیامت حلال ہے اور حرام محمد تاروز قیامت حرام ہے۔ کیا عمر کے اس طرح کے تغیرات بدعت خسیں ہیں جبکہ رسول خدا نے بھی فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آئش دوزخ میں جلنے کا سبب ہے گی۔ لہذا مسلمان کس بنا پر عمر کی ان بد عقول پر عمل کرتے ہیں اور رسول خدا کی سنت سے دوری کرتے ہیں؟ (الاحتاجات العزفه صفحہ) وہ سی عالم میری ان باتوں کے سامنے ہے جواب ہو کر رہ گیا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کافی ٹھیک ہیں جس کی تفصیلی حدیث نقش میں ہے جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت ۲۳ خود جواز متعد پر دلالت کرتی ہے۔ ہم یہاں پر فقط امام علیؑ کی اس روایت کے بیان پر اکتفا کریں گے کہ : ”ان المتعة رحمة و رحم اللہ بهَا عباده و لولا نهی عمر ما زنی الا شقی۔“ یعنی حدود ایک قسم کی رحمت ہے جسکے ذریعے خداوند عالم نے بندوں پر لطف و کرم کیا ہے اگر عمر نے اس کو منع کیا ہوتا تو سوائے شق افراد کے کوئی زمانہ کرتا۔ (تفسیر قلبی و تفسیر طبری ذیل سورۃ نساء آیت ۲۳)

(۵۹)

شیعہ عالم کا مسیحی عالم سے مباحثہ

قرآن مجید کے سورۃ عبس کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ : ”عبس و قولی۔ ان جانہ الاعصی۔“ یعنی اس نے منہ بسور لیا اور پیغام بچیری کہ اس کے پاس ایک ناپینا آگیا۔ لہذا خود اہل تسنن کی کتابوں میں اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں لفظ ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بچیر کرم پسخ سردار ان قریش

(۵۸)

مسئلہ متعہ

مرحوم ایت اللہ سید عبداللہ شیرازی فرماتے ہیں کہ اس سی عالم نے مجھے سے سوال کیا کہ آپ لوگ متعہ کو جائز جانتے ہیں؟ میں نے کہا : ہا۔

سی عالم : کیا دلیل ہے؟

میں نے کہا : عمر بن خطاب کے اس قول کی بنا پر جو انہوں نے کہا کہ : ”متعتان محلتان فی زمان رسول اللہ وانا احرمهما۔“ یعنی دو متعدد حجج تحقیق ازدواج موقوت جو بچیر اکرمؐ کے زمانے میں حلال تھے لیکن میں ان دو کو حرام کرتا ہوں اور بعض دیگر مقامات پر عمر یوں کہتے ہیں : ”متعتان کانتا علی عهد رسول اللہ وانا انہی عنہما واعاقب علیہما منعه اللحج و متعة النساء۔“ (تفسیر فخر رازی ذیل سورۃ نساء آیت ۲۳) یعنی دو حجج جو عہد رسولؐ میں حلال تھے میں ان سے منع کرتا ہوں اور ان پر عمل کرنے والوں کو سزاوں گاہہ دو متعد ہیں : حجج تحقیق اور عورتوں سے متعہ۔ لہذا خود عمر کی یہ بات قطع نظر قرآن و روایات کے جوان کے جواز پر دلالت کرتی ہے کہ متعد زمان رسولؐ میں حلال تھا لیکن عمر نے اس کو حرام کیا ہے۔ لہذا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عمر نے کس دلیل کے تحت متعہ کو حرام قرار دیا؟ کیا (أقوذ بالله) وہ رسول خدا کے بعد بچیر ہو گئے تھے کہ خدا نے انہیں پیغام بھیجا کہ جو انہوں نے متعد کو حرام کر دیا؟ یا عمر پر کوئی وحی نازل ہوئی تھی پھر کیوں انہوں نے متعد کو حرام قرار دیا تھا جبکہ ”حلال محمد حلال الی

مسیحی عالم: میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی ہے بلکہ ایک مسلم خطیب سے بخداوی کی مسجد میں کی ہے۔

شیعہ عالم: وہی جو میں نے کہا کہ ہم شیعوں کے نزدیک مشہور یہی ہے کہ سورۃ عبس کی یہ آیتیں عثمان سے مربوت ہیں۔ بعض بنی امیر کے راویوں نے جو عثمان کی حفاظت کرتے تھے اس کی نسبت پیغمبرؐ کی طرف دی ہے۔

یہ عبارت دیگر: سورۃ عبس کی آیات میں اس پیغام کی تصریح بھی نہیں ہے کہ وہ نہیں شخص کون تھا مگر سورۃ قلم کی آیت ۳ اور سورۃ النبیاء کی آیت ۷۰ میں اس کا ذکر ہے کہ یہ آیات پیغمبرؐ کے بارے میں نہیں تھیں۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ عبس کی دو آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب بنی امیر میں سے ایک شخص پیغمبرؐ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہیں شخص جس کا نام ”امن ام ملتوم“ تھا جن کو دیکھ کر وہ صحابی منہ پھیر کر اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب تو اس مسیحی عالم سے کچھ نہیں کہا جا سکا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ (مجموع البیان جلد ۱۰ صفحہ ۲۳)

(۶۰)

شیخ مفید کا قاضی عبدالجبار سے مکالہ

ایک شیعہ بزرگ عالم محمد بن نعیان جو شیخ مفید کے نام سے مشہور تھے ۱۱ ذی القعده سال ۳۴۸ یا ۳۴۶ کو سوہنہ ناہی دیوبات جو شمال بخداوی سے دس فرخ کے قاطلے پر ہے ولادت ہوئی اپنے والد جو معلم تھے بخداوی آئے اور تحصیل علم کی بیاناتک کے نمہب ترشیح کے بڑے عالم دین اور تمام اسلامی فرقوں کے محدث

کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے تاکہ ان کو دعوت اسلام دیں اسی دوران ایک مؤمن فقیر بنام عبد اللہ ملتوم پیغمبرؐ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے خدا کے رسولؐ مجھے آیات قرآنی سکھائیں تو پیغمبرؐ اکرمؐ اس پر تاراض ہوئے تو بخداوی عالم نے پیغمبرؐ کو اس کام پر سرزنش کی جب کہ روایات شیعہ کے مطابق یہ آیات عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس پر خدا کی طرف سے سرزنش ہوئی ہے کیونکہ اس نے اس ناپیہا فقیر سے بے اعتنائی کی تھی۔ (تفصیر برہان و نور التلقین وغیرہ) اب وہ مناظرہ جو شیعہ عالم و مسیحی عالم کے درمیان ہوا ملاحظہ کریں:

مسیحی عالم: حضرت عصیٰ تمارے پیغمبرؐ سے بہر تھے اس نے کہ تمہارے رسولؐ نعموبالله کچھ بد اخلاق تھے، نہیں تو اس سے من پھیر لیتے تھے جیسا کہ تمہارے قرآن کے سورۃ عبس میں ذکر ہے جبکہ ہمارے پیغمبر عصیٰ اس قدر خوش اخلاق تھے کہ جمال بھی نہیں یا کسی بھی ہماری میں کسی کو بہتلا پاتے تو نہ یہ کہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے تھے بلکہ اس کو شفاذیتے تھے۔

شیعہ عالم: ہم شیعہ معتقد ہیں کہ یہ آیت بد اخلاق عثمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ پیغمبرؐ اکرمؐ تو کافروں تک سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے تو مؤمنین سے تو بدرجہ اولیٰ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ اسی قرآن میں جس کا تم نے نام لیا ہے خداوی عالم پیغمبرؐ کی شان میں فرماتا ہے: ”اُنک لعلی خلق عظیم۔“ یعنی پیشک اے رسولؐ آپ ہی اخلاق عظیم پر فائز ہیں اور دوسرا جگہ قرآن میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے: ”وَمَا أَرْسَلْنَا الْأَرْحَمَةَ لِلْعَالَمِينَ“ یعنی اے رسولؐ! ہم نے آپ کو لوگوں میں نہیں بھیجا گئی ہے کہ عالمیں کیلئے رحمت قرار دیا ہے۔

قاضی: پوچھو۔

شیخ مفید: یہ حدیث جو شیعہ پیغمبر اکرمؐ سے نقل کرتے ہیں کہ آپؐ نے صحراء غدیر میں علیؑ کے بارے میں فرمایا کہ: "من کنت مولا فهذا و حلی مولا" یعنی میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علیؑ مولا ہے۔ کیا صحیح ہے یا شیعوں نے جعلیٰ بنائی ہے؟

قاضی: یہ روایت صحیح ہے۔

شیخ مفید: الفاظ مولا سے اس روایت میں کیا مراد ہے؟

قاضی: سردار و مولا و آقا۔

شیخ مفید: اگر ایسا ہے تو پیغمبرؐ کے قول کے مطابق حضرت علیؑ سب کے آقا و مولا ہیں تو پھر سنی و شیعوں کے درمیان اختلاف و دشمنیاں کیوں ہیں؟
قاضی: اے برادر یہ حدیث غدیر بطور روایت و مطلب نقل ہوئی ہے جب کہ خلافت ابو بکر (روایت) و ایک باہر مسلم ہے اور ایک عاقل انسان روایت کی خاطر روایت کو ترک نہیں کیا کرتا۔

شیخ مفید: آپ پیغمبرؐ کی اس حدیث جو علیؑ کی شان میں کہی کیا کہتے ہیں: (یا علی حربک حربی و سلمک سلمی) یعنی اے علی تمہاری جنگ میری جنگ ہے اور تمہاری صلح میری صلح ہے۔

قاضی: یہ حدیث صحیح ہے۔

شیخ مفید: لہذا اس بنا پر جنوں نے جنگ جمل تیار کی تھی مانند طلحہ زیر و عائشہ وغیرہ اور علیؑ کے ساتھ لڑے تھے لہذا اس حدیث کے مطابق جس کی

علیہ قرار پائے، علاجی شیخ مفید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مفید مدحہب تشیع کے رہبر و استاد تھے کیونکہ جو بھی ان کے بعد آیا ان کے علم سے فیضاب ہوتا رہا۔ (رجال نجاشی صفحہ ۳۱۱) ان کیشہر شای اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ شیخ مفید شیعیت کا دفاع کرنے والے مصنف تھے ان کی مجلس و دروس میں مختلف مذاہب کے علماء شرکت کیا کرتے تھے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۱۳ صفحہ ۱۵)
شیخ مفید نے دو سو سے زیادہ مختلف فنون میں کتابیں تالیف کی ہیں نجاشی جو نسب شناس معروف ہیں وہ شیخ مفید کی تالیفات ۱۷۰ سے زیادہ کے نام لیتے ہیں۔ (مقدمہ اوائل المقالات تبریز سال ۱۳۲۴ھ)

شیخ مفید نے شب جمعہ ماہ رمضان ۳ سال ۱۳۲۱ھ بغداد میں اس دنیا کو خدا حافظ کما آپ کی قبر کاظمین میں نام جواہ کے جوار میں ہے شیخ مفید فن مناظرہ میں کافی ذہین و قوی تھے ان کے محکم و متدل مناظرات میں سے یہاں ایک مناظرہ نہود کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ قول بعض لوگوں کے کہ اسی مناظرے کے بعد سے آپ کو شیخ مفید کا لقب ملا۔ شیخ مفید کے زمانے میں ایک بڑا سی عالم دین بغداد میں درس جویا کرتا تھا جس کا نام قاضی عبد الجبار تھا۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہا تھا اس کے درس میں شیعہ و سنی سب شاگرد حاضر تھے۔ اس دن شیخ مفید بھی اس کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی جس نے آج تک شیخ مفید کو نہیں دیکھا تھا، مگر ان کے اوصاف نہ تھے، کچھ لمحات گزرنے کے بعد شیخ مفید قاضی سے کہتے ہیں کہ اجازت ہے کہ ان شاگردوں کے سامنے آپ سے کچھ سوالات کرلوں؟

(۶۱)

شیخ مفید کا عمر بن خطاب سے مکالمہ

ہم قرآن کے سورہ توبہ کی آیت نمبر ۲۰ میں پڑھتے ہیں: "الاتصره
فقد نصره اللہ اذا اخرجه الدين کفر وثاني اثنين اذ هما في الغاء اذ يقول
لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فائز اللہ سکینہ علیہ وایدہ بجنودلم تروها۔"
یعنی اگر تم لوگ اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی پرواہ نہیں خدا مدد کار ہے۔
اس نے تو اپنے رسول کی اس وقت بھی مدد کی جب اس کو کفار مکہ نے گھر سے باہر
ٹکال دیا تھا، اس وقت صرف دو آدمی تھے، جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اور رسول
اپنے دوسرے ساتھی کو اس کی گزیری و زاری پر سمجھا رہے تھے کہ گھر اور نہیں خدا
یقیناً ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر اپنی طرف سے تسلیم نازل فرمائی اور
فرشتتوں کے ایسے لٹکر سے ان کی مدد کی جن کو تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔"
علماء اہل تسنن اس آیت کو فضائل ابو بکر کے معروف دلائل میں نقل کرتے
ہیں اور ابو بکر کو غار کا دوست کے نام سے پکارتے ہیں اور اس کی خلافت کی تائید
کے لئے اس کو پیش کرتے ہیں شعراء ان کو اسی عنوان سے یاد کرتے ہوئے ان کی
تعریف کرتے ہیں مثلاً سعدی کرتا ہے:

ای یار غار سید و صدیق و راہبر
مجموع فضائل و گنجینہ صفا
مردان قدم یہ صحبت یاران نبادہ انہ
لیکن نہ پہنан کہ تو در کام اثر دہا

(بوستان سعدی)

خود آپ نے ابھی تقدیم کی ہے گویا خود رسول خدا سے جگ کرنا نہیں ہے اور
رسول خدا سے تو جگ کرنے والے کافر ہیں۔

قاضی: برادر عزیز طلحہ و نبیر وغیرہ نے توبہ کر لی تھی۔

شیخ مفید: جگ مجمل تواریخ و قطبی ہے مگر ان کا توبہ کرنا روایت
ہے جو صرف سنی گئی ہے اور ابھی آپ کے قول کے مطابق درایت کو روایت کے
پیچھے نہیں پھوڑا جاسکتا اور مرد عاقل روایت کے پیچھے درایت کو نہیں پھوڑتا۔

قاضی: کافی دیر تک سوچتا رہا جب کوئی جواب نہ من سکا تو کہنے لگا تم
کون ہو؟

شیخ مفید: میں آپ کا خادم محمد بن محمد بن نعیمان ہوں۔

قاضی: اسی وقت منہر سے پیچے اتر اور شیخ مفید کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ
پر بٹھاتے ہوئے کہا: انت المفید حقاً۔ یعنی تم مفید ہو سب کے لئے باقی دیگر
علماء جو اس درس میں بیٹھے ہوئے تھے قاصی کی اس حرکت پر کافی تاریخ ہوئے اور
آپس میں باتیں کرنے لگے۔ قاصی نے ان سب سے کہا میں تو اس شیخ مفید کے
جوابات میں بے جواب ہو کر رہ گیا ہوں لہذا اگر تم میں سے کسی کے پاس ان کا
جواب ہے تو اے دو۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اخواں طرح شیخ وہ مناظرہ
جیت گئے اور اس درس میں لوگوں کی زبانوں پر آپ کے لقب مفید کا درود ہونے
لگا۔ (جاس المؤمنین جلد اول صفحہ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ مجلس پنجم)

شیخ مفید کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ جو تم نے ابو بکرؓ سے رفاقت کا حق ادا کر دیا لیکن میں انشاء اللہ خدا کی مدد سے ان تمام چھ نکتوں کے جوابات دونوں گا اس تیز ہوا کی طرح جو طوفانی دن میں خاک کو ازا لیا کرتی ہے اور وہ جواب یہ ہے۔

نکتہ اول کا جواب: یہ ہے کہ ابو بکرؓ کو دوسرا انفر قرار دینا اس کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا کیونکہ جب مؤمن کے ساتھ کہیں کافر کھڑا ہو تو مؤمن کی بات کرتے وقت کہا جائے گا کہ وہ دوسرا کافر ہے نہ کہ یہ دوسرا ہونا اس کی فضیلت ہے۔

نکتہ دوم کا جواب: یہ کہ ابو بکر کا رسول خداؐ کے ساتھ جو اس کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ایک ساتھ جمع ہونا فضیلت نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات مؤمن و کافر جمع ہوتے ہیں کیونکہ مسجد جس کی فضیلت غار ثور سے زیادہ ہے اس میں بھی پیغمبرؐ کے پاس مؤمن و منافق آتے تھے اور ایک ساتھ جمع ہوتے تھے جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر ۳ و ۷ میں پڑھتے ہیں ”فَمَا الْدِينُ كَفُورٌ وَّ كُلُكٌ مَهْطُومٌ عَنِ الْيَعْنَى وَ عَنِ الشَّحَالِ عَزِيزٌ“ یعنی ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ دائیں سے باسیں آپ کے گرد گروہ در گروہ جمع ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کششی توڑ میں پیغمبرؐ بھی تھے اور شیطان بھی تھا ان دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا شیطان کی فضیلت پر دلالت نہیں کرتا۔

تیسرا نکتہ کا جواب: اس کا رسولؐ کی مصاجبت میں رہنا باہر فضیلت نہیں ہے کیونکہ مصاجبت کے معنی ساتھ کے ہیں کیونکہ بعض اوقات مؤمن کا ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کافر کا ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ خداوند عالم سورہ بکھرؐ کی آیت ۷ میں فرماتا ہے کہ ”قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَحَاوِرُهُ أَكْفَرُتُ بِالذِّي خَلَقْتُكَ“

علامہ طبری کتاب احتجاج و کراچی کنز الفوائد میں شیخ ابو علی حسن بن محمد رقی نقل کرتے ہیں کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ میں نے یک دن خواب میں دیکھا کہ کہیں جا رہا ہوں ناگاہ میری نظر لوگوں کی ایک جمیعت پر پڑی جو ایک شخص کے گرد جمع تھے وہ شخص لوگوں کے لئے قسم نقل کرتا تھا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ عمرؐ بن خطاب ہے۔ میں عمرؐ کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک شخص عمرؐ سے بات کر رہا ہے مگر میں ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ میں ان کی بات کاشتے ہوئے بولا: ابو بکر کی برتری پر اس آیت: ”إذ همَا فِي الْغَارِ“ میں کیا دلیل ہے؟ اس آیت میں چھ نکتے ہیں جو ابو بکر کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں: **نکتہ اول:** یہ کہ اس آیت میں پیغمبرؐ کرمؐ کے بعد ابو بکر کو دوسرا (ثانی اثنین) پکارا گیا ہے۔ **نکتہ دوم:** یہ کہ اس آیت میں رسولؐ و ابو بکر کو ایک ساتھ جوان کی دوستی کی دلیل ہے ”رَادِهِهَا فِي الْغَارِ“ **نکتہ سوم:** یہ کہ اس آیت میں ابو بکر کو پیغمبرؐ کا رفق کے نام سے پکارا گیا ہے جو ابو بکر کی بلندی کی دلیل ہے ”اذبِقُولُ الصَّاحِبِ“ **نکتہ چہارم:** یہ کہ خداوند عالم نے ابو بکر کے لئے ”لاتحزن“ کی آیت تازل کی یعنی غمگین نہ ہو۔ **نکتہ پنجم:** یہ کہ پیغمبرؐ کرمؐ نے ابو بکر کو خبر دی کہ خداوند دنوں کا یار و مددگار ہے بطور مساوی ”إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ **نکتہ ششم:** خداوند عالم نے اس آیت کے ذریعے سکون و آرام کی خبر دی کیونکہ پیغمبرؐ کو تو آرام و سکون کی ضرورت نہیں ان کو تو پہلے ہی سے حاصل تھی ”فَالنَّزْلُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ“۔

لہذا اس آیت کے یہ چھ نکتے تھے جو ابو بکر کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں جن کو تم ہرگز رد نہیں کر سکتے۔

شیخ مفید کہتے ہیں کہ عمر جواب نہ دے سکے تو لوگ ان کے گرد سے منتشر ہو گئے اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ (احجاج طبری جلد ۲ صفحہ ۳۲)

(۶۶)

آیہ غار کے سلسلے میں مامون کا ایک سنی عالم سے مکالمہ مامون (ساتواں خلیفہ عبادی) نے قاضی وقت صحیح میں انہم کو حکم دیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر تمام بر جستہ علماء کو ہماری مجلس میں حاضر کرو۔ صحیح میں انہم نے تمام سنی علماء دراوین کو مامون کی اس مجلس میں حاضر کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو مامون نے احوال پر سی کے بعد کہا: میں نے آپ سب کو یہاں اس لئے جمع کیا ہے کہ آپس میں بیٹھ کر امامت کے بارے میں آزادانہ محث کریں تاکہ سب پر جھٹ تمام ہو جائے۔ اس مجلس میں سب علماء ابو بحر و عمر کی برتری کی باتیں کر رہے تھے تاکہ ان کا خلیفہ رسول خدا ہونا ثابت کر سکیں۔ مامون ان کے کہنے کو (روشن تربیان سے) روک تارہا۔

یہاں تک کہ اس میں سے ایک عالم جس کا نام اسحاق بن حماد بن زید تھا میدان مناظرہ میں آیا اور مامون سے کہنے لگا: خداوند عالم ابو بحر کے بارے میں فرماتا ہے: "ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا" یعنی پیغمبر خدا کے سے بھرت کے وقت غارِ ثور میں چھپ گئے تھے گویا آپ دو فروختے دونوں غار میں تھے۔ پیغمبر نے اپنے دوست ابو بحر سے کہا: محروم نہ ہو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا خدا نے اسیں سکون قلبی عطا کیا اور خداوند عالم نے ابو بحر

من تواب" یعنی اس کا ساتھی جو اسی سے باعث کر رہا تھا کہنے لਾ کر کیا تو اس پروردگار کا مکر ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا"

چوتھے نکتہ کا جواب: پیغمبر کا ابو بحر سے کہنا کہ "لا تحزن" یہ ابو بحر کی خطاء کی دلیل ہے نہ اس کی فضیلت ہے کیونکہ ابو بحر کا محروم یا اطاعت تھا یا گناہ اگر اطاعت تھا تو پیغمبر کو اس سے منع نہیں کرنا چاہئے تھا لہذا وہ محروم گناہ تھا جس سے رسول خدا نے منع کیا۔

پانچویں نکتہ کا جواب: پیغمبر کا یہ کہنا کہ "ان الله معنا" اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ ہم دو توں ساتھ ہیں بلکہ اس سے مراد تھا رسول خدا کی ذات ہے۔ رسول خدا نے اپنے کو لفظ جمع سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کو لفظ جمع سے تعبیر کیا ہے "ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون" (سورہ حجر آیت ۹) یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

چھٹے نکتہ کا جواب: تم نے جو کہا کہ خدا نے ابو بحر پر سکون و آرام کو نازل کیا یہ کہنا ظاہر آئندہ کے سبق کے خلاف ہے کیونکہ "سکینہ" اس کے لئے نازل ہوا جو آخر آیت کے لحاظ سے رسول خدا کی ذات ہے اور وہ لفڑی جوان کی مدد کو آیا تھا، کیونکہ پیغمبر ہی کے شیلان شان تھا کہ ان کیلئے سکینہ نازل ہو کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پیغمبر کے ساتھ سکینہ میں دوسرے مؤمنین بھی شامل ہیں جس میں دونوں کا نام آیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے "فائز اللہ سکینہ علی رسوله و علی المؤمنین" (سورہ فتح آیت ۲۶) یعنی خدا نے اپنے رسول اور مؤمنین پر سکون نازل کیا لہذا تم اگر اس آیہ غار کے ذریعے ان کی رفاقت پر استدلال نہ کرو تو پیغمبر ہے۔

”وَيَوْمَ خَيْنَ اذَا اعْجَبْتُكُمْ كُثُرْ تَكُمْ فِلْمْ تَغْنِ عَنْكُمْ شَيْاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الارض
بِمَارْحَبْتْ ثُمَّ وَلِيْمَ مَدْبِرِينْ. تَعَالَنَزَ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينْ“
یعنی جنگِ خین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت نے مغزور کر دیا تھا پھر وہ کثرت
تمہیں کچھ بھی کام نہ آئی اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین باوجود اس وسعت کے تم پر
جنگ ہو گئی تم پیچھے پھیر کر بھاگ لئے تب خدا نے اپنے رسول پر اور مؤمنین پر
تسکین نازل فرمائی۔ ”اے اسحاق کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو جنگ
سے نہیں بھاگے اور آخر تک چیخبر کے ساتھ تھے؟

اسحاق : میں نہیں جانتا یا مجھے نہیں معلوم۔

مامون : جنگِ خین جو کم و طائف کے درمیانی علاقہ میں بھرت کے
آنٹھوں سال ہوئی تمام سپاہ اسلام شکست کھا کر بھاگ گئے مگر چیخبر اکرم اور ان
کے ساتھ علی اور رسول خدا کے پچھا عباس اور پانچ دوسرے بھی ہاشم تھے آخر خدا
نے ان لوگوں کو کامیابی عطا کی اس جگہ خدا نے اپنے چیخبر اور ان سات مؤمنین جو
رسول کے ہمراہ تھے تسکین نازل کی لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیخبر کو بھی
تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسحاق : تو کیا آپ کی مراد اس جگہ علی و دیگر بھی ہاشم ہیں جو میدان
میں حاضر تھے تو ان لوگوں میں اور ان صاحب کے درمیان جو غار میں رسول کے
ساتھ تھے تسکین کے لحاظ سے کون افضل ہیں۔

مامون : ذرا تم بتاؤ کے وہ افضل ہے جو غار میں رسول کے ہمراہ تھا یاد
افضل ہے جو بزر رسول پر سویا اور رسول کی جان پھنسے کا سبب بنا جیسا کہ علی نے

کو چیخبر کا دوست اور مصاحب کے نام سے پکارا ہے۔

مامون : عجیب بات ہے کہ تم لغت و قرآن کے سلطے میں کتنی کم
معرفت رکھتے ہو کیا کافر مومن کا مصاحب و دوست نہیں ہو سکتا؟ لہذا ایسی
صورت میں یہ مصاحب کافر کے لئے افتخار کا باعث ہو گی؟ جیسا کہ قرآن سورہ
کھف کی آیت نمبر ۳ میں ارشاد ہوتا ہے : ”قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَحَاوِرُهُ
إِكْفَرُ بِالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ“ یعنی مومن دوست اپنے دوسرے رو تندہ و
مغزور دوست سے کہنے لگا کہ کیا اس خدا کا جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے
انکار کرتے ہو۔ لہذا اس آیت کے مطابق مومن کافر کے ساتھ مصاحب و دوست
ہو سکتا ہے اور فتحاء عرب کے اشعار بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ بعض
وقات انسان کو حیوان کے ساتھ مصاحب کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے لہذا الفاظ
صاحب ہرگز ان کے افتخار پر دلیل قرار نہیں پاسکتا۔

اسحاق : خداوند عالم نے آیہ لا تحزن کے ذریعے ابو جر کو تسلی دی ہے۔

مامون : ذرا مجھے بتاؤ کہ ابو جر کا حزن تھا یا اطاعت؟ اگر کہتے ہو اطاعت
تھی تو اس جگہ کویا فرض کیا جاسکتا ہے کہ چیخبر نے اطاعت سے منع کیا (اس قسم
کی نسبت چیخبر کی طرف دینا صحیح نہیں ہے) اگر کہتے ہو گناہ تھا تو سی آیہ ایک
گناہگار کی فضیلت و افتخار کے لئے کیسے ہو سکتی ہے۔

اسحاق : خدا نے قلب ابو جر کو سکون عطا کیا یعنی ان کیلئے باعث افتخار ہے۔

لہذا یہاں سکین سے مراد ابو جر ہی ہیں۔ چیخبر کو سکین کی ضرورت نہیں ہے۔

مامون : خداوند عالم سورہ توبہ کی آیت ۲۵ اور ۲۶ میں فرماتا ہے :

میں رسول خدا کی رحلت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عمر پنج لوگوں کے ہمراہ در فاطمہ پر آئے اور صد افاطمہ بلند ہوئی کہ میرے گھر سے دور ہو جاؤ۔ جس کی صحیح خاری و صحیح مسلم نے بھی تصریح کی ہے: ”فَهَجَرْتُهُ فَاطِمَةَ وَلَمْ تَكْلِمْهُ فِي ذَالِكَ حَتَّىٰ مَاتَ فَدَفَنَهَا عَلَىٰ لِيلًا وَلَمْ يَوْذَنْ بِهَا أَبَا بَكْرَ۔“

یعنی حضرت فاطمہ نے مرتبے دم تک ابو بھر سے بات نہیں کی اور علی نے حضرت فاطمہ کو رات میں دفن کیا جس کی ابو بھر کو خبر نہیں دی گئی۔ (شرح نجاح البلاغہ ان الحدید جلد ۲ صفحہ ۳۹۶ افی ۷)

اس کے باوجود اہل الحدید صاحب عمر و ابو بھر کی حمایت میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں: ”فَإِنْ هَذَا لَوْبِثْ أَنَّهُ خَطَا لَمْ يَكُنْ كَبِيرَةً بَلْ كَانَ مِنْ بَابِ الصَّفَافِرِ الَّتِي لَا فِتْنَةَ فِيهَا وَلَا تَوْجِبُ زَوَالَ الْوَلَىٰ“ یعنی اگر ثابت بھی ہو جائے کہ ابو بھر و عمر کی اس طرح کی رفتہ فاطمہ کے ساتھ گناہ تھی مگر گناہ کبیرہ نہیں تھی بلکہ گناہ صغیرہ تھی جو ان سے قطع دوستی و بیزاری کا ہرگز سبب نہیں بن سکتی۔

مؤلف : کیا در فاطمہ پر صحیح ہو کہ اس کو جانا اور علی کی گردان میں رسی باندھ کر لے جانا، فاطمہ کو ناراض کرنا اس حد تک کہ آپ نے آخری دم تک ان سے کوئی کلام نہ کیا ہو، یہ گناہ صغیرہ ہے؟

اگر ان اہل الحدید نے یہ کہا ہوتا کہ اصل واقعہ ہی ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے تو ہمیں زیادہ تجویز نہ ہوتا مگر وہ صحیح حادثہ کا اقرار کرتے ہیں مگر پھر بھی اس طرح سے تقاضات کی ہے۔ کیا انہیں گناہ کبیرہ و صغیرہ کے درمیان فرق

کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی۔ پیغمبر نے فرمایا (ہاں) تو علیؑ نے فرمایا: ”سَمِعَا وَطَاعَتْهُ“ تو صحیح ہے میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر علیؑ بستر رسولؑ پر سو گئے۔ مشرکین جو رات بھر نگاہ کے ہوئے تھے ان کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور سورہ ہے۔

سب نے اتفاق رائے سے پروگرام میلائے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد مل کر پیغمبرؑ پر حملہ آور ہو گا تاکہ پیغمبرؑ کے قتل کی ذمہ داری کسی ایک پر نہ آئے اور اس طرح یعنی ہاشم ہم سے انتقام نہ لے سکیں۔ علیؑ مشرکین کی یہ باتیں سن کر غمکھیں نہیں ہوئے۔ جس طرح ابو بھر غار میں غثوم ہو رہے تھے جبکہ وہ پیغمبر اکرمؑ کے ساتھ تھے جبکہ علیؑ تھا تھے اس کے باوجود پورے خلوص و استقامت کے ساتھ لیٹے رہے۔ خداوند عالم نے قرشتوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ مشرکین قریش سے ان کو لامان میں رکھیں۔ لہذا علیؑ نے اس قسم کی فدایاں اسلام اور پیغمبر اسلام کے لئے دیں ہیں۔ (خوار جلد ۲ صفحہ ۱۹۳)

(۶۳)

غیبی مؤلف و انک اہل الحدید کے درمیان مکالہ
علماء الحسن کے ہڈے عالم دین و مؤرخ عبدالجید بن محمد بن حنین بن اہل الحدید مؤلف جوان اہل الحدید کے نام سے مشہور تھے، جن کے مام اور معروف آثار میں سے ایک شرح نجاح البلاغہ ہے جو انہوں نے ۲۰ جلدوں پر مشتمل تحریر کی ہے، ان کا سال ۵۵۵ء میں بغداد میں انتقال ہوئے۔ وہ اپنی اس شرح نجاح البلاغہ کی چھٹی جلد

اجتہاد در مقابل نص

جو بات اسلام کی نظر میں آیاتِ قرآنی و فرمانِ نبی سے صریح روشن ہو اس کی پیروی کرنی چاہئے۔ اگر اس کے مقابل توجیہات کی جائے تو اسے اجتہاد کہتے ہیں جبکہ نص کے مقابل اجتہاد قطعاً باطل ہے اور اس طرح کا اجتہاد بدعت ہے جو انسان کو کفر و گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ حکم موضوعی کے سلسلے میں صحیح دلیل جو سند یاد لالات کی رو سے روشن ہو۔ محمد تو اعد اجتہاد کی رو سے اس موضوع کے حکم کو انداز کرتا ہے۔ اس طرح کا اجتہاد محمد بن جامع الشراط سے اس کے مقلدین کے لئے جلت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد درج ذیل مناظرہ ملاحظہ فرمائیں۔

بادشاہ سلوتو اور اس کے وزیر نے ایک مجلس تکمیل دی جس میں "خواجہ نظام الملک" بھی حاضر تھے۔ ایک بڑے سنی عالم "عباسی" اور ایک شیعہ عالم "علوی" کے درمیان عموم اور علماء کے تجوم میں اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔ علوی: تمہاری معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ عمر بن خطاب نے رسول خدا کے زمانے کے بعض قطعی احکام کو بدلتا ہے تھا۔ عباسی: کونے احکام کو تبدیل کیا ہے؟ علوی: مثلاً (صحیح خاری جلد ۲ صفحہ ۲۵۱ کامل ان اخیر جلد ۲ صفحہ ۳۱)

نمایز تراویح جو نافلہ کے طور پر انجام دی جاتی ہے، عمر نے کہا: اسے جماعت سے پڑھا جائے جبکہ نافلہ نماز کو ہرگز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ جیسا کہ

نہیں معلوم تھا؟ جبکہ تمہارا انی الحدید ہی نے یہ واقعہ نقل میں کیا، بلکہ دیگر سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے حضرت فاطمہؓ کے بارے میں فرمایا تھا: "ان الله يغضب لغضبه فاطمة و يرضي لرضاه" یعنی جس نے فاطمہؓ کو غضباناً کیا اس نے خدا کو غضباناً کیا، جس نے فاطمہؓ کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ جس سے فاطمہؓ ناراض ہیں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے اور جس سے فاطمہؓ خوش ہوتی ہیں اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔

دوسرے موقع پر پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: "فاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذاتي و من آذاني فقد اذى الله" یعنی فاطمہؓ میرے بھر کا لکڑا ہیں، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔" (صحیح خاری دارالحکیم بیروت جلد ۷ صفحہ ۱۸۵ اور جلد ۹ صفحہ ۱۸۵ فقاکل الحجر جلد ۳ صفحہ ۱۹۰)

ان دونوں یعنی عمر و ابوہریرہ نے فاطمہؓ کو اذیتیں دیں جو خدا اور رسولؐ کو اذیت دینے کا باعث ہو گیا، تو کیا یہ گناہ صغیرہ ہے؟ اگر یہ گناہ صغیرہ ہے تو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کیا خداوند عالم قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ: "ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنة الله في الدنيا والآخرة واعذلهم عذاباً مهيناً" (سورہ احزاب آیت ۷۸) یعنی جو خدا رسولؐ کو اذیت دے خداوند عالم دنیا و آخرت میں ان پر لعنت پھینے والا ہے ایسے لوگوں کے لئے دروداً ک غذاب ہے۔

یعنی جو رسول کہیں اسے لے لو اور جس سے رسول منع کریں رک جاؤ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُوْمِنٍ إِذَا قُضِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لِهِمُ الْخَيْرَ مِنْ أَمْرِهِمْ" (سورہ الحزاب آیت ۳۶)

یعنی کسی بھی مومن مرد و عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ جن امور کو خدا اور رسول نے لازم کر دیا ہو اس میں کسی کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کیا ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا: "حَلَالٌ مُحَمَّدٌ حَلَالٌ إِلَيْهِ الْيَوْمُ الْقِيَامَةُ وَحَرَامٌ مُحَمَّدٌ حَرَامٌ إِلَيْهِ الْيَوْمُ الْقِيَامَةُ" یعنی حلال محمد تاروز قیامت حلال ہے اور حرام محمد تاروز قیامت حرام ہے۔

مُتّبِعُ: یہ ہے کہ ہرگز اسلام کے صریح احکام کو کوئی تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا، حتیٰ کہ خود پیغمبر بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ خود پیغمبر اکرمؐ کے لئے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: "وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقْوَابِ لَا حَدَّنَا مِنْهُ بِالْحِسْنَى. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عِنْهُ حَاجَزِينَ." (سورہ حلقہ آیت ۲۷ تا ۳۷)

یعنی اگر رسول ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات بتاتے تو ہم ان کا داہننا با تجوہ پکڑ لیتے۔ پھر ہم ضرور ان کی شہزادگ کاٹ دیتے۔ تو تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا تھا۔

رسول خدا کے زمانے میں راجح تھا۔ مگر صرف نماز استقامة تھی جو زمانہ رسول میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ (شرح زر قانی بر موطا ماںک جلد ا صفحہ ۲۵) یا مثلاً عمر نے حکم دیا کہ اذان کے جملے "حَسِّي عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" کی جگہ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنِ النَّوْمِ" کے جملے کو کہا جائے۔ یا مثلاً حجج تجمع اور متغ (اذدواج موقف) دونوں کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ یا مثلاً زکوٰۃ میں مولفہ القلوب کے حصہ کو درمیان سے حذف کر دیا جبکہ سورہ توبہ کی آیت ۶۰ میں ان کے حصے کی تصریح ہے۔ اگرچہ دوسرے احکام بھی ہیں مگر یہاں صرف نہودہ کے طور پر پکھے ذکر کئے ہیں۔

بادشاہ سلوٰتی: کیا یہ حق ہے کہ عمر نے ان احکام کو تبدیل کیا ہے؟

خواجہ نظام الملک: جی ہاں یہ سب المحدث کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔

بادشاہ سلوٰتی: تو ہم ایسے بدعت گزار شخص کی کوئی پریروی کرتے ہیں؟

قوشجی: (قوشجی سنی مذہب کا بڑا عالم دین ہے جسے امام المتکلمین کہتے ہیں) اگر عمر نے حجج تجمع، متغ یا اذان سے "حَسِّي عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ" کے بھلات کو منع کیا ہے تو یہ ان کا اجتہاد ہے اور اجتہاد بدعت نہیں ہے۔ (شرح تحریر قوشجی صفحہ ۳۷۲)

علوی: کیا قرآن کی تصریح اور پیغمبر اکرمؐ کے صریح فرمان کے بعد کوئی دوسری بات کی جاسکتی ہے؟ کیا نص کے مقابل میں اجتہاد جائز ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمام مجتہدوں کو یہ حق تھا کہ اپنے اپنے زمانہ میں اسلام کے بہت سارے احکامات کو تبدیل کر دیتے، اس طرح اسلام کی جاودا فی ختم ہو جاتی۔ لہذا حقیقت یہ ہے جو قرآن فرماتا ہے: "عَالَمَكُمُ الرَّسُولُ فِي حِذْرَهِ وَنَهَاكُمُ عَنْهُ فَإِنْتُمْ هُوَا" (سورہ حشر آیت ۷)

آقائے صدر سے توسل کے بارے میں مکالمہ
ڈاکٹر تجانی جب مالکی مذہب کے پیروں تھے تو اپنے ملک یونیورسیٹی سے ایک
دفعتہ نجف اشرف گئے اور اپنے دوستوں کے توسط سے آیت اللہ باقر الصدرؑ کی
خدمت میں پہنچے۔ ان سے ملاقات کے بعد یوں سوالات شروع کئے :
تجانی : سعودی علماء کتنے ہیں کہ قبروں کو چومنا اور اولیاء اللہ سے
توسل شرک ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟

آیت اللہ صدر : اگر قبر کا چومنا اور اولیاء اللہ سے توسل کرنا اس
نیت سے ہو کہ وہ لوگ خدا کی اجازت کے بغیر مستقلًا بالذات نفع و ضرر پہنچا سکتے
ہیں تو یہ کام یقیناً شرک ہے لیکن خدا پرست مسلمان جانتے ہیں کہ نفع و نقصان
فقط خدا کے ہاتھ میں ہے اور اولیاء اللہ صرف وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ پس اس نیت
سے توسل کرنا شرک نہیں ہے۔ تمام مسلمان سنی شیعہ زمانہ رسولؐ سے لے کر
اب تک اس بات پر متفق ہیں سوائے وہابی علماء کے، جو دور جدید کی پیروں اور ہیں اور
اجماع مسلمین کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ مسلمان کے خون کو مباح جانتے ہیں
اور مسلمانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں اور قبر کو چومنے اور اولیاء اللہ سے توسل کو شرک
اور بدعت کہتے ہیں۔ علامہ سید شرف الدین بنناوی۔ جو بہت بڑے شیعہ محقق
گزرے ہیں اور بہت سی عقایم الشان کتاب المراجعات کے مؤلف ہیں۔ شاہ
عبد العزیز المسعود کے دور حکومت میں مکہ محلہ عمرہ کے لئے گئے تھے۔ عید قربان
کے دن تمام الکارین شاہ کی دعوت پر جمع ہوئے تھے تاکہ حسب معمول اس کو

ڈاکٹر محمد تجانی سماوی کے مباحثہ

ڈاکٹر محمد تجانی سماوی یونیورسیٹی کے شریفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا
آبائی ملک امیرستان میں مالکی تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مذاہب اسلامی
میں مذہب شیعہ خواجہ سید احمد جنتیلی میں لگ گئے۔ اگرچہ ڈاکٹر تجانی کو مختلف مشکلات
کا سامنا کرنا پڑا اس کے باوجود انہوں نے حقیقت کی تلاش میں مختلف مقامات کے
سفر کے جن میں سے ایک سفر نجف اشرف کا تھا، جہاں موصوف نے حضرت
آیت اللہ الحنفیؑ اور شیعہ آیت اللہ باقر الصدرؑ سے حصہ و مناظرے کئے۔ اس حق و
حقیقت کے ملاشی کو خداوند کریم نے بصیرت دی اور انہوں نے مذہب حق کو
تہہ دل سے قبول کر لیا جس کی تمام تفصیلات ان کی کتاب "تم اہدیت" "پھر میں
ہدایت پا گیا" نامی کتاب میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی دوسری کتاب
"کونوامع الصادقین" میں مذہب شیعہ کی حقانیت کو واضح اور روشن طریقے سے
بیان کیا ہے۔

اذان میں ولایت علیؑ کی گواہی دینا

ڈاکٹر تجھی: شیعہ اذان و اقامت میں علیاً ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟
آیت اللہ صدر: امام علیؑ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بدہ خدا ہیں لیکن خدا نے ان کو لوگوں میں سے ان کے شرف کی وجہ سے رسالت کا بارگار اخالے کے لئے چن لیا ہے جس کا اعلان میغیرا کرمؐ نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ علیؑ میرے بعد میرے جانشیں، میرے خلیفہ، میرے بعد لوگوں کے مولا و آقا ہیں۔ اسی لئے ہم بھی انہیں دوسرے صحابہ سے افضل جانتے ہیں کیونکہ خدا اور رسولؐ نے انہیں فضیلت عطا کی ہے جس پر عقلي اور نقلي دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ یہ احادیث نہ فقط شیعوں کے نزدیک متواتر ہیں بلکہ الحسن کے نزدیک بھی متواتر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی ہیں۔ دراصل اموی حکومت علیؑ کی دشمنی میں ان تمام حقائق کو چھپا رہی تھی۔ علیؑ و فرزندان علیؑ کا قتل جائز جانتی تھی، ان کے دور میں منبروں سے علیؑ پر سب و شتم کیا جاتا تھا اور لوگوں کو زردی کی اس کام پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ اس لئے شیعیان علیؑ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے ولی ہیں اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ولی خدا پر لعنت کرے۔ شیعوں کا یہ شیوه چلا آرہا ہے کہ وہ ہر دور کے ظالم، جبار اور فاسق حکمرانوں سے گلرتے رہے ہیں تاکہ یہ تمام مسلمانوں اور آنکھہ آئے والی نسلوں کے لئے تاریخ قرار پاجائے اور لوگ علیؑ کی حقانیت اور دشمنوں کی سازشوں کو

مبادر ک با پیش کریں۔ علامہ شرف الدین بھی ان میں شامل تھے۔ جب ان کی باری آئی تو انسوں نے شاہ کو قرآن مجید پڑیس کے طور پر پیش کیا۔ شاہ نے قرآن مجید کی بڑی تعظیم کی اور اسے احتراماً چونے لگا۔ علامہ شرف الدین نے موقع غیبت جانتے ہوئے فرمایا: اے شاہ محترم! آپ اس جلد کو کیوں چوم رہے ہیں جبکہ یہ بھرے کی کھال ہے؟

شاہ سعود: میرا اس جلد کو چونے کا مقصد وہ قرآن ہے جو اس کے اندر ہے نہ کہ خود یہ جلد۔

علامہ شرف الدین نے فوراً کہا: بیٹھ آپ نے حج کہا۔ ہم شیعہ الہیت بھی جب میغیرا کرمؐ کی ضریح مطر کو چوتھے ہیں تو وہ تعظیم و احترام رسولؐ میں چوتھے ہیں جس طرح آپ اس جلد کو اس کے اندر کے قرآن کی تعظیم میں چوم رہے ہیں۔ یہ سن کر سب حاضرین نے میغیرا بلند کی اور علامہ صاحب کی تقدیق کرنے لگے۔ جس سے مجبور ہو کر ملک عبد العزیز سعود نے حاجیوں کو احتی اجازت دیدی تھی کہ وہ ضریح رسولؐ کو چوم سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں آنے والے شاہ نے اس قانون کو بدل دیا۔

وہاں جو اس موضوع کو چھیڑتے ہیں وہ اپنی سیاست کے تحت مسلمانوں کے خون کو مباح جانتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر حکومت کر سکیں۔ خود تاریخ گواہ ہے کہ ان وہابیوں نے اس امت محمدی پر کیا کیا ستّم ڈھانے ہیں۔ (”بھر میں ہدایت پا گیا“، صفحہ ۹۲)

دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، درود و سلام ہو ان کی آل پاک پر اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے بھے ہیں۔ پھر آیت اللہ نے حاضرین کی طرف نگاہ کی گویا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ رہے تھے ذرا دیکھو یہ بچارے کس طرح سے تھمت و فرب کے شکار ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ میں نے تو اس سے بھی بدتر الفاظ شیعوں کے بارے میں سے ہیں: ”لَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ پھر آیت اللہ خوئی ”میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟

ڈاکٹر تاجانی: جب میں دس سال کا بھی نہیں ہوا تھا تو نصف قرآن حفظ کر لیا تھا۔

آیت اللہ خوئی ”: کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام اسلامی فرقے اپنے درمیان اختلاف کے باوجود قرآن مجید کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے۔

ڈاکٹر تاجانی: جی ہاں! یہ تو میں جانتا ہوں۔

آیت اللہ خوئی ”: کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے: ”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ“ (سورہ آل عمران آیت ۱۳۳) محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی پیغمبر آپکے ہیں۔ دوسرا جگہ ارشاد ہوا ہے: ”مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ (سورہ فتح آیت ۲۹) محمد خدا کے رسول ہیں اور جوان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے: ”عَمَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ

سبھی سکیں۔ لہذا اس بناء پر ہمارے فتناء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اذان میں علی کی حقانیت کی گواہی دینے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ یہ اذان یا اقامۃ کا جزو نہیں ہے۔ لہذا جو بھی اذان یا اقامۃ میں ولایت علی کی گواہی جزو اذان یا اقامۃ کی نیت سے دے تو اس کی اذان و اقامۃ باطل ہے۔

(۶۷)

آیت اللہ خوئی ” سے مکالمہ

ڈاکٹر تاجانی کہتے ہیں کہ جب میں سن تھا اور پہلی مرتبہ نجف اشرف گیا تو اپنے ایک دوست کی معرفت آیت اللہ خوئی ” سے ملا۔ میرے دوست نے ان کے کام میں کچھ کہا اور پھر مجھے ان کے نزدیک بیٹھنے کو کہا۔ میرے دوست نے مجھ سے بد اصرار کہا کہ آیت اللہ کو شیعوں کے بارے میں اپنا اور تیونس کے لوگوں کا نظریہ بتاؤ۔ میں نے کہا: شیعہ ہمارے نزدیک یہود و انصاری سے بدتر ہیں کیونکہ یہود و انصاری تو خدا کو مانتے ہیں اور موسیٰ و عیسیٰ کی رسالت کے معتقد ہیں لیکن ہم جو شیعوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرت علی رضی اللہ کو خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نقدیں بیان کرتے ہیں، البتہ شیعوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن علی کے مقام کو رسول کے مقام سے ملتے ہیں اور اس حد تک کہتے ہیں کہ جریئل جن کو قرآن (نحوہ باللہ) علی کے پاس لانا تھا غلطی سے رسول کو پہنچا گئے۔

آیت اللہ خوئی ”: چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے کہ ہم گواہی

و خاتم النبیین۔ ” (سورہ احزاب آیت ۳۰) یعنی مُحَمَّمَدؐ میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ خدا کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ کیا ان آیات کو آپ نے پڑھا ہے؟
ڈاکٹر تجانی: بھی ہاں۔

آیت اللہ خوئی: ان آیات میں علیؑ کا ذکر کمال ہے؟ ان میں تو صرف رسولؐ کی بات ہوئی ہے اور اس قرآن کو ہم اور آپ سب دل و جان سے مانتے ہیں تو کس طرح ہم پر تھت لگاتے ہو کہ علیؑ کو چیخبرؐ کے درجے تک بلند کرتے ہیں۔ میں خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دے سکا تو آیت اللہ خوئیؑ نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا: جبریلؐ کی خیانت کے مسئلے میں جو ہم لوگوں پر تھت لگاتے ہو کہ ہم شیعہ کنتے ہیں کہ جبریلؐ نے خیانت کی، یہ تھت پہلی ولی تھت سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب آغاز بعثت کے وقت جبریلؐ چیخبرؐ پر نازل ہوئے تو اس وقت علیؑ کی عمر دس سال سے کم تھی۔ پس کیوں کہ جبریلؐ نے غلطی کی اور محمدؐ اور علیؑ کے درمیان فرق نہ کرپائے۔

میں خاموش رہا اور اپنے اندر حضرت آیت اللہ خوئیؑ کی منطقی گفتگو کی صحت کو درک کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا: شیعہ ہی تمام اسلامی فرقوں میں وہ واحد فرقہ ہے جو یعنی چیخبرؐ اور ناموں کی عصمت کا معتقد ہے اور یقیناً جبریلؐ جو روح الائیں ہیں وہ بھی ہر خطاء سے پاک ہیں۔

ڈاکٹر تجانی: تو یہ سب جو مشورہ ہے وہ کیا ہے؟
آیت اللہ خوئیؑ: یہ سب تھتیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان جداوی ڈائل کے لئے لگائی جاوی ہیں اور آپ کیونکہ ایک سمجھدار انسان ہیں اور مسائل

کو خوبی سمجھ سکتے ہیں، شیعوں کے درمیان رہیں اور شیعوں کے حوزہ علمیہ (دنیٰ مدارس) کو نزدیک سے دیکھیں اور پھر ذرا واقعہ کریں کہ آیا اس طرح کی تھتیں جو شیعوں سے منسوب کی جاتی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟

میں جب تک نجف اشرف میں رہا اندزادہ کر لیا کہ یہ سب شیعوں کی طرف بے جا نہیں دی گئی ہیں۔ (”پھر میں ہدایت پا گیا“ صفحہ ۶۷۔ ۷۸)

(۶۸)

نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا ہم جانتے ہیں کہ الحسنؐ کے نزدیک نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ لوگ ہر نماز کو اس کے خاص وقت پر پڑھنا ضروری جانتے ہیں۔ لہذا ڈاکٹر تجانی کہتے ہیں کہ جب میں سنی تھا تو اسی طرح نماز پڑھا کر تھا اور ایک ساتھ نماز پڑھنے کو باطل سمجھتا تھا۔ جب نجف اشرف میں اپنے دوست کی معرفت آیت اللہ باقر الصدرؐ کے پاس پہنچا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آیت اللہ صدرؐ مسجد کی طرف روانہ ہوئے، میں اور دوسرے حاضرین بھی مسجد پہنچ کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ صدرؐ نماز ظہر کے بعد تھوڑے سے وقت کے ساتھ نماز عصر پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور میں کیونکہ صفوں کے درمیان میں تھا، لہذا انہوں نے سکا اور مجبوراً نماز عصر کو ظہر کے قوا بعد پڑھا جو زندگی میں پسلا تجویہ تھا مگر روحانی اعتبار سے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ کیا میری عصر کی نماز صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس دن

میں نے دیکھا کہ وہ صحیح خاری و صحیح مسلم تھیں۔ آیت اللہ صدر نے اس شاگرد سے کہا کہ وہ احادیث جو دونمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے سلسلے میں ہیں نکال کر دیکھائے۔ میں نے ان دونوں کتابوں میں پڑھا کہ رسول خدا خوف و خطر یا اضطرار کے بغیر دونوں نمازیں صحیح کرتے تھے۔ یعنی ظہر کے فوراً بعد عصر پڑھتے تھے اور صحیح مسلم میں تو اس مسئلے پر ایک مستقل باب پایا۔ میں تو پہت پریشان ہوا کہ خدیا اب میں کیا کروں میرے دل میں آیا کہ شاید یہ دو کتابیں جو یہاں ہیں تحریف شدہ ہوں۔ لہذا میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ جب تیونس والپس جاؤں گا تو یہاں کی کتابوں میں دیکھوں گا اور اس مسئلے کی صحیح تحقیق کروں گا۔ اسی دوران آیت اللہ صدر نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اب اس دلیل کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟

ڈاکٹر تیجانی: پہل آپ حق پر ہیں اور آپ نے جا کما ہے۔

پھر ان کا شکر یہ ادا کیا لیکن اپنے دل میں قانون نہیں ہوا۔ مگر یہ کہ اپنے دل میں آکر اپنی کتابیں صحیح خاری اور صحیح مسلم دیکھیں تو بالکل قانون ہو گیا اور اس دن سے بغیر کسی ضرورت کے نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک وقت میں پڑھتا تھا کیونکہ خود تجھیر دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امام مسلم اپنی صحیح کے باب الجمع بین الصلوٰتین فی الحضر میں ان عبار سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء بغیر کسی خوف کے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ان عبار سے سوال ہوا کہ پیغمبر اکرم کیوں اس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: "لَا يَحْرُجُ أَهْمَهْ" یعنی امت دشواری میں نہ پڑ جائے۔ اسی طرح کتاب صحیح خاری کی جلد اول صفحہ ۱۳۰ پر باب "وقت

خود آیت اللہ صدر کا مہمان تھا۔ لہذا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھے ہی لیا کہ کیا کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ حالت اضطرار میں دونمازوں ایک ساتھ پڑھ لے؟

آیت اللہ صدر: ہاں جائز ہے۔ وہ فریضے یعنی نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔

ڈاکٹر تیجانی: اس فتویٰ پر آپ کی کیا دلیل ہے؟

آیت اللہ صدر: کیونکہ رسول خدا مددیہ میں بغیر سفر و بغیر خوف و بغیر بارش یا کسی اور مجبوری کے بغیر بھی نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک ساتھ اوپر کرتے تھے۔ ان کا یہ کام اس لئے تھا کہ ہم پر سے مشقت کو اٹھانے دیں اور اس طرح کا عمل الحمد للہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کے ذریعے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح آپ الحست کے نزدیک بھی سنت کے ذریعے ثابت ہے۔

مجھے تجہب ہوا، کیونکہ میں نے اس قسم کا عمل کسی سنبھال کو انجام دیتے نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کے بر عکس عمل کرتے دیکھا تھا کیونکہ سنیوں کے نزدیک اگر نمازوں سے ایک منٹ پہلے ہو تو یہی باطل ہے تو نماز عصر کو اس کے وقت سے پہلے ظہر کے فوراً بعد پڑھنا تو بد رجہ اولی نماز کو باطل کر دیگا۔ اسی طرح نماز عشاء کو نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھنا ہمارے نزدیک غیر معمولی چیز بھی تھی۔

آیت اللہ صدر: میرے چرے سے اندازہ لگایا کہ گویا میں تجہب کر رہا ہوں کہ نماز ظہر عصر اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسے جائز ہے؟ اسی وقت انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا۔ وہ گیا اور دو کتابیں لا کر مجھے دیں۔

"ان الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوفاً." (سورة نساء آیت ۱۰۳) یعنی مؤمنین پر نماز وقت میں کے ساتھ واجب ہے۔ اس امام جماعت کے دل میں جو آیا اس نے وہ نہز اپنیں کیں۔ میرا ایک دوست جو خود کافی پڑھا لکھا تھا اور میری باتیں اسے مطمئن کر چکی تھیں وہ بھی امام جماعت کی تقریر سن رہا تھا، اس نے اکر دہ باتیں مجھے بتائیں۔ میں نے اس کے سامنے صحیح خاری اور صحیح مسلم کے وہ صفات کھوکھو کر پڑھائے۔ پھر وہ دوست حسب معمول اس امام جماعت کی نماز میں گیا، جب نماز کے بعد امام درس دینے پڑتے تو اس نے امام جماعت سے پوچھا: مولانا نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟

امام جماعت: یہ شیعوں کی بدعت ہے۔

میرا دوست: اس موضوع کی صحت تو صحیح ہیں میں بھی ملتی ہے۔

امام جماعت: نہیں۔ یہ ہرگز ثابت نہیں ہے بلکہ ان دونوں کتابوں کی طرف اس طرح کی نسبت دیاغ ناطق ہے۔

میرے دوست نے جب ان دونوں کتابوں میں لکھا ہوا امام جماعت کو دکھلایا اور اس نے مسئلے کی حقیقت کو چشم خود پڑھ لیا تو کتاب بد کر کے اسے واپس دی اور کہنے لگا: یہ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا صرف پنجبر کے لئے ہے۔ کیا تم بھی پنجبر جا جاتے ہو؟ تمہارے لئے ہرگز یہ جائز نہیں کہ ایک ساتھ دو نمازوں پر چھو۔

میرا دوست امام جماعت کے اس نامقوقل جواب سے ہی سمجھ گیا کہ وہ صرف تصب کے پیش نظر حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس نے بھی فرم

المغرب" میں دیکھا کہ ان عباس سے نقل ہے کہ پنجبر سات رکعت نماز یعنی مغرب و عشاء کی ایک وقت میں پڑھتے تھے اور اسی طرح آخر رکعت نماز یعنی ظہر و عصر کی ایک ہی وقت میں ادا کرتے تھے۔ پھر میں نے مند احمد (جلد ۱ صفحہ ۲۲۱) میں بھی یہ مطلب اسی طرح موطاعہ امام مالک شرح الحوالہ جلد اول صفحہ ۱۶۱) میں بھی دیکھا کہ ان عباس روایت کرتے ہیں کہ: "صلی رسول اللہ الظہر و العصر جمیعاً والمغرب والعشاء جمیعاً فی غیر خوف ولا سفر۔" یعنی رسول خدا پنجبر کی خوف یا نشر کے نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء ایک ہی وقت میں ادا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ جب یہ مسئلہ اتنا واضح ہے تو برادران الحسد اپنی اصل کتابوں سے غافل رہتے ہوئے کیوں اس مسئلے کو ایک بڑے اشکال کے طور پر شیعوں پر وارد کرتے ہیں۔ ("کونوا مع الصادقین" صفحہ ۲۱۰)

(۶۹)

امام جماعت الحسد سے مباحثہ

ذاکر تجھنی کہتے ہیں کہ دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے مسئلے کو جب میں نے صحیح خاری اور صحیح مسلم کے خواہ سے اپنے وطن میں اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تو ان میں سے بعض نے حقیقت تسلیم کر لی مگر یہ بات جب شرط حصہ کے امام جماعت تک پہنچی تو وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا ایک نیا دین لایا ہے جو قرآن سے مخالف ہے کیونکہ قرآن فرماتا ہے:

میں نے بھی اس کے درس میں شرکت کی۔ وہ کچھ قرآنی آیات کی تفسیر بیان کر رہا تھا۔ لوگوں کی آپس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قاضی مدینہ ہے۔ جب اس کا درس ختم ہوا اور وہ انہ کر مسجد النبی سے باہر جانا چاہتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ قبلہ فراہیہ بتائیں کہ آیت تطہیر "انما بید اللہ لیذہ عنکم الرجس اهل البيت ویطہرکم تطہیرا" (سورۃ الحزاد آیت ۳۲) میں الہیت سے مراد کون ہیں؟

قاضی: اس آیت میں الہیت سے مراد ائمۃ المؤمنین ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے شروع میں ازواج پیغمبر سے خدا فرماتا ہے: "وَقُرْنَ فِي بَيْوَنَكْ وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى". یعنی ازواج پیغمبر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح (لوگوں کے درمیان) اپنی زندگی ظاہر نہ کرو۔

ڈاکٹر تجھانی: شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی، فاطمہ، حسن و حسین علیهم السلام کے لئے مختص ہے۔ میں نے شیعوں سے کہا کہ اس آیت کے آغاز میں ازواج پیغمبر کا ذکر ہے اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی ازواج پیغمبر سے "یا نساء النبی" کے لفظ کے ذریعے صریح خطاب ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ ابتدائی آیت اور اس سے پہلے والی آیت بھی ازواج پیغمبر کے بارے میں آئی ہے اور اس میں جمع مہنث کا صینہ استعمال ہوا ہے مثلاً: "السَّنَنُ وَفَلَاتُخَصْنَنُ وَبَيْوَنَكْ وَلَا تَبْرُجْنَ وَاصْنَنُ وَآتِنَ وَاطْعَنُ"۔ لیکن جب یہ آیت آخر کو پہنچتی ہے تو اس کا سیاق تبدل ہو جاتا ہے اور تمام ضمیریں جمع مذکور کی استعمال ہوئی ہیں مثلاً: "عَنْکُمْ وَيَطْهَرُکُمْ" وغیرہ۔

قاضی نے اپنی ہنک اور پر کی اور (جائے اس کے کہ مجھے کوئی استدلالی

کھانی کہ آج کے بعد سے اس کے بھیچے نماز نہیں پڑھوں گا۔

اس جگہ مناسب ہے کہ اس حکایت کو بیان کرتا چلوں کہ دو شکاری شکار کے لئے صحرائی میں گئے۔ وہاں انہوں نے دور سے کوئی کالی چیز کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا: وہ کوا ہے۔ دوسرا کہتے لگا: وہ ببرا ہے۔ دونوں اپنی اپنی بات پر ڈالے ہوئے تھے جب دونوں اس کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ وہ کوا ہے اور وہ ازگیا تو پسلے والے نے کہا: میں نہیں کہہ رہا تھا کہ کوا ہے اب تم قانع ہو گئے؟ لیکن دوسرا شکاری بڑی ڈھنائی سے بولا: بکرا بھی تو اڑ سکتا ہے۔

ڈاکٹر تجھانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس دوست کو بولیا اور اس سے کہا کہ صحیح خاری اور صحیح مسلم لے جا کر اس امام صاحب کو دکھاؤ کہ ان میں ان عباس اور انس بن مالک جیسے جید صحابہ سے روایت ہے کہ یہت سے صحابہ ظہر و عصر کی نماز پیغمبر کی اقتداء میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ لہذا جمع بین الصالوتوں پیغمبر ہی کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ کیا ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم سنت پیغمبر کی پیروی کریں۔ مگر میرے دوست نے مخذلت کر لی۔ کہتے لگا: اگر خود رسول خدا بھی آکر کہیں تو بھی امام صاحب نہیں مانیں گے۔

(۷۰)

قاضی مدینہ سے آیت تطہیر کی حدث

ڈاکٹر تجھانی کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں مسجد النبی کی زیارت سے مشرف ہوا تو دیکھا کہ ایک خطیب نمازوں کے درمیان بیٹھا درس دے رہا ہے۔

جواب دیتا) مجھے گھورتے ہوئے غصے سے بولا شید اپنی خواہشات کے مطابق آیات
قرآنی کی تاویل کرتے ہیں۔ ("پھر میں ہدایت پا گیا" صفحہ ۱۱۳)

اب یہاں تکمیل حث کے طور پر میں علامہ محمد حسین طباطبائیؒ کی تفسیر
البیان سے مستفید ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس بات کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے
کہ آیت تطہیر سورۃ الحزب کے آخر ہی میں نازل ہوئی ہو بلکہ رولیات سے خوبی
استفادہ ہوتا ہے کہ یہ آیت جدا گانہ طور پر نازل ہوئی ہے۔ پھر زمانہ تغییر میں
قرآن کی جمع اور نی کے وقت یہ آیت سورۃ الحزب کے درمیان قرار پا گئی۔ (تفسیر
البیان جلد ۱۲ صفحہ ۳۳۰) خود الحست کی کتبوں سے متعدد رولیات مروی ہیں کہ
البیت سے مراد علیؑ و فاطمہؓ و حسنؑ و حسینؑ ہیں۔ حتیٰ کہ خود ازوں تغییر مثلاً امام
سلیمان و عائشہؓ اور دوسروں سے نقل کیا جاتا ہے کہ البیت سے اس آیت مذکور میں
علیؑ و فاطمہؓ و حسنؑ و حسینؑ علیم السلام ہیں۔ (شوہد التنزیل جلد ۲ صفحہ ۱۱۵ و
کتاب احراق الحق جلد ۲)

(۷۱)

آل محمدؐ پر درود و سلام مجھے پر مباحثہ

بیساکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ الحست جب علیؑ کا ہم لیتے ہیں تو
"علیه السلام" کے جانے "کرم اللہ وجہ" کہتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم ان کا مقام
بلند کرے جبکہ اصحاب رسولؐ کے لئے "رضی اللہ عنہ" کہتے ہیں۔ یعنی اللہ ان سے
راضی ہو گیونکہ وہ لوگ خود اس بات کے معتقد ہیں کہ علیؑ نے کوئی گناہ ہی نہیں

کیا ہے جو ان کے بارے میں "رضی اللہ عنہ" کہا جائے بلکہ ضروری ہے کہ ان کے
بارے میں "کرم اللہ وجہ" کہا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
وہ لوگ کیوں حضرت علیؑ کو "علیه السلام" نہیں کہتے؟ اس سوال کے جواب کے
لئے ایک مناظرہ ملاحظہ کریں:

ڈاکٹر تجھی: جب سنی تھے تو جہاز میں قاہرہ سے عراق کے سفر میں ایک
یونیورسٹی کے استاد منجم ہم سفر تھے جو عراق کے رہنے والے تھے۔ دوران سفر
دو توں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ڈاکٹر تجھی اور استاد منجم کے مابین جہاز میں بھی
اور پھر عراق پہنچ کر بھی کافی گفتگو ہوئی۔ ایک دن استاد منجم کے گھر بغداد میں اس
طرح مناظرہ ہوا:

ڈاکٹر تجھی: آپ لوگ علیؑ کے مقام کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ ان کو
تغییر کے ہم روایت لے آتے ہیں کیونکہ نام علیؑ کے بعد جانے "کرم اللہ وجہ"
کہنے کے آپ لوگ "علیه السلام" کہتے ہیں یا "علیہ الصلوٰۃ والسلام" کہتے ہیں بلکہ
صلوٰۃ و سلام تغییر کے لئے مخصوص ہے۔ چنانچہ قرآن میں پڑھتے ہیں: "اَنَّ اللَّهَ وَ
مَلَائِكَتُهُ يَصْلُوُنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوكُمْ أَنْوَاعًا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا".
(سورۃ الحزب آیت ۵۹) یعنی بے شک خدا اور اس کے ملائکہ سب نبیؑ پر درود مجھے
ہیں، لہذا اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر درود و سلام مجھے۔

استاد منجم: ہاں تم نے صحیح کہا کہ ہم جب امیر المؤمنین علیؑ کا یا
دوسرے اماموں کے ہم لیتے ہیں تو آخر میں "علیه السلام" کہتے ہیں لیکن اس کا
مطلوب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو تغییر کے درجے سے ملا دیتے ہیں۔

معترضی جلد ۶ صفحہ ۱۳۲) بالکل اسی فتوے کے پیش نظر اپنے معروف اشعار میں یوں
کہتے ہیں :

”یا اہلبیت رسول اللہ حبکم فرض من الله فی القرآن انزله
کھا کم من عظیم القدر انکم من لم يصل عليکم لا صلوة له
یعنی اے الہبیت رسول خدا آپ سے وہ تو ایک فرایض واجب ہے جس کا
حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے۔ آپ کے مقام و عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ جو
نمایز میں آپ پر صلوٰۃ نہیجے اس کی نماز باطل ہے۔ (الموابد زرقانی جلد ۷ تذکرہ
علامہ جلد اول صفحہ ۱۲۶)

ڈاکٹر تھجانی جو اس تھنگلو، جواب سے بہرہ مند ہو رہے تھے اور یہ استدلالی
باتیں ان کے قلب پر اڑ کر رہی تھیں، کہنے لگے : اس لحاظ سے میں بھی قبول کرنا
ہوں کہ الہبیت درود میں محمدؐ کے ساتھ شریک ہیں اور ہم بھی جب چنبرہ پر صلوٰۃ
نہیجے ہیں تو اصحاب و آل چنبرہ کو بھی شریک صلوٰۃ نہیجے ہیں لیکن یہ بات صحیح میں
نہیں آتی کہ جب تمام علیٰ لیا جاتا ہے تو کیوں علیٰ السلام کہا جاتا ہے ؟!
استاد منعم : کیا تم صحیح خاری کو مانتے ہو ؟

ڈاکٹر تھجانی : ہاں یہ کتاب تو لام عالی مقام اور سنیوں کے موردن قبول
لاموں میں سے امام خاری کی ہے اور قرآن کے بعد صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔
استاد منعم اپنی الماری سے کتاب صحیح خاری الحاکر لے آئے اور اس کے

اے جیسا کہ سورة صافات کی آیت ۱۳۰ میں پرہیز ہے : ”سلام علی آل یعنی“ یعنی عبار سے قل
ہے کہ آل یعنی سے مراد آل چنبرہ میں السلام ہیں۔

ڈاکٹر تھجانی : تو پھر آپ لوگ کس دلیل کے تحت ان پر درود و سلام
نہیجے ہیں ؟

استاد منعم : اسی آیت کی دلیل کے تحت جو تم نے ابھی پڑھی کہ : ”ان
الله و ملائکته يصلون على النبي.“ کیا تم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے ؟ تمام
سی و شیعہ مشرین نے اجتماع اسی بات کو تقلیل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوتی تو
صحابی کی ایک جماعت نے آکر پوچھا : یا رسول اللہؐ ہم یہ تو سمجھ گئے کہ آپ پر
درود و سلام پھیجنیں مگر یہ نہیں سمجھ سکے کہ کس طرح آپ پر درود و سلام پھیجنیں۔
چنبرہ اکرمؐ نے جواب میں فرمایا : ”اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما
صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم فی الصالحین انك حیدر محبہ“ یعنی
حدیا! درود سلام صحیح محمدؐ و آل محمدؐ پر جس طرح دنیا والوں میں اراحتیم و آل اراحتیم
پر درود پھیجنیا ہے۔ پھر تو قابل سائش و اجماعت کرنے والا ہے۔ (صحیح خاری جلد ۶
صفحہ ۱۵)۔ صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۳۰۵) اور آپ نے یہ بھی فرمایا : ”لاتصلوا
علی الصلوٰۃ البتراء“ یعنی مجھ پر ناقص صلوٰۃ نہیں پھیجنیں لوگوں نے پوچھا :
ناقص صلوٰۃ کیا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا : یعنی اللهم صل علی محمد کرنا، بغیر لفظ
آل محمد کے کرنا، بلکہ کرو : اللهم صل علی محمد و علی آل محمد جو کامل
صلوٰۃ ہے۔ (الصواعق المحرقة صفحہ ۱۳۲) اکثر روایات میں آیا ہے کہ کامل صلوٰۃ پھیجو
جملہ ”آل محمد“ کو آخر سے حذف نہ کرو حتیٰ کہ نماز کے تشدد میں بھی فتحاء
الہبیت اس کو واجب جانتے ہیں اور فتحاء المسنی میں امام شافعی بھی فرض نماز
کے دوسرے تشدد میں واجب جانتے ہیں۔ (شرح فتح البلاعہ مؤلفہ ابن القیم

سُنی عالم: ہاں میں اس حدیث کو تسلیم کرتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے اور میں نے قرآن پر ایک تفسیر لکھی ہے جس میں اتفاقاً سورۃ مائدہ کی آیت ۲۷ کے ذیل میں اس حدیث غدیر کو لکھا ہے اور اس کی صحت کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنی تفسیر میں اس سلطے کو دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ اس کتاب میں حدیث غدیر کے بعد اس طرح لکھا ہوا تھا کہ شیعہ معتقد ہیں کہ یہ حدیث غدیر بطور صراحت پیغمبرؐ کے بعد "سیدنا علی کرم اللہ و جہہ"ؐ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے لیکن الحدث کے نزدیک یہ عقیدہ باطل ہے۔ (کہ حدیث غدیر خلافت علیؑ پر دلالت کرتی ہے) کیونکہ ہمارے خلفاء ابو بکر، عمر اور عثمان (رضی اللہ عنہم) کی خلافت سے مناقات رکھتا ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ اس حدیث کی ظاہری صراحت سے انکار کریں اور اس کی اس طرح تاویل کریں کہ لفظ مولاؑ کے معنی رہبر کے نہیں ہیں بلکہ دوست ویادو کے ہیں۔ جیسا کہ یہی لفظ قرآن میں دوست ویادو کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور خلفاء راشدین یعنی ابو بکر و عثمان و عمر (رضی اللہ عنہم) اور دوسرے اصحاب پیغمبرؐ نے بھی اس لفظ مولاؑ کے معنی یہی سمجھے ہیں۔ پھر تابعین اور علماء مسلمین نے بھی ان کی بیرونی کرتے ہوئے یہی معنی مراد لئے ہیں۔ لہذا اس میں شیعوں کے عقیدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

ڈاکٹر تجھانی: آیا تاریخ میں اصل واقعہ غدیر پیش آیا ہے یا نہیں؟

سُنی عالم: ہاں ہے اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو علماء و محمد شیعین اسے کیوں نقل کرتے؟

ڈاکٹر تجھانی: کیا یہ مناسب ہے کہ رسول خدا ایک لاکھ سے زیادہ جماں

صفحات کو کھولتے ہوئے مجھے دی اور کہا: ذرا سے پڑھو۔
ڈاکٹر تجھانی: جب میں نے اس صفحہ کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ مجھے سے فلاں نے اور فلاں نے حضرت علی علیہ السلام سے جیسے ہی میں نے لفظ "علیہ السلام" دیکھا تجب کرنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں اپنے آپ سے کہنے لگا: یہ صحیح خاری نہیں ہے۔ پھر سے اس صفحہ کا دقيق مطالعہ کیا دیکھا کہ وہی ہے لہذا میر اشک دور ہو۔

استاد منعم: میں نے صحیح خاری کے دوسرے صفحے کو کھول کر دیکھا اس پر لکھا تھا کہ: "علی بن الحسین علیہ السلام" سے حدیث ہے۔ اب تو میرے پاس کوئی جواب نہ رہا سوائے تجب کے، سبحان اللہ۔ پھر سے میں نے اسے پڑھا اور اس کو پڑھ کر دیکھا تو وہ مصر سے "انتشارات الشرکت الحلى والاوه" سے چھپی ہوئی تھی۔ لہذا سوائے اس حقیقت کے قبول کرنے کے میرے پاس کوئی دوسری اسٹریٹ نہیں تھا۔ ("پھر میں پڑایت پا گیا" صفحہ ۲۵)

(۷۲)

حدیث غدیر پر ایک مکالہ

ڈاکٹر تجھانی کہتے ہیں کہ اپنے ملک تیونس میں ایک سنی عالم سے مناظرہ ہوا جس میں میں نے اس سے کہا کہ آپ حدیث غدیر کو مانتے ہیں کہ پیغمبرؐ نے صحراء غدیر میں ایک لاکھ سے زیادہ کے مجمع کے سامنے فرمایا: "من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ" یعنی جس کا میں مولا و رہبر ہوں اس کا یہ علیؑ مولا و رہبر ہے۔

عاقل تسلیم نہیں کرے گا کہ صرف چند نفر کی دلخشنی و کینہ کو دور کرنے کے لئے پیغمبر اکرم ایک لاکھ سے زیادہ جانش کو پتے صحرا میں دیر تک روکیں اور ان سے صرف حضرت علیؑ کی دوستی و یادوی بیان کریں جبکہ خود ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہم) بھی اس لفظ مولیٰ سے امام علیؑ کی رہبری ہی کے معنی سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت علیؑ کے پاس آکر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا: "سُبْ بَخْ بَأْنَابِي طَالِبٌ أَصْبَحَتْ مُوَلَا يَا وَمُوَلَا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ." یعنی مبارک ہو مبارک ہو اے الٰی طالب کے پیٹے کر آپ ہمارے اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے مولا ہوئے۔ یہ وہ مشور و معروف مبارکباد ہے جو ہر سے ہرے علماء الہلسنت نے بھی نقل کی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا صرف سادہ دوستی اتنی اہم تھی جو ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہم) نے حضرت علیؑ کو اتنی بڑی عبارت کے ساتھ مبارکباد پیش کی جبکہ پیغمبر نے بھی خطبہ کے بعد اعلان کیا کہ: "سَلَّمُوا عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ." یعنی علیؑ کو "مؤمنوں کے امیر" کہ کر سلام کرو۔ پیغمبر نے حکم خدیر کو سورہ مائدہ کی آیت ۶۷ کے باzel ہونے کے بعد پیش کیا وہ آیت یہ ہے: "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغْهَا إِنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعُلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ." یعنی اے پیغمبر جو کچھ خدا کی طرف سے آپ پر بازی ہوا ہے لوگوں تک پہنچو دیں اگر ایسا نہیں کیا تو گویا کوئی کار رسانیت انجام نہیں دیا۔ تو کیا مسئلہ دوستی اس قدر ممکن تھا کہ اگر پیغمبر اس کو پیش نہ کرتے تو کار رسانیت اور حضور ارہ جاتا؟

— منہاج حسن جملہ جلد ۲ صفحہ ۲۸۱ اور علام اتنی نے محدثین میں ۴۰ علماء الحسن سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

کے سامنے سفرج سے وابسی کے وقت جن میں خواتین و پچھے بھی تھے پتے صحرا پر پتے سورج کے نیچے روک کر خطبہ طوالی دے کر کیا پیغمبر اسلامؐ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ علیؑ میرا دوست و یادو ہے۔ لہذا تمہارا بھی دوست و یادو ہے؟ کیا اس طرح کی تاویل و توجیح کرنا حدیث خدیر کے ظاہری و صریح معنی سے روگردانی کرنا نہیں ہے، کیا یہ حرکت صحیح ہے؟

سُنی عالم: کیونکہ بعض اصحاب نے حضرت علیؑ کی طرف سے جنگوں میں مددے اخراجے تھے بعض کے دلوں میں حضرت علیؑ کے سلسلے میں وہ کہیں وعداوت تھی۔ لہذا پیغمبر نے اس واقعہ خدیر سے ان لوگوں کے دلوں سے کینہ کو نکالنے کیلئے کہا کہ علیؑ تمہارا دوست و یادو ہے تاکہ وہ لوگ علیؑ سے دلخشنی نہ کریں۔

ڈاکٹر تیجانی: صرف مسئلہ دوستی کو بتانا اس بات کا اتفاق نہیں کرتا ہے کہ رسول خدا اس پتے صحرا میں لوگوں کو روکیں اور طوالی خطبہ دے کر صرف علیؑ کی دوستی کو بیان کریں۔ نہیں، بلکہ مسئلہ یہ اور یہ آپ نے خطبہ کے آغاز ہی میں حاضرین سے فرمایا تھا کہ: "إِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ." یعنی کیا تم لوگوں کی جان کی نسبت میں اولیت نہیں رکھتا ہوں؟ حاضرین نے اقرار کیا کہ کیوں نہیں آپ ہم سب کی جانب پر اولیت رکھتے ہیں لہذا لفظ اولی کے وہی لفظ مولا کے معنی میں جو حدیث خدیر میں آیا ہے لہذا یہاں پر پیغمبر کی مراد رہیں ہے اور اگر آپ کے بقول لفظ مولا کے معنی دوست و یادو کے قرار دیں تو پیغمبر کے لئے ممکن نہیں تھا کہ فقط علیؑ کو ان کا دوست و یادو کہ کرو کر دشمنان علیؑ یا ان لوگوں کے دلوں سے جو علیؑ سے کینہ رکھتے تھے اس کینہ کو ختم کرتے اور یہ بات کوئی بھی

حث میں کیونکر قانع ہو سکتے ہو؟

سُنِ عالم مُسکرتے ہوئے ہوئے: خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے ہوں جو علیٰ کو سب سے برتر نہیں ہیں۔ یقین جاؤ کہ اگر میرے باتحد میں ہوتا تو کسی کو علیٰ پر مقدم نہ کرتا کیونکہ علیٰ مدینۃ العلم و اسد اللہ الغالب ہیں۔ یعنی شر علم اور خدا کے شیر ہیں۔ لیکن میں کیا کروں خدا نے جس کو چالا مقدم کر دیا جس کو چالا مٹو خر کر دیا۔ مشیت الہی و خدا کی قضاۓ و قدر کے مسئلے میں کیا کہ سکتے ہیں؟ میں بھی مسکر لیا اور کہا: جناب قضاۓ و قدر بھی ایک علیحدہ موضوع ہے جس کا ہماری حث سے کوئی ربط نہیں ہے۔

سُنِ عالم: میں اپنے عقیدہ پر باقی ہوں جس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہاں اس ترتیب سے موضوع تبدیل ہو رہے تھے جائے اس کے کہ کوئی ایک موضوع کامل ہو یہ بات خود مستدل استدلالات کے سامنے ان کی فکلت کی دلیل تھی۔ (”لاکون مع الصادقین“ صفحہ ۵۸)

(۷۳)

ایک استاد اور شاگرد کے سوال و جواب

شاگرد: یونیورسٹی کے ایک استاد ڈاکٹر خالد تو فل اردن کی یونیورسٹی میں پڑھانے آتے تھے۔ میں بھی ان کی کلاس میں شرکت کرتا تھا۔ میں شیعہ ندہب کا تھا اور وہ استاد سنی ندہب کا تھا۔ بعض اوقات وہ اپنے تعصّب کے پیش نظر شیعوں کو برآ ہملا کرتا تھا۔ ایک دن ہماری اس استاد سے رسولؐ کے بارہ جانشیوں

سُنِ عالم: تو پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد لوگوں اور خلفاء نے علیٰ کی بیعت کیوں نہیں کی کیا انہوں نے گناہ کیا ہے اور فرمان رسولؐ کی خلافت کی بے کیا ایسا ہے؟ ڈاکٹر تجھانی: جب سُنِ علامہ اپنی کتابوں میں گواہی دیتے ہیں کہ اصحاب رسولؐ کی دستوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بعض اوصاف پیغمبرؐ کی زندگی ہی میں خلافت کرتے تھے لہذا تجب نہیں ہے کہ رحلت پیغمبرؐ کے بعد آخرین خضرتؐ کی خلافت کریں اور سُنِ و شیعہ تمام مسلمین کے خذیلہ مسلم ہے کہ جب پیغمبرؐ نے ”اسامِ بن نزید“ نامی جوان کو لشکر کا سردار بنا لیا تو لوگوں نے اعتراض کئے کہ ان کی عمر کم ہے جبکہ پیغمبرؐ نے اسامہ کو تھوڑی ہی مدت کے لئے سردار لشکر بنا لیا تھا تو رہبری کے لئے علیٰ کو کیونکر قبول کر سکتے تھے جبکہ علیٰ کی اس وقت دوسروں سے کم عمر تھی یعنی تقریباً ۲۳ سال کے تھے یہ لوگ کس طرح علیٰ کی رہبری کو مانتے اور تم نے خود اپنی اقرار کیا کہ بعض اصحاب حضرت علیؑ سے کہہ دعاوت رکھتے تھے پس معلوم ہوا کہ سب کے قلب صاف نہیں تھے۔

سُنِ عالم: اگر علیٰ جانتے تھے کہ پیغمبرؐ نے ان کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ قرار دیا تھا تو وہ بعد از رسولؐ کیوں خاموش رہے اس شجاعت و صلاحیت کے ذریعے جوان کو حاصل تھی اپنے حق کا دفاع کرتے۔

ڈاکٹر تجھانی: مولانا صاحب! یہ ایک جداگانہ حث ہے جس کو میں شروع نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم حدیث صرسخ کو تاویل کر سکتے ہو تو سکوت علیؑ کی

مجیح مسلم جلد ۳ صفحہ ۳۸۲۔ کتاب اللامہ دارالشیعہ۔ محدث احمد جلد ۵ صفحہ ۵۶ الی ۵۹۔
مدرسہ معینین جلد ۳ صفحہ ۵۰۔ مجیح علیؑ جلد ۵ صفحہ ۱۹۰۔

کے بارے میں حث ہوئی۔

استاد: میں نے کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ رسول خدا نے کہا ہو کہ میرے بعد ۱۲ خلیف و جانشین ہیں۔ لہذا یہ حدیث تمہاری گھری ہوئی ہے۔

شاگرد: اقاقۃ سنیوں کی اکثر مستند کتابوں میں مخفف تعبیرات سے یہ حدیث مذکور ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا: "الخلفاء بعدی اناعشر بعدد نقباء بنی اسرائیل و کلمہم من قریش۔" یعنی میرے بعد بارہ خلیفہ میں نقباء بنی اسرائیل کے حاب سے اور وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ لہذا تمہاری مورداً عتماد کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔

استاد: چلو اگر مان لیں کہ یہ حدیث قابل قبول ہے تو تم شیعوں کے نزدیک وہ بارہ افراد کون ہیں؟

شاگرد: بہت سی روایتوں کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہیں ان میں وہ بارہ افراد ہیں: (۱) علی بن ابی طالب (۲) حسن بن علی (۳) حسین بن علی (۴) علی بن حسین (۵) محمد بن علی (۶) جعفر بن محمد (۷) موسیٰ بن جعفر (۸) علی بن موسیٰ (۹) محمد بن علی (۱۰) علی بن محمد (۱۱) حسن بن علی (۱۲) محمد بن حسن المدینی۔

استاد: کیا یہ حضرت محمدؐ اپنی زندگی میں وہ بارہ

شاگرد: تھی بہاں! وہ زندہ ہیں اور ہمارے عقیدہ کے مطابق وہ پرداة غیب میں ہیں۔ جب اس دنیا میں ان کے ظہور کی راہیں ہموار ہو جائیں گی تو وہ ظہور فرمائیں گے اور اس کائنات پر حکومت و رہبری کریں گے۔

استاد: وہ کب پیدا ہوئے۔

شاگرد: وہ ۲۵۵ ہجری میں پیدا ہوئے اور اب ۱۴۱۳ ہجری میں ان کی عمر مبارک ۱۱۵۸ سال ہے۔

استاد: یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی انسان ایک ہزار سال سے زیادہ عمر پائے جب کہ طبیعی حفاظت سے ایک انسان کی عمر کی حد ۱۰۰ سال تک کی ہے؟

شاگرد: ہم مسلمان ہیں اور قدرت الہی کا یقین رکھتے ہی لہذا اس میں کیا حرج ہے کہ میثت الہی کے سبب ایک انسان ہزار سال عمر پائے؟

استاد: خدا کی قدرت اپنی جگہ مگر انکی چیز خدا کی سنت سے باہر ہے۔

شاگرد: آپ بھی قرآن کو نانتے ہیں اور ہم بھی۔ لہذا قرآن میں سورۃ عکبوت کی آیت ۱۳ میں ارشاد ہوتا ہے: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمَهُ فَلَمَّا ثَبَتَ فِيهِمُ الْفَسَادُ

الْأَخْمَسِينَ عَامًا،" یعنی ہم نے نوع کو ان کی قوم کی طرف پہنچا، انہوں نے اپنی

قوم کے درمیان ۵۰ سال کم ہزار سال زندگی کی۔ لہذا حضرت نوع نے اس آیت کے مطابق ۵۰ سال قبل از طوفان اپنی قوم کے درمیان زندگی پائی۔ لہذا اگر خدا

چاہے تو ووسرے انسان کو بھی اسی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار اس دنیا میں زندگہ رکھ سکتا ہے اور پیغمبر اکرمؐ نے بھی متعدد موارد میں امام مددیؐ کے آئے کی خبر دی

ہے۔ ایک امام و رہبر کے عنوان سے کہ آپ اس دنیا پر آکر حکومت کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دینے کی خبریں دیں جیسے اس مسئلے پر ہزار سے زیادہ

احادیث شیعہ و سنی محدثین سے نقل ہوئی ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نہ نہون

کے طور پر یہ حدیث کہ پیغمبرؐ نے فرمایا: "الْمَهْدُى مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَسْطَاطُ عِدْلٍ كَمَامِلَتْ ظُلْمًا وَ جُورًا،" یعنی حضرت مددیؐ علی اللہ میرے الجلت

ترندي جلدے صفحہ ۱۱۲۔ وکنز العمال جلدے صفحہ ۱۱۲) اور یہ بات مسلم ہے کہ عمر و ابوجرہ و عثمان (رضی اللہ عنہم) اور دوسرے افراد نزیر و عمر بن عبد العزیز و مهدی عباسی چیزیں افراد عترت و الہیت رسول خدا سے نہیں ہیں۔ لہذا کیوں رسول خدا کے بارہ خلیفہ کے مسئلے میں جھگڑیں جبکہ حدیث تلقین کے حوالے سے یہ بارہ عترت پنجبر سے ہیں اور ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق امام علیؑ سے لے کر امام مهدی عجل اللہ تک سب پر یہ حدیث منطبق ہوتی ہے۔

استاد: مجھے ذرا فرست دو تاکہ اس مسئلے میں مرید تحقیق کروں۔ فی الحال تو کوئی قانع کننده جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔

شاگرد: امید ہے کہ آپ اپنی تحقیقات سے جان لیں گے کہ رسول خدا کے وہ بارہ جانشین جو روز قیامت تک کے لئے ہیں کون ہیں۔ لیکن جب کافی مدت بعد ان استاد سے شاگرد کی ملاقات ہوئی تو وہ استاد اپنی تحقیقات کی بنا پر عقیدہ الہست کے تحت موضوع شخص کو نہیں پاس کا تھا۔

دوسرے مناظرے میں ایک طالب علم اپنے ایک مدرس سے معارف الہست کے سلطے میں سوال کرتا ہے کہ کیا آپ اس بات کو حلیم کرتے ہیں کہ پنجبر اکرمؐ کے بارہ جانشین ہیں اور وہ سب قریش سے ہیں؟

استاد: ہاں! ہماری معین کتابوں میں روایات موجود ہیں جو اس مطلب پر ولائت کرتی ہیں۔

شاگرد: وہ بارہ افراد کون ہیں؟

استاد: وہ (۱) ابوجرہ (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی (۵) معاویہ (۶) یزید بن معاویہ۔

سے ہیں وہ اس نہیں کو جو علم و جوہر سے پر ہے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے۔ (مند احمد جلد ۳ صفحہ ۷۲) جب بات اس حد تک پہنچی تو استاد نے شاگرد کے متعلق استدلال سنی معین کتابوں کے حوالے سے سنیں تو ان سے کچھ بن نہ پڑا خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ شاگرد نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا: ہم واپس اپنی اصل حد کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس بات کی تو تصدیق کی کہ پنجبر نے فرمایا کہ: میرے بعد میرے ۱۲ خلیفہ ہیں جو قریش سے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ بارہ نفر کون ہیں؟ میں نے سب کے نام بتائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں وہ بارہ افراد کون ہیں؟

استاد: ان بارہ افراد میں تو چار خلیفہ ہیں: (۱) ابوجرہ (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی۔ پھر (۵) حسن (۶) معاویہ (۷) ابن اثیر (۸) محمد بن عبد العزیز جو آخر افراد ہتھے ہیں اور ممکن ہے (۹) مددی عباسی (تمیرا خلیفہ عباسی) کو بھی ان میں شامل کریں اور ہو سکتا ہے ان میں (۱۰) طاہر عباسی کو بھی ان میں شامل کیا جائے بطور خلاصہ یہ کہ یہ بارہ افراد ہمارے نزدیک شخص نہیں ہیں۔ اس مسئلے میں ہمارے علماء کی باقی مختلف و پر اگنڈہ ہیں۔

شاگرد: پنجبر نے حدیث تلقین میں جو تمام مسلمین کے نزدیک معین ہے، فرماتے ہیں: "اللّٰهُ تَرَكَ لِيْكُمُ الظَّلَالِنَّ كَتَابُ اللّٰهِ وَعَتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي۔" یعنی میں تمہارے درمیان دو گراں قدر پیچریں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا دوسری میری عترت جو میرے الہیت ہیں کہ اگر ان دونوں سے حسک رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ (مند احمد جلد ۳ صفحہ ۷۲-۳۶۸۔ صحیح مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۳۸)

ہو گیا۔ حرم کے تمنبانوں کا سردار، نام شیخ عبدالقدوس صالح میرے پاس آیا اور بطور اعتراض کرنے لگا اپنی آواز کو ضریح مقدس پیغمبرؐ کے پاس بلند کرو۔
میں نے کہا: مگر کیا حرج ہے؟

سردار: خداوند عالم سورۃ مجرمات کی آیت ۲ میں فرماتا ہے: ”یا ایها الذین آمُوا لَا ترْفَعُوا أصواتَكُمْ فوْقَ صوتِ النَّبِيِّ وَلَا تجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بعضِكُمْ لَعْنَدَ اتْحَاطِ اعْمَالِكُمْ وَإِنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“۔ یعنی اے صاحبان ایمان! اپنی آوازوں کو پیغمبرؐ کی آواز سے بلند ن کرو ان کے سامنے بلند آواز میں باقیں نہ کرو (چیخ پکار نہ کرو) جس طرح تم میں سے بھض، بھض کے ساتھ کرتے ہیں تاکہ تمہارے اعمال بر باؤ ن ہوں جبکہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔

میں نے کہا: امام صادقؑ کے پاس بھی اسی مقام پر چار ہزار شاگرد تھے اور یقیناً وہ درس کے وقت شاگردوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے بلند آواز سے پڑھاتے ہوں گے کیا وہ حرام کام کرتے تھے؟ اور ابو بکر و عمر (رضی اللہ عنہم) بھی اسی مسجد میں بلند آواز سے خطبہ دیتے اور عکبر کرتے تھے کیا حرام کام کرتے تھے؟ اور اب آپؐ کے خطب صاحب بلند آواز میں خطبہ دیتے ہیں، بلند آواز میں کیا قرآن کے خلاف کام کرتے ہیں؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ: اے مؤمنین! اپنی آوازوں کو نبیؐ کی آواز سے بلند نہ کرو۔

سردار: تو پھر تمہاری نظر میں اس آیت سے کیا مراد ہے؟
میں نے کہا: خدمت پیغمبرؐ میں ہے فائدہ باقیں ہو انتظام واجب کے خلاف ہوں جیسا کہ اس آیت کی شان نزول میں روایت ہے کہ قبلہ بنی تمیم کا

شاگرد: یعنی کس طرح سے خلیفہ پیغمبرؐ ہو سکتا ہے جبکہ وہ علی الاعلان شراب پیتا تھا اور جس کی وجہ سے کربلا کا خونی سانحہ چیش آیا اور اس نے قتل امام حسین و انصار حسین کا حکم صادر کیا۔ پھر وہ طالب علم استاد سے کہنے لگا باقی چھ بھی تو شہر کریں۔ استاد مزید جواب دینے سے قاصر رہا تو مطلب کو عوض کرتے ہوئے بولا: تم شید لوگ اصحاب پیغمبرؐ کو ہزار باتیں کہتے ہو۔

شاگرد: ہم تمام اصحاب کو ہزار باتیں کہتے۔ تم لوگ کہتے ہو کہ سب اصحاب عادل تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ کثیر تعداد میں آیات ہیں جو زمانہ رسولؐ کے منافقین کے بارے میں ہیں۔ اگر ہوں آپؐ کے کیس کہ تمام اصحاب عادل تھے تو ان کثیر تعداد آیات کو قرآن سے نکالنا پڑے گا جو منافقین کے بارے میں آئی ہیں۔

استاد: تم گواہی دو کہ ابو بکر و عمر و عثمان (رضی اللہ عنہم) سے راضی ہو۔

شاگرد: میں گواہی دیتا ہوں کہ جس سے بھی رسول خدا و فاطمہ زہرا راضی تھے میں بھی ان سے راضی ہوں اور جس سے بھی رسول خدا و فاطمہ زہرا پر تھیں میں بھی اس سے ناراضی ہوں۔

(۷۴)

قبر پیغمبرؐ پر با آواز بلند زیارت پڑھنا
ایک شیعہ عالم نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تقریباً پچاس افراد کے ساتھ مدینہ مسجد نبویؐ گیا اور ضریح مقدس کے نزدیک زیارت پڑھنے میں مشغول

ریج الاول ۹۸۳ ہجری میں ۲۶ سال عمر پا کر اس دنیا کو خدا حافظ کمل۔ آپ بہت بڑے محقق و عالم و شاعر تھے۔ ۹۵۱ ہجری میں آپ نے شام کے شر طب کا سفر کیا اور دہان ایک بڑے سنی عالم دین سے مذہب حق کے سلسلے میں کئی مناظرے کئے۔ بالآخر ان سنی عالم دین نے مذہب حق تشیع اختیار کر لیا۔

قادیینی کی ولیچی کے لئے ہم ان مناظرات کی تجھیں صرف چار مناظروں میں میان کریں گے۔

مناظرہ اول : امام صادقؑ کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟

شیخ حسین بن عبد الصمد کہتے ہیں کہ شر طب میں جب وارد ہوا تو حنفی مذہب کے ایک سنی عالم دین جو علوم و فتوح میں کافی ماہر مانتے جاتے تھے، نے میری دعوت کی۔ گفتگو میں تقلید کی حدث آئی جو میرے اور ان کے درمیان مناظرے کی صورت اختیار کر گئی بلہ اورہ مناظرہ کچھ اس طرح سے تھا:

شیخ حسین : آپ الحست کے نزدیک قرآن سے یادِ رسول خدا کی طرف سے کوئی صریح حکم آیا ہے کہ آپ لوگ ابوحنیفہ کی تقلید کرو؟

حنفی عالم : نہیں اس حتم کا قرآن یا گفتار پیغمبرؐ سے کوئی حکم صریح نہیں آیا ہے۔

شیخ حسین : کیا سب مسلمانوں نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ ہم سب مل کر ابوحنیفہ کی تقلید کریں؟

حنفی عالم : نہیں اس قسم کا بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے۔

شیخ حسین : تو کس دلیل کے تحت آپ لوگوں پر ابوحنیفہ کی تقلید

ایک گروہ مسجد میں داخل ہوا اور پیغمبر اکرمؐ کو، جو اس وقت اپنے گھر میں تھے، اس انداز میں آواز دی : ”یا محمد اخراج الیسا۔“ یعنی اے محمد ہمارے پاس باہر آئیں۔ (تفیر قرطیبی جلد ۹ صفحہ ۶۱۲۱۔ صحیح خواری جلد ۶ صفحہ ۱۷۲)

جبکہ ہم یہی ت واضح و احترام سے زیارت پڑھ رہے ہیں بلہ اندکہ آیت سے پڑھ چلتا ہے کہ وہ لوگ بلہ آواز سے قصد تو ہیں روزات مآب رکھتے تھے جبھی ”حبط اعمال“ یعنی اعمال کی بریادی کا مسئلہ آیا کیونکہ اس طرح کی جرأت کافروں کا کروار اور بہت بڑا گناہ ہے نہ کہ ہم چیزے لوگوں کے لئے جو بڑے ادب و احترام سے زیارت پڑھیں اگرچہ ہماری آوازیں کچھ بلند ہیں اسی لئے روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ”نابت بن قیس“ جو کہ پیغمبرؐ سے بلند آواز میں یادیں کرتے تھے، فرمائے لگے کہ وائے ہو مجھ پر کہ میرے نیک اعمال جط ہو گئے چونکہ میں ہی پیغمبرؐ سے بلند آواز میں بات کرتا ہوں۔ بلہ اس آیت سے میں ہی مراد ہوں۔ جب ان کی یہ باتیں پیغمبرؐ نکل پہنچیں تو آپؐ نے فرمایا: ایسا نہیں ہے بھکہ ”نابت بن قیس“ اہل بہشت سے ہیں کیونکہ وہ وظیفہ انجام دیتے ہیں نہ کہ بلند آواز سے ان کا قصد تو ہیں ہوتا ہے۔ (مجموع البیان جلد ۹ صفحہ ۱۳۰ تفسیر فی ظلال و مراغی)

(۷۵)

شیخ بہائی کے والد سے سنی علماء کے مباحثے

علامہ شیخ حسین بن عبد الصمد عاملیؐ جو شیخ بہائی کے والد بزرگوار تھے وہ ۹۱۸ ہجری کے محروم کے اوائل میں جبل عامل میں پیدا ہوئے اور انہوں نے آنحضرت

واجب ہو گئی ہے؟

حقیقی عالم: ابو حنیفہ مجتهد ہیں اور میں مقلد ہوں اور مقلد پر واجب ہے کہ کسی ایک مجتهد کی تقلید کرے۔

شیخ حسین: کیا آپ کی نظر میں امام صادق مجتهد تھے؟

حقیقی عالم: جعفر بن محمد الصادق تو بلند ترین مقام و منزلت رکھتے تھے علم و تقویٰ و نسب و مقام میں سب سے بلند تھے ہمارے بعض علماء نے ان کے چار خاص شاگردوں کے نام لئے ہیں کہ جو مجتهد تھے ان میں سے ایک ابو حنیفہ ہیں۔

شیخ حسین: اب جبکہ آپ نے امام صادق کے فویق العادة تقویٰ کا اعتراف کیا ہے تو ہم شیعہ حضرات اسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ لہذا آپ لوگوں نے یہ کہاں سے سمجھا کہ ہم لوگ گمراہی میں اور آپ لوگ راہ بدایت پر ہیں؟ جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام صادق معصوم تھے جن سے کسی قسم کی خطلا کا کوئی امکان نہیں تھا ان کا حکم خدا کا حکم تھا۔ ہمارے پاس اپنی اس بات پر متن دلائل ہیں اور وہ ابو حنیفہ کی مانند قیاس و رائے و استحسان وغیرہ کے ذریعے فتویٰ نہیں دیتے تھے جبکہ ابو حنیفہ کے فتوؤں کے بارے میں اختلال خطابے جبکہ امام صادق کے سلسلے میں اس قسم کا کوئی اختلال نہیں ہے۔ بالفرض اگر ہم ان کی عصمت سے چشم پوشی بھی کر لیں اور آپ لوگوں کی طرح کہیں کہ امام صادق مجتهد تھے تو بھی ہمارے پاس ایسے دلائل ہیں کہ تھا اس مجتهد (یعنی امام صادق) کی تقلید کرنی چاہئے نہ کہ ابو حنیفہ کی۔

حقیقی عالم: آپ کے پاس اس مسئلے پر کیا دلائل ہیں؟

شیخ حسین: تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ امام صادق علم و تقویٰ و عدالت و مقام میں و رسول پر برتری رکھتے تھے اس طرح کہ میں نے کسی بھی دین کی کسی بھی تاریخ کی کتاب میں نہیں دیکھا کہ کسی نے امام صادق پر کسی نے کوئی اعتراض کیا ہو، شیعوں کے دشمنوں کے پاس تمام امکانات و قدرت و جمعیت زیادہ ہونے کے باوجود امام صادق کی شان میں کوئی نہ ازا بات نہ کہے یہ فویق خود ایک بڑا امتیاز ہے۔ لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم ایسے آقا و مولا کی تقلید جن کے بارے میں تمام علماء اسلام فویق علمی و تقویٰ کا اعتراض کرتے ہیں پچھوڑ دیں جبکہ رسول کی تقلید جو اعتراض و اشکالات پر مشتمل ہو اختیار کریں؟ جبکہ سلسلہ تقلید و عدم شک وغیرہ اثبات عدالت پر موقوف ہیں۔ چنانچہ یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے جو اپنے مورد میں تفصیل آئے گی۔ دوسری طرف آپ لوگوں کے امام غزالی جنوں نے کتاب الحجول لکھی ہی ابو حنیفہ پر اعتراض پر ہے۔ اسی طرح بعض دیگر شافعی علماء نے "كتاب النكت الشرعيه في الرد على أبي حنيفة" لکھی ہیں۔ لہذا بغیر کسی ترویج کے ایسے شخص کی تقلید کرنا جو علم و تقویٰ و عدالت میں سب کے نزدیک معتمد علیہ ہو واجب ہے۔ تمام محققین کے ابجاع کے پیش نظر راجح فتویٰ کے سامنے مرجوع فتوے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام صادق اہل البيت رسول خدا ہیں جو سورۃ الحزاب کی آیت ۲۳ کی تصریح کے تحت ہر طرح کی نجاست و انحراف سے پاک ہیں۔ چنانچہ علامہ الغوی ان قارس اپنی کتاب "معجم مقایيس اللغو" میں "مجمل اللغو" کی تصریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

لئے کسی کے پاس بھی نہیں گئے کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ مخصوصین میں سے کسی نے علماء تنسن کے کسی درس میں شرکت کی ہو بکہ سب نے اس بات کو لفظ کیا ہے کہ امام صادقؑ نے علم اپنے والد امام باقرؑ اور انہوں نے اپنے والد امام جعفرؑ اور انہوں نے اپنے والد امام حسنؑ سے تحصیل علم کیا ہے اور امام حسنؑ تو اجماع مسلمین کے تحت اہمیت پیغمبرؐ سے ہیں۔ لہذا کسی بھی امام کے فرمان از جیت اجتماع کے نہیں ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی چھوٹی یا بڑی نے ائمہ مخصوص میں سے کسی سے کوئی سوال کیا ہو اور آپ لوگ جواب دینے میں کتابوں کے مطالعہ کی طرف محتاج ہوئے ہوں۔ خود مخصوصین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا قول ان کے پدر بزرگوار کا قول ہے اور پدر بزرگوار کا قول قول رسول ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے نزدیک اطور متفقین ثابت ہے کیونکہ پیغمبرؐ کا بھی تو فرمان ہے کہ：“اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و كلنا محمد۔” یعنی ہمارا اول و آخر و اوسط و سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی جو اول کا قول ہے وہی اوسط کا آخر کا بالآخر سب کا وہی قول ہے۔ لہذا قول امام صادقؑ بھی وہی قول رسول ہے جو اس کائنات سے ظلم و جہالت و بربریت کو ختم کرنے آئے۔

تیسرا دلیل یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مورو قول مختلف و متعدد روایات سے نقل ہے کہ ”حدیث تلقین“ جو عبارات مختلف کے باوجود ایک ہی معنی کو بیان کرتی ہے جو پیغمبرؐ اکرمؐ نے فرمایا: ”انی تارک فیکم الفقلین ما ان تمسکم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عترتی اهل بیتی۔“ یعنی میں تمہارے درمیان دو میم و گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر ان سے تمک رکھا تو ہرگز گمراہ

امام، اہمیت پیغمبرؐ سے ہیں (جبکہ ان فارس مشہور و معروف علماء الحست سے ہیں) اور وہی مقام عصمت ہے جو شیعہ امام صادقؑ کی عصمت کے قائل ہیں۔ لیکن ابوحنیفہ کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ اہمیت پیغمبرؐ سے نہیں تھے۔ لہذا خود قرآن کی تصریح کے پیش نظر ضروری ہے کہ ایسے افراد کی تقلید کرنا تجسس کا ذریعہ ہو۔
خفی عالم: ہم نہیں مانتے کہ امام صادقؑ اہمیت رسولؐ سے ہیں بلکہ ہماری احادیث کے تحت آیت تطہیر کے پیش نظر پائیج افراد ہیں: محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔

شیخ حسین: چیز ہم فرش بھی کر لیں کہ امام ان پانچ میں سے نہیں ہیں لیکن تین دلیلوں کے تحت ان کا حکم بھی عصمت اور پیروی کے واجب ہوتے میں نہیں پانچوں کے حکم میں ہے۔

پہلی ولیل یہ کہ جو بھی عصمت پیغمبن کا معتقد ہے وہ عصمت امام صادقؑ کو بھی مانتا ہے اور جو بھی پیغمبن کی عصمت کو نہیں مانتا وہ امام صادقؑ کی عصمت کو بھی نہیں مانتا۔ اور پیغمبن کا معلوم ہونا تو آیت تطہیر کی تصریح کے ذریعے ثابت ہے۔ لہذا عصمت امام صادقؑ بھی ثابت ہے کیونکہ علماء اسلام کی اتفاق رائے کے تحت امام صادقؑ و پیغمبن کی عصمت میں کوئی فرق نہیں ہے اور تھا پیغمبن کی عصمت کا اعتقاد رکھنا بغیر عصمت امام صادقؑ کا اعتقاد رکھے اجماع مسلمین کے خلاف ہے۔

دوسری ولیل یہ ہے کہ تمام راویوں و سیرت لکھنے والوں سے یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ امام صادقؑ اور ان کے اجداد میں سے کوئی بھی تحصیل علم کے

طرح ان چاروں مذاہب نے بھی ایک دوسرے کے مذہب کو نقل نہیں کیا، اور یہ نقل نہ ہوتا بھی آپ لوگوں کے لئے کوئی فقصانہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان نے مذہب تشیع کو نقل نہیں کیا تو آپ کا یہ دعویٰ ہے جیسا ہے کہ کیونکہ خود شیعہ جو مسلمانوں میں عظیم لوگ ہیں انہوں نے اور بہت سے بہت اور باقی اسلامی فرقتوں نے بھی گفتار و آداب و عبادات میں جعفری مذہب (مکتب الہیت) کو نقل کیا ہے خود شیعوں نے مطالب مذہب تشیع کو نقل کرنے میں بڑا اہتمام کیا ہے، مناظرے کئے ہیں اور راویوں کے سلسلے میں ثقہ و عدم ثقہ پر بڑی توجہ دی ہے جس پر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علماء شیعہ جتنے بھی علماء الحسن سے کم ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی علماء چخار گانہ بالخصوص حضلی و ماکی سے کم نہیں ہیں بلکہ ان دو مذاہب کے علماء سے تو زیادہ ہیں اور ہمیشہ علماء شیعہ اپنے اماموں کی پیروی میں علم و تقویٰ وغیرہ میں عالی ترین منزلت و مرتبہ پر فائز ہیں۔ جس طرح ہمارے اماموں کے زمانہ میں کوئی بھی علم و عمل کے لحاظ سے ہمارے اماموں بلکہ ان کے شاگردوں سے علم و حث و تحقیق میں برتر نہیں تھا۔ شاگردان امام مختار ان حکم، جبل بن دراج و زرارہ عن اعین و محمد بن سید رضی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اماموں کے دور کے بعد کے علماء مسلم اور دوسرے کیش شاگرد جوانی کی مانند تھے حتیٰ کہ مخالفین بھی ان کے علم و عمل و تقویٰ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ مذہب اماموں کے دور کے بعد کے علماء بھی ہیں۔ مثلاً علامہ مجلسی، شیخ صدوق، شیخ کلبی، شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، سید رضی، لئن طاؤس، خواجہ نصیر الدین طوسی، میثم بحرانی، علامہ حلی اور ان کے بیٹے فخر المحققین اور انہی کی طرح وہ دیگر علماء و محققین ہیں کہ جنہوں نے اپنی

نہیں ہو گئے وہ دو چیزیں ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری عترت جو میرے الجیت ہیں۔ یہ حدیث واضح طور پر بتارہی ہے کہ قرآن و عترت پیغمبر سے تمکن نجات کا سبب ہے جبکہ تمام مسلمین میں صرف شیعہ ہی ان دونوں کو مانے والے ہیں کیونکہ غیر شیعہ عترت پیغمبر کو تمام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور دوسرا ول سے تمکن کرتے ہیں۔ حدیث تخلیق ہرگز یہ نہیں کہ رہی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن و ابو حنیفہ یا قرآن و شافعی وغیرہ کو چھوڑے جا رہا ہوں لہذا یہ کس طرح ممکن ہے کہ عترت پیغمبر سے بہت کرو دوسرا ول سے تمکن کر کے نجات مل سکے۔ لہذا یہی مطلب اس بات کا اقتضاء کرتا ہے کہ امام صادق جیسوں کی تقلید کی جائے اس لئے کہ ان جیسوں کی تقلید کرنا عترت پیغمبر سے تمکن کرنا ہے اور اس میں تو تکمیل ہی نہیں کہ امام صادق کی پیروی ابو حنیفہ کے مقابل میں برتری رکھتی ہے۔

مناظرہ دوم: مذاہب اربعہ کی نسبت مذہب تشیع کیوں مشور نہیں؟ پہلے مناظرے میں جب امام صادق کی تقلید کی برتری ثابت ہو گئی تو حنفی عالم کہنے لگے: صحیح ہے اس میں کوئی علیک نہیں کہ امام صادق نے علم اپنے اجداد سے سیکھا اور دوسروں پر علم و عمل و تقویٰ کے لحاظ سے برتری رکھتے ہیں اور اپنے مقلدین کی نجات کا باعث ہیں مگر پھر بھی مذہب اتنا مشور نہیں ہے جتنے یہ چار مذاہب (حنفی و ماکی و جبلی و شافعی) مشور ہیں۔

شیخ حسین: اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ مذہب شافعی و حنفی وغیرہ نے مذہب تشیع کو نقل نہیں کیا، تو صحیح ہے لیکن ان کا نقل نہ کرنا ہمارے لئے کوئی نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھی ان کے مذہب کو نقل نہیں کیا۔ اور اسی

کی قدرت و صلاحیت سے بھی ہرگز انکار نہیں کیا جاتا۔ جب میں آپ کے دلائل کی طرف توجہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مذہب تشیع بہت اچھا و حکم نہ ہب ہے لیکن جب آپ کے مذہب میں دیکھتا ہوں کہ بعض اصحاب پیغمبر کو نازرا کہا جاتا ہے جو صحیح نہیں اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ کا مذہب ہی صحیح نہیں ہے۔

شیخ حسین : ہمارے مذہب میں اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے کہ اصحاب پیغمبر کو نازرا کہا جائے بلکہ عوام الناس انہیں نازرا کہتے ہیں۔ ہمارے علماء میں سے کسی کا بھی فتویٰ نہیں کہ اصحاب پیغمبر کو نازرا کہا جائے۔ آپ تمام ہماری فقیہیں اخاکر دیکھ لیں کہیں بھی یہ مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس حقیقی عالم کے سامنے میں نے قسم کھاتے ہوئے بتایا کہ اگر کوئی مذہب الہیت یعنی مذہب تشیع میں ہزار سال بھی زندگی گزارے والا یہ الہیت کو قبول کرتا ہو ان کے دشمنوں سے بیڑا رہو اور ہرگز کسی بھی صالحہ رسول کو نازرا نہ کہتا ہو تو وہ ہرگز خطواوار نہیں ہے اور نہ اس کے ایمان میں کوئی کمی آنے والی ہے۔

حقیقی عالم نے جب میری یہ بات سنی تو اس کا چہرہ کشادہ ہو گیا۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا گویا کہ میری بات کی تصدیق کر رہا ہو۔ اسی اثناء میں میں نے اس سے کہا کہ جبکہ آپ کے نزدیک علم الہیت پیغمبر اور ان کا مقام اجتہاد و عدالت اور ان کی سب پرتری ثابت ہو گئی تو آپ کو چاہئے کہ ان کی پیروی کریں۔

حقیقی عالم : میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ان کا پیروکار ہوں لیکن اصحاب رسول کو ہرگز نازرا نہیں کہوں گا۔

شیخ حسین : آپ صالحہ میں سے کسی کو بھی نازرا نہ کیں لیکن جب آپ

تالیفات و حکموں کے ذریعے تمام شرق و مغرب کے عالم کو پہ کر دیا تھا۔ لہذا اس مذہب سے لوگوں کا انکار یا تو تعصب کے پیش نظر ہے یا نادانی کے سبب۔ لہذا آپ کو مجبور امانتا پڑے گا کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، بلکہ ہم لوگ جس کی تقیید کرتے ہیں وہ باقی سب پر برتری رکھتا ہے، لہذا جو انصاف سے کام لیتا ہے اس کے لئے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ مذہب تشیع کی صحت کا اعتراف کرے لیکن ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کے مذہب حقیقی کے صحیح ہونے کی تقدیم کریں کیونکہ ہم لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اس میں عصمت کو شرط مانتے ہیں لہذا ہم ہی نجات یافتہ گروہ ہیں۔ آپ لوگ اگرچہ ہمارے مذہب کی صحت کو اپنی زبانوں پر نہیں لاتے لیکن دلائل و تواندہ مسلم جو آپ لوگوں کے پاس ہیں وہ آپ لوگوں کو مذہب تشیع کی متابعت پر مجبور کرتے ہیں کیونکہ بقول آپ کے نجات کا سبب مجتبی کی تقیید کرنا ہے جو ہمارے مذہب میں ترجیحاناً قابل انکار ہے۔ جب بات اس مقام تک پہنچی تو وہ حقیقی عالم لا جواب ہو کر رہ گئے اور اپنے پہلے سوال سے منحرف ہو کر دوسری محض شروع کرنے لگے۔

منظراً سوم : اصحاب کو نازرا کہنا کیسا ہے؟

حقیقی عالم : میری نظر میں ایک موضوع باقی رہ گیا ہے وہ یہ کہ آپ کے نزدیک اصحاب پیغمبر اکرم کو نازرا کہنا کیسا ہے؟ وہ لوگ جو اپنی جان و مال کے ذریعے اور شمشیر کے ذریعے شرلوں اور علاقوں کو حکومت اسلامی کے تحت لے آئے۔ مثلاً عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) کے زمانہ میں جو فتاویٰ صادر ہوئے وہ کسی بھی خلقاء کے زمانے میں صادر نہیں ہوئے جن کا ہرگز انکار نہیں کیا جاتا۔ لہذا ان

لہدا وہ لوگ گناہگار نہیں ہیں جیسا کہ ہمارے علماء نے بھی اس بات کی تقریب کی ہے۔

شیخ حسین: آپ کا نظریہ عائش، طحہ و نبیر اور ان کے پیروکاروں کے بارے میں کیا ہے جو حضرت علیؓ کے ساتھ جنگ جمل کو وجود میں لانے اور دونوں طرف کے سولہ ہزار افراد کے قتل کے موجب ہے؟ اسی طرح آپ کا نظریہ معاویہ اور اسکے اصحاب جو جنگ صحن کو وجود میں لانے اور حضرت علیؓ سے جنگ لانے اور میجہ میں دونوں طرف سے سانچہ ہزار افراد کے قتل کا سبب ہے کیا ہے؟
حنفی عالم: یہ سب جنگیں بھی قتل عثمان کی طرح اجتہاد کے پیش نظر ہوئی ہیں۔

شیخ حسین: کیا حق اجتہاد مسلمانوں کے صرف ایک گروہ کو حاصل ہے دوسروں کو حق حاصل نہیں ہے؟

حنفی عالم: نہیں بلکہ تمام مسلمان اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

شیخ حسین: جب اجتہاد میں قتل اصحاب اور دوسرے مؤمنین کے قتل دفتر رسولؐ و قتل حضرت علیؓ جائز ہیں یعنی جس کے علم و زہد و تقویٰ رسول خدا کے بعد سب سے بلند و برتر ہوں اسلام اس کی شمشیر ہی سے چاہو اور رسولؐ نے ان کے بارے میں مختلف طریقوں سے مختلف مقامات پر ان کی فضیلت میں احادیث ارشاد فرمائی ہوں جن سے ہر گز انکار نہیں کیا جاسکتا اور یہاں تک کہ خدا نے جس کو تمام لوگوں کا رہبر و سرپرست بتایا ہو یہ فرمائ کر کہ: "اللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّنِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَعْمَالِ" وہ لوگ ہیں جو (اس پر) ایمان لائے ہیں۔ (سورۃ مائدہ آیت ۵۵) یعنی وہ علیؓ ہیں

اس کے معتقد ہیں کہ الہیت رسولؐ، خدا کی نظر میں عظمت رکھتے ہیں تو اس وقت آپ ان کے دشمنوں کو کیا کہیں گے؟

حنفی عالم: میں دشمنان الہیت رسولؐ سے بیزار ہوں۔

شیخ حسین: میرے بڑویک آپ کے نہ ہب تشیع کے قبول کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر وہ حنفی عالم کہنے لگے۔ میں خدا کی وحدانیت و پیغمبرؐ کی رسالت اور خدا کی فرشتوں کی گواہی دیتا ہوں اور ان سب کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتا ہوں۔ پھر مجھ سے فقہ الہیت پر کتاب طلب کی تو میں نے ان کو "مختصر النافع شرح شرائع علامہ محقق حلی" ان کو دی۔

مناظرہ چہارم: مقام صحابہ پر ایک بحث

شیخ حسین: عن عبد الصمد کہتے ہیں کہ کافی مدت بعد جب پھر اس حنفی عالم کو دیکھا جو شیعہ ہو چکے تھے تو وہ بڑے مغموم نظر آرہے تھے کیونکہ ان کے اندر یہ بات رسولؐ کر گئی تھی کہ اصحاب پیغمبرؐ کے بلند و عظیم رتبہ کے باوجود شیعہ ان کو برائیوں کہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ انصاف سے قضاوت کریں اور میری بات کو اپنی حد تک محدود رکھیں تو میں اصحاب کو رکھنے کی علت آپ کے سامنے میان کروں۔ انہوں نے مختلف حرم وغیرہ کھا کر عمد کیا کہ انصاف سے قضاوت کریں گے اور اس نکلنگوں کو دوسروں سے مخفی رکھیں گے تو پھر میں نے ان سے کہا آپ کا نظریہ اس صحابی کے بارے میں جس نے عثمان خلیفہ سوم کو قتل کیا تھا کیا ہے؟

حنفی عالم: اس نے اپنے اجتہاد کے پیش نظریہ کام (قتل عثمان) کیا تھا۔

شامل ہو جائیں۔ لہذا ہمارا اجتہاد رسول خدا کے منافق صحابوں کو برائی کرنے میں ہے نہ کہ ہم سب کو برائی کرنے ہیں۔

حنفی عالم: کیا اجتہاد بغیر دلیل کے صحیح ہے۔

شیخ حسین: ہمارے محمدین کے دلائل اس مسئلے میں روشن ہیں۔

حنفی عالم: ان میں سے ایک میرے لئے بیان کریں۔

شیخ حسین نے دلائل بیان کئے جن میں محلہ حضرت فاطمہ زہرا کو آزار رسائی والا مسئلہ کہ خداوند عالم سورۃ الزباب کی آیت ۷۵ میں ارشاد فرماتا ہے: "انَّ الَّذِينَ يُوذِّونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعْنُهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ۔" یعنی بے شک وہ لوگ جو خدا و رسول کو آزار دیتے ہیں خدا ان پر دنیا و آخرت میں لعنت بھیجا ہے۔ (المنظرات تایف شیخ حسین بن عبد الصمد۔ چاپ سوسمہ قائم آل محمد علیہم السلام)

(۷۶)

آیت رضوان و طعن اصحاب

مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ایک شافعی عالم سے ملاقات ہوئی جو کسی حد تک قرآن و حدیث سے واقف تھا۔ اس نے شیعوں پر اپنے اعتراضات کو اس طرح سے شروع کیا کہ شیعہ اصحاب پیغمبر پر لعن طعن کرتے ہیں اور یہ کام خلاف قرآن ہے۔ لہذا جو لوگ خدا کی خوشنودی کا باعث ہیں ان کے بارے میں ہرگز بد گوئی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ خداوند عالم سورۃ فتح کی آیت نمبر ۱۸ میں فرماتا ہے:

کیونکہ علماء اسلام کی اقاق رائے کے تحت "والذین آمنوا" سے مراد حضرت علیؓ ہیں۔ (احقاق الحق جلد ۲ ص ۳۹۹۔ کنز العمال جلد ۶ ص ۳۹۱۔ فتح القدير جلد ۲ ص ۵۰۔ ذخائر العقبی ص ۸۸) اور بھی بہت سی روایات ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا بعض اصحاب کو ناسزا کرنے میں اجتہاد (خود بقول آپ کے) جائز ہے کیوں اور اصحاب کو براؤ ناسزا کرنے میں اجتہاد جائز نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ (شیعہ) کسی کو بھی برائی نہیں کرتے مگر اس کو براؤ ناسزا کرنے ہیں جس نے علی الاعلان الہیت رسولؐ کے ساتھ دشمنی کی لیکن جو الہیت رسولؐ سے مخلاصہ محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ مثلاً سلمان و مقداد و عمار و ابوذر وغیرہ۔ لہذا ان سے دوستی کے پیش نظر ہم خدا سے تقرب چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اعتقد اصحاب پیغمبر کی شان میں اور ناسزا کرنا بھی ایک قسم کی بد دعا ہے۔ خدا کی مرضی اسے قبول کرے یاد کرے جس طرح صحابہ کا خون گراہا ہے اور یہ معاویہ تھا جس نے سب دشمن حضرت علیؓ اور ان کے خاندان پر قرار دیا۔ اس طرح کہ اسی (۸۰) سال حکومت بنی امية میں بھی راجح رہی مگر پھر بھی مقام و منزلت علیؓ میں ذرہ برا رہی کی نہیں آئی اسی طرح شیعوں کا دشمنان خاندان رسالت کو برائی کرنے اپنے اجتہاد کی ماء پر صحیح ہے یہ لوگ اگر فرض کا اپنے اجتہاد میں خطاب بھی کر جائیں پھر بھی گناہگار نہیں ہیں۔

مزید وضاحت: اصحاب پیغمبر بھی کئی طرح کے تھے۔ بعض تھے تھے، بعض منافق تھے اور خدا کا بعض اصحاب کی تعریف کرتا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ دوسرے صحابوں کا فرق و فجور و کفر ختم ہو جائے اور وہ بھی اس تعریف میں

یہ طے پایا کہ مسلمان آئندہ سال کمہ آئیں گے اس سال واپس چلے جائیں۔ (تلمیحیں
تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۸۱) اسی دوران سورۃ فتح کی آیت مذکور نازل ہوئی جس
میں خدا نے بیعت کرنے والوں کی ستائش اور اس کے بارے میں اپنی رضا مندی کا
اظہار کیا ہے۔ لہذا جو صحابی خدا کی رضا مندی کا سبب نہیں، ان کو ہرگز لعن و طعن
نہیں کرنا چاہئے۔

میں نے اس کو جواب دیا کہ اولاً یہ آیت صرف ان لوگوں پر مشتمل ہے
جو اس وقت بیعت میں حاضر تھے اور ثانیاً اس آیت میں متفقین شامل نہیں، یعنی
عبد اللہ الہی اور اوس بن خولی وغیرہ۔ جن کو آیت رضی اللہ عن المؤمنین خارج کرتی
ہے۔ ثالثاً آیت مذکور دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ جنمون نے بیعت کی خدا ان سے
راضی ہو گیا۔ آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے جس پر
اسی سورۃ کی آیت نمبر ۱۰ اگواہ ہے: ”فمن نکث فانما بنتک على نفسه ومن
اوغلی بما عاهد عليه اللہ فسيؤته اجرًا عظيماً۔“ یعنی جس نے محمد پیمان کو توڑا
گویا اس نے اپنا ہی نقصان کیا اور جو خدا سے کئے ہوئے عمل کو پورا کرے اسے
عقریب اجر عظیم دیا جائے گا۔ یہ آیت اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ان افراد میں
سے بعض تھے جن کے بارے میں بیعت شکنی کا اختلال تھا۔ چنانچہ بعض کے بارے
میں یہ مسئلہ ظاہر ہو گیا۔ لہذا آیت رضوان خدا کی رضایت اپدی کو بیان نہیں کرتی
بمحض ممکن ہے کہ یہ مسلمان دوستہ ہو جائیں، ایک دستہ اپنی بیعت کی وفا کرے اور
دوسرادستہ بیعت کی وفایہ کرے۔ لہذا ہم شیعوں کے نزدیک جنمون نے دلائل
ہے جا کے ذریعے وفاداری نہیں کی وہ اس آیت رضوان سے خارج ہیں۔ لہذا

”لَهُدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا بَيْهُمْ فَطَحَا فَرِيْبَاً۔“ یعنی خداوند عالم مؤمنین سے راضی
ہو گیا جنمون نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، خدا ان کے
قلوب میں جو کچھ ہے جاننے والا ہے، لہذا اُسیں قلبی سکون عطا کیا اور عقریب ان
کے نصیب میں فتح ہو گی۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرمؐ بھرت کے
چھٹے سال مادی الحجہ میں ایک بزرگ چار سو مسلمانوں کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے
مدینے سے مکہ کی طرف چلے۔ ابو جہر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر وغیرہ بھی ان کے
ساتھ تھے لیکن جب عشقان۔ جو مکہ سے قریب ایک کلومیٹر تھی۔ پہنچ تو معلوم
ہوا کہ مشرکین مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ چنانچہ پیغمبر
اکرمؐ نے مکہ سے ہم کلو میٹر دور حدیبیہ جہاں پائی اور درخت وغیرہ تھے تو قوف کیا
تاکہ صحیح خبر معلوم ہو جائے۔ اسی دوران پیغمبر اکرمؐ نے عثمان کو سرداران قریش
سے مذکورہ کرنے کے لئے مکہ بھیجا، کافی دن تک ان کی کوئی خبر نہ مل سکی، لہذا
مشور ہونے لگا کہ مشرکین نے عثمان کو قتل کر دیا ہے اسی دوران پیغمبر اکرمؐ نے
شدت عمل کا ارادہ کیا اور اسی درخت کے نیچے مسلمانوں کو حاضر کیا اور تجدید
بیعت لی جو بعد میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پیغمبر اکرمؐ نے
مسلمانوں سے عمد لیا کہ اپنے اپنے خون کے آخری قطرے تک مشرکین سے
جنگ میں مقاومت کریں گے لیکن تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ عثمان صحیح و
سامن لوٹ آئے، اس بیعت کی خبر سے مشرکین مر عوب ہو گئے اور سیل بن عمر کو
پیغمبرؐ کی خدمت میں صحیح کے لئے بھیجا جس کے نتیجے میں صحیح حدیبیہ قرار پائی اور

(۷۷)

عشرہ مبشرہ پر مباحثہ

اشارہ: احمد بن خبل نے اپنی متذکرہ کی جلد اول کے صفحہ ۱۹۳ پر عبد الرحمن بن عوف سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا: "ابوبکر فی الجنة و عمر فی الجنة و عثمان فی الجنة و علی فی الجنة و طلحہ فی الجنة والزبیر فی الجنة و عبد الرحمن بن عوف فی الجنة و سعد بن ابی وقاص فی الجنة و سعید بن زید فی الجنة و ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنة۔" یعنی یہ دس افراد بیشتری ہیں: (۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثمان (۴) علی (۵) طلحہ (۶) زبیر (۷) عبد الرحمن بن عوف (۸) سعد بن ابی وقاص (۹) سعید بن زید (۱۰) ابو عبیدہ ابن جراح۔ (صحیح ترمذی جلد ۱۳ ص ۱۸۲۔ سنن ابی داؤد جلد ۲ ص ۲۹۳) المحدث اس حدیث جعلی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس حدیث کو حدیث عشرہ مبشرہ کہتے ہیں (یعنی جن کو بیشتر کی بشارت دی گئی ہے) یہ حدیث ان کے نزویک اتنی مشہور ہے کہ مقدس مقامات مثلاً مسجد النبیؐ تک میں لکھ کر رکائی ہوئی ہے۔ لہذا شیعہ عالم مدینہ میں کسی کام سے محظیم و امر بالمعروف کے وفڑے کے توان کے سرپرست سے کسی موضوع پر گفتگو ہوئی اور عشرہ مبشرہ کے درمیان میں گفتگو آئی تو میں نے ان سے کہا کہ اجازت ہے کہ آپ سے کچھ سوال کروں؟

سرپرست: پوچھیں۔

شیعہ عالم: یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک اہل بہشت دوسرے اہل بہشت سے جنگ کرے کیونکہ طلحہ و زبیر جو ہمول آپ کے اہل بہشت میں سے

ہمارے نزویک قابل الحنف ہیں اور آیت مذکور بھی ہمیں اس سے خیس روک سکتی۔

قبور کے پاس بیٹھنے کے سلسلے میں مباحثہ

مدینہ میں وزارت امر بالمعروف کے شعبے کا سرپرست ایک شیعہ عالم سے اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ قبروں کے پاس کیوں بیٹھتے ہو جو کہ فعل حرام ہے۔

شیعہ عالم: اگر قبور کے پاس بیٹھنا حرام ہے تو کوئہ مسجد الحرام میں بیٹھنا بھی حرام ہے کیونکہ حجر المیل کے پاس بعض پیغمبر حضرات والصلیل و بالحرام یہ سب دفن ہیں جبکہ کسی نے اس قسم کا فتویٰ خیس دیا اور متعدد احادیث ہیں جو کہتی ہیں کہ قبور کے کنارے بیٹھنے میں کوئی اشکال نہیں تخلص کرنا ہو میں سے آپ کی کتاب صحیح خاری جو آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن کی مانند معتبر ہے اس میں امام علی سے روایت ہے کہ ہم قبرستان بقعہ کے غرف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر اکرمؐ ہمارے پاس تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی ان کے اطراف میں بیٹھ گئے۔ پھر آپؐ نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ایک گھر ہوتا ہے یا جنت میں یا دوزخ میں۔ (صحیح خاری جلد ۲ ص ۱۳۰۔ مطابق الشعب سن ۱۳۷۸)

اس روایت کی بادا پر پیغمبر اکرمؐ قبور کے کنارے قبرستان بقعہ میں بیٹھے اور جو بھی وہاں بیٹھے تھے اُنہیں منع نہیں کیا۔ (منظرات فی الحرمین الشریفین)

(جگ جمل میں) ان میں ایک طرف حق ہے اور وہ نام علیٰ ہیں۔ لہذا حدیث عشرہ مبشرہ جھوٹی ہے کیونکہ حق کے طرفدار باطل کو اہل بحث نہیں کہتے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود عبدالرحمن بن عوف جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہے اور خود بھی ان دس افراد میں سے ہے اور یہی عبدالرحمن ہے جس نے حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کی وفات کے بعد حضرت علیٰ پر تکوار انجامی تھی کہ ”یہت کرو ورن قتل کئے جاؤ گے“ اور اسی عبدالرحمن نے حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کی مخالفت کی۔ عثمان اسے مخالف کرتے تھے۔ لہذا کیا ان سب باقتوں کے پیش نظر یہ افراد (سوائے علیٰ کے) ممکن ہے کہ ان کو اہل بحث کا جائے؟ ایوب و عمر (رضی اللہ عنہم) جو ہوں آپ کے بحثت کی بشارت لے پچے ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا کی وفات کا سبب نہ ہیں۔ حضرت فاطمہ آخری عمر تک ان سے نہیں بولیں اور بعد میں ابی و قاص سے جب کسی نے پوچھا کہ کس نے عثمان کو قتل کیا تو وہ کہنے لگا عائشہ کی شمشیر سے جسے طلحہ نے تیز کیا عثمان قتل کئے گئے۔ کیا یہ سب افراد جو ایک دوسرے سے اس طرح سے پیش آتے تھے سب بحثتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یہ حدیث ”عشرہ مبشرہ“ سند کے لحاظ سے بھی بھیم ہے کیونکہ اس کی سند بھی عبدالرحمن بن عوف یا سعید بن زید میں سے کسی ایک تک ملتی ہوتی ہے۔ لہذا اعتبر ہونے سے ساقط ہے اور سعید بن زید روایت عشرہ مبشرہ خلافت معاویہ کے دور میں کوئی سے نقل کرتے ہیں اور معاویہ کے دور سے پسلے نقل نہیں کی ہے اور معاویہ کے دور میں تو ویسے ہی جعلی حدیثوں کا بازار گرم تھا۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ”عشرہ مبشرہ“ بھی معاویہ کے دور کی جعل کردہ حدیث ہے۔

ہیں۔ عائشہ کی سربراہی میں حضرت علیٰ سے جو اہل بحث سے ہیں، جگ جمل کی۔ جس کی وجہ سے کسی لوگ مارے گئے جب کہ قرآن فرماتا ہے: ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّعَمَّدًا فَإِنَّهُ أَنَّهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔“ (سورۃ نساء آیت ۹۳) یعنی جو بھی کسی مؤمن کو عمداً قتل کرے وہ دوزنی ہے جو بھی شہ اس میں رہے گا۔ لہذا اس آیت کے پیش نظر ان دو قوں طرف کی قتل و غارت کا ذمہ دار یا حضرت علیٰ ہیں یا طلحہ زیر؟ لہذا بطور قطع ”حدیث عشرہ مبشرہ“ محض جھوٹ ہے۔

سرپرست: ان دونوں گروہوں والے سب مجتہد تھے۔ سب نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا۔ لہذا اس صورت میں یہ لوگ مخدور ہوں گے۔

شیعہ عالم: اجتہاد نص صریح کے مقابل میں جائز نہیں ہے کیا تمام مسلمین نے چیخیر اکرم سے یہ نقل نہیں کیا ہے کہ آپ نے حضرت علیٰ کے بارے میں فرمایا: ”یا علیٰ حربک حربی مسلمک سلمی۔“ یعنی اے علیٰ تمہاری جگ میری جگ ہے تمہاری سلح میری سلح ہے۔ (مناقب ابن مقازی ص ۵۰۔ مناقب خوارزمی ص ۲۷ و ۲۳) اور آپ نے فرمایا: ”من اطاع علیاً فقد اطاعني و من عصى علیاً فقد عصانى۔“ یعنی جس نے علیٰ کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی جس نے اس کی مخالفت کی۔ (کنز العمال جلد ۶ ص ۱۵۔ الامامة والسيئة ص ۳۷۔ مجمع الزوائد تیشی جلد ۷ ص ۳۳۵) اور مزید آپ نے فرمایا: ”عَلَى مَعِ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلَى بَدْوِ الْحَقِّ مَعَهُ حِشْمَا دَارٌ۔“ یعنی علیٰ حق کے ساتھ ہے اور حق علیٰ کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں علیٰ جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ لہذا ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ جن کے نام لئے گے ہیں

(۷۸)

قبور پر پیسے ڈالنے کے مسئلہ پر مکالمہ

پلے زمانہ میں جب جنت البقع میں مقبرے نہ ہوئے تھے تو ان کے اطراف میں سائنس بارڈ لگے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا: "لا يجوز رمي النقود على القبور". یعنی قبور پر پیسے ڈالنا جائز نہیں ہے۔ ایک دن "امر بالمعروف" تنظیم کا سردار قبرستان آیا اور اس نے جب قبور پر پیسے پڑے دیکھے تو زواروں سے کہنے لگا یہ قبور پر پیسے ڈالنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ایک شیعہ عالم جو وہاں کھڑے تھے کہنے لگے کس دلیل کی بجائے پر حرام ہے؟ کیا قرآن و سنت نے اس سے منع کیا ہے؟ جبکہ رسول خدا کا فرمان ہے: "هُر چیز جائز ہے مگر وہ چیز جس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا قبور پر پیسے ڈالنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔"

سردار: قرآن کا ارشاد ہے: "انما الصدقات للفقراء". (سورۃ توبہ آیت ۶۰) یعنی صدقات فقراء کے لئے ہیں۔

شیعہ عالم: یہ پیسہ بھی فقراء ہی لیتے ہیں جو یہاں نگران ہیں۔

سردار: یہاں کے نگران فقیر نہیں ہیں۔

شیعہ عالم: ان میں فقیر ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ مدد و مشیش میں ضروری نہیں ہے کہ دوسری طرف فقیر ہی ہو کیونکہ جب کوئی فی کنبل اللہ اپنے مال کو خرچ کرنا چاہے تو وہ ثروت مند کو بھی بھس سکتا ہے۔ جس طرح شادی ہیاہ میں دلمن و دملادر پر پیسے شارکے جاتے ہیں۔

لہذا جو لوگ فقیر نہیں بھی ہوتے وہ لوگ بھی وہ پیسے لے لیتے ہیں جس

میں کوئی خرج بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں جس کی آپ نے حلاوت کی صدقات کے آنکھ مصارف ذکر ہوئے ہیں جن میں سے ایک "فی کنبل اللہ" کا مورد ہے اور جب مسلمین اولیاء خدا کی قبور پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: "میری جان و مال آپ پر فدا ہو" یہ خود ایک قسم کی محبت والفت کی دلیل ہے اب اگر کوئی اپنے محبوب کی خاطر اپنا تمام مال یا بعض مال کسی کو بھس دے تو ان میں شرعاً و عرف ایسا حرث ہے اور جب کہ خداوند عالم اپنی طرف سے حلال و حرام کرنے کو بغیر دلیل کے منع کرتا ہے: "ولَا تقولو لِمَا تَصْنَعُ الْكَذَّابُ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لَتَفَرَّوَا عَلَى اللَّهِ الْكَذَّابِ". (سورۃ نحل آیت ۱۱۶) یعنی اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، جس کی وجہ سے گویا خدا کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہو۔

کیا خداوند عالم نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اپنی طرف سے قضاوت کرو، یعنی جو چیز بھی تمہارے مزاج و عادت کے موافق نہ ہو اسے حرام و شرک قرار دیدو اور بدعت سے مقابلہ کے نام پر ہر حلال کو حرام قرار دیدو اس چیز سے غافل رہتے ہوئے کہ حلال کو حرام کرنا خود بدعت ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ صحیح راست سے مخفف ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ قرآن سورۃ نحل کی اسی آیت سابقہ کے ذیل میں فرماتا ہے: "اَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَّابُ لَا يَفْلُحُونَ". یعنی بے شک وہ لوگ جو خدا پر بھوٹ و افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح پانے والے نہیں ہیں۔

مظفر کی اس طرح کی عبارت دعوت شرک ہے تو ان سے پہلے قرآن اس کو انجام نہیں دیتا کیونکہ سورۃ نباء کی آیت ۵ میں ہم پڑھتے ہیں کہ : "اطیعو اللہ واطیعو الرسول واولی الامر منکم۔" یعنی خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپتوں میں سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں جملہ "اولی الامر" اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے ساتھ لایا گیا ہے اور بلا شک و تردید علی ہی مصدق اولی الامر ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ یہاں یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرم نے جائے توحید کی دعوت کے (نحو بانہ) شرک کی دعوت ذی؟ بلکہ ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی خدا کی توحید اور اپنی رسالت کی گواہی دی وہاں وہاں اپنے بعد علی کی منزلت اور امامت کی بھی گواہی دیتے اور بتلاتے گئے۔ جس کا رسالت کے ساتھ شریک ہونے اور شرک ہونے سے کوئی ربط نہیں ہے۔

وضاحت : جب سورۃ شعبان کی آیت ۲۱۳ "واندر عشیرتک الاقربین۔" یعنی اپنے رشتہ داروں کو ڈراو۔ نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے اپنے رشتہ داروں کی ایک مینگ بائی اور اس میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا: "فایکم یوازنی علی هذا الامر على ان اخني و وصي و خليفتي فيکم۔" یعنی تم میں سے کون ہے جو میرے اس کام میں میری مدد کرے گا تاکہ وہ میرا بھائی میرا وصی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ قرار پائے۔ اس وقت سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھا۔ پھر پیغمبر اکرم نے مزید و مرتبہ اپنے الفاظ کو دہرایا جب سوائے علی کے کوئی نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا: "ان هذا اخني و وصي و خليفتي فيکم فاسمعوله واطیعوہ۔"

(۷۹)

ہر طرف سے لفظ "شرک" کا شور سنائی دینا سعودی عرب میں ایک چیز جو سب سے سستی بلحہ مفت ملتی ہے وہ لفظ شرک ہے جو ہر صرف سنائی دیتا ہے۔ وہاں پر جو تنظیم امر بالمعروف ہے جن کا کام ہی یہ ہے کہ مسلمانوں پر ان کے ہر عمل خاص و شرعی پر شرک کی تهمت لگا کر ائمہ اسلام سے خارج قرار دیتے رہیں۔ یعنی فقط وہ لفظ ہی سے سروکار نہیں رکھتے بلکہ شیعوں کی ان کتابوں کو جنہیں محققان اسلام نے لکھا ہے، اپنی تہمت کا شکار ملتے ہیں۔ ایک کتاب نمونہ کے طور پر جو شیعہ محقق استاد شیخ محمد حسین مظفر نے اس عبارت کے ساتھ لکھی ہے کہ: "فکانت الدعوه للتشیع لا بد للحسن عليه السلام من صاحب الرسالۃ تمشی منه جبا لحسب مع الدعوه للشهداء". یعنی پیروی بولا حسن علی علیہ السلام کی دعوت دینا ہی دراصل دعوت توحید و دعوت رسالت پیغمبر کا پیش خیمہ ہے۔ اس پر ایک وہابی اپنی کتاب "الشیعہ والتشیع" میں جو سعودی عرب میں چھپی ہے اپنی کم عقلی و کم نظری کا اعتماد کرتے ہوئے مذکورہ عبارت کی اس طرح تاویل کرتا ہے: "ان النبی حسب دعوی المظفری کان يجعل علیا شریکا له فی نبوة ورسالۃ۔" یعنی يقول مظفر پیغمبر اکرم نے علی کو اپنی نبوت و رسالت کا شریک بنالیا ہے۔ لہذا اس لکھنے والے وہابی سے ہمارا مناظرہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرتا اور اپنے آپ کو وہابیوں کے ہاتھوں فروخت نہ کرتا اور عقائد شیعہ سے آگاہ ہوتا تو اس طرح کا انسی مذاق والا اعتراض نہ کرتا اور اس طرح کی تہمت شیعہ محقق پر نہ لگاتا۔ اگر شیخ

یعنی یہ ہے میرا بھائی میرا وصی میرا خلیفہ تمہارے درمیان، اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ (تاریخ طبری جلد ۲ ص ۹۳)۔ تاریخ ان ائمہ جلد ۲ تاریخ ابوالقداء جلد اول۔ احقاق الحق جلد ۳ ص ۶۲ ب بعد) لہذا شیعہ پیغمبر اکرمؐ کے ہماری حکم کے تحت کہتے ہیں کہ جس طرح اس وقت پیغمبر اکرمؐ نے دعوت توحید و دعوت رسالت دی تھی اسی طرح دعوت خلافت علیؑ بھی دی تھی کیا اب بھی یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کو اپنی نبوت و رسالت کا شریک قرار دیا ہے کیا رسولؐ کے فرمان کے مطابق علیؑ کو ان کا خلیفہ و جاثین مانا رسول کی نبوت و رسالت میں شریک کرنا ہے؟

(۸۰)

حج کے مسئلے پر ایک مکالمہ

ایک مم مسئلہ جو انقلاب اسلامی ایران کے بعد وجود میں آیا وہ مسئلہ حج تھا جس پر امام خمینیؐ نے اپنی تقاریر و اعلامیوں میں کہا کہ حج دو طرح کی ہے ایک حج اہمیتی اور دوسری حج ابوحبلی۔ یعنی حج فقط ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ ایک کتب، ایک مدرسہ، ایک یونیورسٹی ہے۔ لہذا اس بات پر امام خمینیؐ کے مقلدین کے نزدیک حج میں برآت مشرکین بھی ضروری ہو گئی جس کا شرطہ بعد میں لوگوں نے محسوس کیا اور کر رہے ہیں۔ (حاشیہ مترجم) جس کا نتیجہ آپ لوگوں نے خونین مکہ کے واقعہ میں ملاحظہ کیا کہ جس نے آل سعود پر سے اسلامی تقبہ کو اتنا کر ان کی یہودیت و نصرانیت سے دوستی بخدا اسلام دشمنی واضح کر دی جس کے تحت وہ

بنویں عالم: یہ سب بنویں اور بدعتیں کیا ہیں جن کو مناک حج میں شامل کیا گیا ہے حج کو ہر حرم کی سیاست و جدال سے دور عبادت کے طور پر انجام دینا چاہئے۔ حج ایک عبادت اور خود سازی اور تصفیہ روح ہے۔ لہذا اس کو سیاست و زندہ باد و مردہ باد کے نعروں سے مخلوط نہیں کرنا چاہئے۔ یہ حج اہمیتی و حج ابوحبلی کیا سیستے ہیں جو آج تک نہیں ہیں؟

صالح عالم: میری نظر میں جس طرح ایک اسلام محمدیؐ ہے جس کے لئے حسکنا نے اپنا گھر لانا دیا اور ایک اسلام بیزیدی ہے جو ہر حرام محمدیؐ کو حلال کئے چلا جائیا تھا۔ اسی طرح حج کی بھی دو فسیں ہیں: ایک حج اہمیتی و محمدیؐ اور دوسری حج ابوحبلی و بیزیدی۔

ہناولی عالم: حج مانند نماز و روزہ ایک قسم کی عادت ہے۔ لہذا سیاست اور غیر خداوائے مسائل سے دور رکھنا چاہئے۔

صالح عالم: سیاست دراصل صحیح معنی کے تحت میں دین ہے اور دین سے جدا نہیں ہے۔ بعض عبادات اپنی پاکیزہ ترین و خالص ترین عبادات کے ساتھ ساتھ اہداف سیاسی کی پیشافت کے لئے بھی بہت مفید ہوتی ہیں کیونکہ روح عبادات خدا کی طرف متوجہ رہنا ہے اور روح سیاست غلق خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ یہ دو مسائل حج آپس میں اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ جن کے جدا کرنے سے مقصد حج فوت ہو جاتا ہے۔ واضح عبارت کے ساتھ کہ حج مانند سر انسان ہے جس پر کھال بھی ہے اور مغفر بھی۔ لہذا حج کو تھان ظاہری عبادات فرش کرتے ہیں گواہوں نے کھال لے لی ہے اور مغفر کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ”ام القری“ یعنی قریوں کی ماں۔ (چیسا کہ سورۃ انعام کی آیت ۹۲ اور شوری کی آیت ۷ میں ارشاد ہے: ”لَتَنذِرُ امَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا.“) تو جس طرح ماں چچ کو نذادیتی ہے اس کی پروارش کرتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے مکہ بھی اسی طرح لوگوں کو فکری و سیاسی و معنوی نذادیتا ہے اور اسلام کی پیشافت کی تربیت دیتا ہے۔

ہناولی عالم: ہم مسلمان ہیں قرآن و حدیث سے آگاہ ہیں کیا خدا سورۃ بقرہ کی آیت ۱۹ میں نہیں فرماتا کہ: ”وَلَا جَدَالُ فِي الْحَجَّ“ یعنی حج میں جدال نہیں ہے۔ لہذا حج میں مظاہرے و زندہ و مردہ باد کے نعرے خود ایک قسم کا جدال ہے۔

صالح عالم: آیت مذکور میں جس جدال سے منع کیا گیا ہے وہ لوگوں

کے درمیان ”یا! بِاللَّهِ“ ”نَعَمْ! بِاللَّهِ“ وغیرہ کی فتنیں کھانا و لڑائی کرنا ہے اور ہمارے احمد سے بھی جو رواتبیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے کہ جدال سے مراد لوگوں کا جھوٹی فتنیں کھانا یا کسی گناہ پر قسم کھانا وغیرہ ہے۔ جیسا کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ: ”وَهُوَ بَحْثٌ مُجَادَلَةٌ ہے جو قسم پر مشتمل ہو لیکن ان میں غرض احترام مؤمن ہو تو یہ بھی وہ جدال نہیں ہے جس سے آیت میں منع کیا گیا ہے بلکہ آیت میں اس جدال سے منع کیا گیا ہے جس میں کسی بر اور مؤمن کی توجیہ ہو رہی ہو۔ (مجموع البیان جلد ۲ ص ۲۹۳) اور اگر جدال دین کے اثبات یا وقایع دین کے لئے ہو تو وہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ عظیم عبادت ہے۔ امام فخر رازی اپنی تفسیر بکیر میں سورۃ بقرہ کی آیت مذکورہ نمبر ۱۹ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ تمام مخلکین اس بات پر متفق ہیں کہ امر دینی میں جدال ایک عظیم اطاعت ہے اور اس مطلب کے اثبات کے لئے انہوں نے ان آیات کے ذریعے استدلال کیا ہے مجملہ ان آیات میں سے سورۃ نحل کی آیت ۱۲۵ ہے: ”إِذْ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلَهُمْ بِالْأَنْتِي هِيَ أَحْسَنُ.“ یعنی لوگوں کو حکمت و استدلال اور وعظ و نصیحت سے اپنے پروردگاری کی طرف دعوت دو اور ان کے ساتھ نیکی سے محاولہ کرو اور سورۃ ہود کی آیت ۳۲ میں خداوند عالم کفار کی گنتگو اپنے نبی نوحؑ کو یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے: ”يَا نُوحُ قَدْ جَادَلَنَا فَاكْتَرْتَ جَدَالًا.“ یعنی وہ لوگ کہنے لگے اے نوچؑ تم ہم سے بہت بھگزے اور بھگڑ پچے ہو۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نوچؑ نے اپنی قوم کے ساتھ مجاولہ کیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوچؑ کا جدال فقط لوگوں کی خدائے واحد کی طرف دعوت دینے

نہیں کرنا چاہئے اور مقدس مقام پر مقدس عمل کو سیاست و زندگہ و مردہ باد سے تعبیر نہیں کرنا چاہئے۔ اس مقدس مقام کو مقدس عمل حجتی کے لئے رہنے دیں۔ سیاست کو کہیں اور لے جائیں۔

صالح عالم: اسلام میں عبادات عبادت کے علاوہ دوسرے پہلو بھی رکھتی ہیں۔ حجت اپنی جگہ عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی اور معاشرتی پہلو بھی رکھتا ہے اور کامل حجت ہے جو تمام جواب سے بہرہ مند ہو اور جب بھی حج کو اس نئے سیاسی پہلو سے جدا کریں گے تو قطعاً وہ حج کامل نہیں بلکہ ناقص ہو جائے گا۔ اب یہاں ان مطالب کو روشن اور واضح طور پر سمجھنا چاہئے ہیں تو امام شیعیٰ کے ان دلیل و عین الفاظ کی طرف فرا توجہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کا ایک سب سے بڑا فلسفہ سیاسی ہے جس کو ختم کرنے کے لئے دشمنان اسلام کو شہاب ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کے مصالح کی غفر کئے بغیر حج کو فقط ایک خلک عبادت کے طور پر جانا گیا۔ جب کہ حج کا سیاسی پہلو بھی اس کے عبادتی پہلو سے کم نہیں ہے اور اس کا سیاسی پہلو خود سیاست کے علاوہ عبادت بھی ہے۔ (صحیفہ نور جلد ۱۸ ص ۲۶) اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ: ”لیک اللہم لیک لاشریک لک لیک“، کہنا کویا تمام طاغوت جمانت کا انکار کرتے ہوئے حریم خدا میں اطمینان عشق و محبت کرنا ہے اور دل و جان کو غیر خدا سے پاک کرتے ہوئے یعنی ان سے اعلان برأت و دوری کرتے ہوئے خدا سے رابطہ کو مضبوط ہانا ہے۔ (صحیفہ نور جلد ۲۰ ص ۱۸) لہذا حج، عبادت اور سیاست کے مجموعے کا ہام ہے کیونکہ سیاست اسلامی خود عین عبادت ہے۔ لہذا ہم کیوں کر حج کو

اور وہیں کے پہنچانے میں تھا۔ لہذا وہ جدال جس سے حج میں منع کیا گیا ہے وہ جدال ہے جو کسی امر باطل پر ہوئے وہ جدال جو اثبات حق پر ہو۔

بناؤنی عالم: قرآن کی بہت سی آیات میں جدال کو راہنمہ کیا گیا ہے اور اسے غیر مؤمنین کا فعل تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ غافر کی آیت ۳ میں پڑھتے ہیں: ”ما یجاذل فی آیات اللہ الا الدین کفرو“۔ یعنی تجاوہ لوگ ہماری آیات میں جدال کرتے ہیں جو کافر ہو گئے ہیں اور سورۃ حج کی آیت ۲۸ میں پڑھتے ہیں: ”وَإِن جَادُوكُمْ فَقْلُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ“۔ یعنی اگر وہ لوگ آپ سے جدال کریں تو ان سے کہیں کہ خدا آپ کے اعمال کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اور سورۃ انعام کی آیت ۱۲۱ میں پڑھتے ہیں: ”وَإِن الشَّيَاطِينَ لَيَوْحُونُ إِلَيْهِمْ لِيَحَادِلُوكُمْ“۔ یعنی شیاطین اپنے دوستوں کو محیا نہ طور پر القاء کرتے ہیں کہ وہ لوگ تم سے جدال کریں۔

صالح عالم: اس طرح کے مختلف موارد میں لفظ جدال کا استعمال بتاریا ہے کہ جدال کے دو معنی ہیں جس کے مجموعاً دو قسم کے معنی ہوتے ہیں: (۱) پسندیدہ۔ (۲) ناپسند۔ لہذا جہاں کہیں بھی حدث و گفتگو حق کو واضح و روشن کرنے اور صحیح راستہ بنانے کے لئے ہو وہ پسندیدہ عمل ہے بلکہ بعض موارد میں اس قسم کا جدال واجب ہو جاتا ہے جسے امر بالعرف و نهى از مکر کرتے ہیں اور اگر یہی جدال و حدث و گفتگو اثبات باطل کے لئے ہو تو قطعاً اس قسم کا جدال نہ موم و ناپسند ہے۔ لہذا نتیجتاً ہر قسم کے جدال کو ہم حج میں ناپسندیدہ قرار نہیں دے سکتے۔

بناؤنی عالم: میری روح حدث یہ ہے کہ عبادت کو سیاست سے مخلوط

تمارے قوی بازو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائیں۔ سب نے اسی طرح کیا۔ مشرکین کے اطراف کعبہ میں صف بنائے تظارہ کر رہے تھے۔ جب صدائے "لیلک اللہیم لیلک" کی صدائیں ہند ہوئیں تو عبد اللہ بن رواحہ نے، جو گروہ اسلام کے سردار تھے مشرکین کے سامنے رجز پڑھتے ہوئے یہ اشعار کے:

خلو بني الكفار عن سيله خلو فكل الخير في قوله
يارب انى مؤمن لقليله انى رأيت الحق في قوله
يعنى اے کافرو! رسول خدا کا راستہ کھول دو اور یاد رکھو پیغمبر اکرم کی
رسالت ہی کے قبول کرنے میں ہر قسم کی سعادت مخصر ہے، اے پروردگار میں
آنحضرت کے ہر قول پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے اقوال میں حق پاتا ہوں۔ اس
طرح طواف کعبہ میں پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کے لئے مشرکین کے
سامنے رجز کوئی اور مظاہرہ قوت و حوصلہ کی دلیل تھی۔ لہذا عبادات کے ساتھ یہ
ایک ہم سیاست اسلامی بھی تھی اور مشرکین کی سر کوئی بھی تھی۔

دوسری مثال: حج میں امام حسینؑ کا معاویہ پر شدید اعتراض
بھرت کے ۵۸ سال بعد مرگ معاویہ سے دو سال پہلے تک معاویہ اپنی
طغیانی و سرکشی میں بہت مغزور ہو کر امام علیؑ کے ماتنے والوں کو بے رحمانہ طور پر
قتل عام کر رہا تھا۔ امام حسینؑ اس سال حج کو گئے اور میدان منی میں تمام بھی ہاشم
و اپنے شیعوں کو جمع کیا جو تقریباً ہزار سے زیادہ افراد ہوں گے، ان میں بعض
اصحاب رسولؐ کے فرزند بھی تھے، امام حسینؑ نے اس اجتماع میں خدا کی حمد و شاء
کرنے کے بعد فرمایا: "فإن الطاغية قد صنع بما و بشيعتنا ما قد علمتم ورأيتم"

سیاست اسلامی سے دور کریں۔ مثال: جس طرح سیب سے جوس ہکال لینے کی صورت میں اس باقی ہوئے کو سیب نہیں کہا جاتا۔
یتاؤئی عالم: پیغمبر اکرمؐ اور ان کے درجتہ شاگرد ہمارے لئے اسوہ و جلت ہیں۔ وہ لوگ فقط مناسک حج انجام دیتے تھے اور سیاست سے کوئی سردار نہیں رکھتے تھے۔

صالح عالم: آپ کی یہ بات دعویٰ بلا دلیل ہے کہونکہ پیغمبر اکرمؐ اور ان طاہرینؑ اور ان کے درجتہ شاگرد مناسب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کعبہ کے اطراف میں سیاسی، اجتماعی اور ادیٰ مسائل پر بھی حث کرتے تھے بلکہ ان مسائل کو خاصی اہمیت دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے کم از کم چار مثالیں پیش کر سکتے ہیں:

پہلی مثال: قبل از فتح مکہ وقت طواف پیغمبر اکرمؐ اور ان کے ہمراہیوں کی توحیدی عمل

بھرت کے ساتویں سال "صلح حدیبیہ" کے تحت آپؐ کو اجازت تھی کہ آپؐ مناسک عمرہ کے لئے مکہ جا کر تین دن قیام کر سکتے تھے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے دو ہزار مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، احرام باندھنے کے بعد جب آپؐ کہ پہنچے تو آفتاب نے بیوی گرم جوشی کے ساتھ آپؐ لوگوں کا استقبال کیا۔ جب آپؐ طواف میں معروف ہو گئے اور یقین مسلمان آپؐ کے اطراف میں صف باندھے طواف کر رہے تھے تو آنحضرتؐ نے اس حساس وقت میں سیاسی نقطہ نگاہ کے تحت مسلمان مردوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے شانوں کو کھول لو تاکہ مشرکین

ذکر مزید واضح معلوم ہوتا ہے جس میں امام سجاد کا ہشام بن عبد الملک طاغوت زمان سے سامنا ہوتا ہے اور ان کے درمیان مناظرہ اس طرح ہوتا ہے:

عبد الملک (پانچواں خلیفہ اموی) کے زمانہ میں ان کا پینا ہشام مراسم حج کے سلسلے میں مکہ آیا اور طواف کے دوران جب اس نے مجر اسود کو پتو منا چاہا تو جمعیت کے تیادہ ہونے کے باعث چوم نہ سکا تو مجر اسود کے برادر میں ہشام کے لئے ایک منبر رکھا گیا وہ منبر پر گیا اور طواف کرنے والوں پر جب نگاہ کی تو ان میں اس کی نگاہ امام سجاد پر پڑی جو طواف میں معروف تھے جب انہوں نے چاہا کہ مجر اسود کو چوہ میں تو لوگوں نے بڑے احترام و کمال کے ساتھ آپ کے لئے راستہ کھول دیا۔ اس طرح آپ نے بڑے آرام سے مجر اسود کو چوہ۔ اسی اثناء میں ایک شام کے ربانے والے نے ہشام سے کہا کہ یہ شخص کون ہے جس کا لوگ اتنا احترام کر رہے ہیں؟ ہشام نے اپنے کو نادان بنتا ہوئے کہا میں نہیں جانتا۔ ایسے حاس موقع پر فرزدق نامی شاعر نے خاندان رسالت کے بارے میں اس مرد شایی سے کہا: ”ولکنی اعرفه“ یعنی میں ان کو جانتا ہوں۔ شایی کئے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ فرزدق نے امام سجاد کے بارے میں ایک مفصل قصیدہ پڑھا جو ۳۱ اشعار پر مشتمل تھا جو اس شعر سے شروع ہوتا تھا: ”هذا الذي تصرف الطحا و طاته۔ والبيت يعره والحل والحرم۔“ یعنی یہ وہ شخص ہے جسے مکہ کا انگریزہ تک پہچانتا ہے۔ خانہ کعبہ اور حجاز کے بیان حرم کے باہر اور اندر والے سب انسیں جانتے ہیں۔ ہشام نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ فرزدق کو قید کر دیا جائے۔ جب امام سجاد نے فرزدق کے قید کی سزا کا ساتھ اس کے لئے دعا کی اس کی دلبوٹی کی اور اس کے

یعنی معاویہ کی رفتار ہمارے اور ہمارے شیعوں کے ساتھ جس طرح کی ہے تم لوگ جانتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو، میں تم لوگوں سے کچھ بتائیں پوچھتا ہوں اگر میں نے حج کہا تو میری تصدیق کرنا اور اگر جھوٹ بولا تو میری تکذیب کرنا۔ لہذا میری بات سنو اور یاد رکھو اور جب مراسم حج سے اپنے گروہوں کو واپس لوٹو تو دوسروں تک اس پیغام کو پہنچاؤ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر معاویہ کا یہی کردہ اور رہا تو حق مت کر رہا جائے گا، مگر یہ کہ خداوند عالم نور حق کو باقی رکھے چاہے کافرین اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ پھر امام حسین نے حضرت علیؑ اور ان کی اولاد کی برتری اور امامت کے سلسلے میں قرآن و احادیث پیغمبر اکرمؐ سے ولائل پیش کئے اور حاضرین ”اللهم نعم۔ قد سمعنا و شهدناه“ کہتے رہے کہ ہم خدا کو گواہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے پیغمبر اکرمؐ سے ساپے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آخر میں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا: میں تمیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اپنے وطن لوٹ کر ان باتوں کو اپنے موردا طیباں افراد تک منتقل کرنا اور ان لوگوں کو بھی میری اس دعوت سے آگاہ کرنا۔ (احتجاج طرسی جلد ۲ ص ۱۸) یہ واقعہ عبادت کے ساتھ سیاسی لحاظ سے بھی بھرپور تھا جس میں معاویہ کی سرکشی پر اعتراض تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج ادا یعنی تھا ایک مشک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ضمن میں مم سیاسی مسائل بھی ہیں جس سے صحیح رہبر کی طرف توجہ دلانا اور خالماں رہبری سے بیزار کرنا ہے۔

تیری مثال: امام سجاد کا کنوار کعبہ اپنے زمانہ کے طاغوت سے مقابلہ تاریخی لحاظ سے مشورہ و معروف واقعہ جس سے حج میں مسائل سیاسی کا

جائے لہذا اس قسم کے مسائل کا اعمال حج کے ساتھ ساتھ ذکر کرنا اسقدر ابھی رکھتا ہے کہ امام باقرؑ اس کی وصیت کر رہے ہیں اور اپنا کچھ مال اس کام کے لئے وقف کر رہے ہیں۔

احکام حج عبادت و سیاست کا مجموعہ ہے

اصولاً جب ہم احکام حج پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں وہ عبادت کے علاوہ یعنی سیاست معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ مثلاً جب انسان حج کے لئے احرام باندھتا ہے دو سخید کپڑوں کا تو امیر غریب گورا کالا سب ایک ہی معلوم ہوتے ہیں جس سے ہمیں مسلمانوں کی آپس میں قوم پرستی و لسانیت و ملک پرستی وغیرہ سے دوری کا درس ملتا ہے جو سیاسی لحاظ سے بہت اہم ہے۔

۲۔ احکام احرام میں سے ہے کہ انسان احرام کی حالت میں کسی کو بھی کسی قسم کا آزار نہ پہنچائے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں و گھاس وغیرہ تک کو بھی حالت احرام میں حشرات تک کو مارنا حرام ہے یا مثلاً اپنے بدن سے بال تک کا جدا کرنا اسلوگ اٹھانا وغیرہ ان سب کا حرام ہونا ہمیں امن و سلامتی کا درس دیتا ہے جو سیاسی لحاظ سے بہت ہم ہے۔

۳۔ خانہ کعبہ کے ساتوں چکروں میں جب حجر الاسود تک پہنچیں تو اس پر ہاتھ پہنچنا مستحب ہے اس بارے میں امام صادقؑ فرماتے ہیں : ”وَهُوَ يَعْمِلُ فِي أَرْضِهِ يَبْاعِثُ بِهَا خَلْقَهُ“ یعنی یہ حجر اسود زمین پر خدا کا سیدھا ہاتھ ہے جس کے ذریعے وہ بندوں سے بیعت لیتا ہے۔ (وسائل الشیعہ جلد ۹ ص ۳۰۶)

لے بارہ بزرار درہم بھی فرزدق نے جب وہ رقم قبول نہیں کی تو امام سجاد نے اسے لکھا کہ ہمارا جو تم پر حق ہے اس کی بنا پر یہ رقم تم ہماری طرف سے قبول کرو۔ بے شک خدا تمہارے مقام معنوی اور نیت نیک سے آگاہ ہے۔ فرزدق نے وہ رقم قبول کی اور ہشام کی نذمت میں اشعار کئے۔ (حدار جلد ۲ ص ۷۱۲) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام سجادؑ نے طواف کعبہ کے دوران بھی ہشام کی شان و شوکت کا ہر گز لحاظ نہیں کیا بلکہ فرزدق شاعر جس کا عمل سیاسی لحاظ سے ممکن تھا، اس کی دلچسپی کی اور اس کے لئے دعا کی اور اسے بارہ بزرار درہم بھی۔ کیا صحن کعبہ میں اس طرح کی تائید و حمایت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حج کے پر شکوہ تہجوم میں سیاسی مسائل کا بھی ذکر کرنا ائمہ طاہرین کے نزدیک اچھا عمل تھا۔

چوتھی مثال : امام باقرؑ کی سیاسی وصیت

محمدث کلینٹی اپنی موافق سند کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادقؑ نے فرمایا کہ میرے والد امام باقرؑ نے مجھے وصیت کی کہ : ”میرے ماں میں سے کچھ مال وقف کر دینا تاکہ سرزین منی کے لایم حج میں مجھ پر گریہ کیا جاسکے۔“ (مشنی الامال جلد ۲ ص ۹۷) اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ امام باقرؑ نے یہ وصیت کیوں نہیں کی مدینہ میں میری قبر کے کنارے یا مکہ و منی میں غیر لایم حج میں میرے لئے عزاواری کرائی جائے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپؑ چاہتے تھے کہ لایم حج میں جو لوگ ہر جگہ سے آکر جمع ہوتے ہیں میدان منی میں توہاں عزاواری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اس مجلس میں مسلمانوں پر بندی ایسی گزشتہ و حاضر کے ظلم و ستم کو بیان کیا جائے اور ظالم کی شاخت کرائی

(۸۱)

ایمان حضرت عبدالمطلب و حضرت ابو طالب

ایک شیعہ عالم دین کا ایک سعودی وہابی سے اس طرح مناظرہ ہوا:

وہابی عالم: تم شیعہ لوگ قبر عبدالمطلب و ابو طالب پر کیوں جاتے ہو؟

شیعہ عالم: اس میں کیا حرج ہے؟

وہابی عالم: کیونکہ عبدالمطلب اس وقت فوت ہوئے جب پیغمبر اسلام کی عمر آنحضرت کی تھی۔ رسالت کی فرمہ داری نہیں آئی تھی۔ لہذا اس وقت تک دین توحیدی نہیں تھا۔ لہذا کس بنا پر ان کی زیارت کرتے ہو اور ابو طالب کے بارے میں تو مشورہ ہے کہ وہ (العیاذ بالله) مشرک اس دنیا سے گئے اور مشرک کی زیارت جائز نہیں ہے۔

شیعہ عالم: کیا حضرت عبدالمطلب کو کوئی ایک بھی مسلمان مشرک کہہ سکتا ہے؟ وہ اپنے ہی دور سے خدا پرست تھے اور اپنے جد حضرت ابراہیم کی پیروی کرتے تھے جیسا کہ الحست کی کتابوں میں بھی ”ابرہہ“ کے قصے میں ہے کہ جب ابرہہ کی فوج خانہ کعبہ کو ڈھانے آئی اور عبدالمطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تو جب آپ اپنے اونٹ چھڑانے کے لئے ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے کہا کہ اپنے اونٹوں کے لئے آئے ہو لیکن کعبہ جو تمہاری عبادات گاہ ہے تمہارے دین کی جیادہ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہ رہے ہو تو عبدالمطلب نے جواب میں کہا کہ: ”انا رب الابل وان للبیت رب اسیمنعه۔“ یعنی میں اونٹوں کا مالک ہوں اس گھر کا مالک خدا ہے جو خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ پھر حضرت عبدالمطلب

تو خود بیعت ایک سیاسی مسئلہ ہے اور خدا سے بیعت کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری بیعت کرتے ہیں کہ تیری راہ میں قدم بڑھائیں گے اور تیرے دشمنوں سے بیزار رہیں گے۔ مثلاً امریکہ و اسرائیل سے۔

میں میں رمی بھرات کرنا خود ایک مضمون سیاسی مسئلہ ہے کہ ہم ہر قسم کے شیطان سے بیزار ہیں چاہے شیطان باطنی الحیں ہو یا شیطان ظاہری امریکہ و اسرائیل ہوں یعنی گویا ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں اور اس میں بھی یہ حکم ہے کہ وہ سنکر حتماً شیطان پر لگیں ورنہ کافی نہیں ہیں۔

قریبی گاہ میں جانوروں کا زیج کرنا ایشور و فدکاری کا سیاسی لحاظ سے بڑا درس ہے۔ اور جیسا کہ سنتے ہیں کہ امام زمان عجلہ اللہ کعبہ کے اطراف میں ظہور کریں گے اور وہیں تین سو تیراہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ (سنن المان ماجہ جلد ۲ ص ۱۸۔ حخار جلد ۵۲ ص ۳۱۶)

جیسا کہ اس بارے میں حضرت زہرا کا ارشاد ہے: ”جعل الله الحج تشیدا للذين.“ یعنی خدا نے حج کو دین کے احتجام کے لئے قرار دیا ہے۔ (اعیان الشیعہ چاپ چدید جلد اول ص ۱۲)

اور امام صادق فرماتے ہیں: ”لایزال الدین فانما ماقامت الكعبه.“ یعنی جب تک خانہ کعبہ باقی ہے اسلام باقی ہے۔ لہذا اگر حج کے صرف عبادی پہلو کو لے لیا جائے اور اس کے سیاسی پہلو کو چھوڑ دیا جائے جو نعم زین فائدہ حج ہے تو کیا یہ دین کے مختار ہونے کا سبب نہ گا؟

جو آپ نے عقیل بن الی طالب کے بارے میں فرمایا نقل کرتے ہیں: "احبک حبین حبا لفرا بتک منی و حبا لاما کنت اعلم من حب عصی ابی طالب ایاک۔" یعنی میں تم سے دو اعتبار سے محبت کرتا ہوں، ایک اس رشتہ داری کی بنا پر جو تمہیں مجھ سے ہے دوسری اس بات پر کہ میں جانتا ہوں کہ میرے پچھا ابوطالب تم سے محبت کرتے ہیں۔ (استیغاب جلد ۲ ص ۵۰۹ ذخائر العقبی ص ۲۲۲) پیغمبر اسلام کی یہ گفتگو اس بات پر گواہ ہے کہ آپ حضرت ابوطالب کے ایمان کا یقین رکھتے تھے ورنہ کافر سے دوستی کا کوئی معنی نہیں ہے جو پیغمبر عقیل کو ان کی نسبت زیادہ چاہتے تھے۔ (الغدیر جلد ۷ ص ۳۳۰ تا آخر کتاب)

مزید وضاحت: افسوس کہ ہمارے برادران الحسنتا اہل سرپرستوں کی پیروی کرتے ہوئے نسل و نسل حضرت ابوطالب کو کافر ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں جبکہ اپنے مراجع کی کتابوں سے غافل ہیں جن میں دسیوں روایتیں ایمان ابوطالب کے قطعی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن تعصّب و عداوت علی رکھنے والے بیشہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے حضرت ابوطالب کو مشرک ثابت کریں اور یہ کام بھی امیہ کے زمانے سے شروع اور اب تک چل رہا ہے۔ صرف حضرت علی کی دشنی میں ورنہ اگر حضرت ابوطالب حضرت علی کے والد نہ ہوتے تو شاید یہ لوگ پیغمبر اسلام کے مؤمن و صادق پچھا اور قریش کی بورگ شخصیت کے نام سے معرفی کرتے۔

وباطی عالم: اگر ایمان ابوطالب اتنا روشن ہے تو ہمارے علماء کیوں اس بات کو ذکر نہیں کرتے ہیں اور اس بات کو ہم رکھے ہوئے ہیں؟

کعبہ کے کنارے آکر وعا کرتے ہیں: "خدیا ہر ایک اپنے گھر میں رہنے والوں کی حفاظت کرتا ہے تو بھی اپنے گھر حرم میں رہنے والوں کی حفاظت فرم۔" (شرح سیرۃ ابنہ شام جلد اول ص ۱۳۸ الی ۶۲۔ بلوغ الارب آلوسی جلد اول ص ۱۵۰ الی ۲۲۳)

بنی تمیث ان کی دعا قبول ہوئی خدا نے لبھیں جیسے مختصر سے پرندے کا شکر بھجا جنوں نے اور ہر کے شکر پر پتھر بر سامنہ سا کر ان کو نیست و نایو کر دیا جس کے بارے میں سورۃ قبیل ہازل ہوا اور روایات شیعہ میں لیا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا: خدا کی حرم میرے باپ ابوطالب اور میرے جد عبد المطلب وہاشم و عبد مناف ہرگز مت پرست نہیں تھے وہ لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور آئین حضرت ابراہیم پر عمل کرتے تھے۔ (کمال الدین ص ۱۰۳ تغیرتہاں جلد ۲ ص ۹۵)۔

حضرت ابوطالب کے بارے میں اولاً تو تمام الحیثیت و علماء شیعہ و تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ مؤمن اس دنیا سے گئے ہیں اتنی حدید جو الحیثیت کے معروف عالم دین ہیں نقل کرتے ہیں کہ کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ کیا حضرت ابوطالب مؤمن تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کسی اور شخص نے آگے پوچھ کر کہا کہ کچھ لوگ تو انہیں کافر کرتے ہیں۔ امام سجاد نے جواب میں کہا کیا لوگ رسول خدا و ابوطالب کو برائحتے ہیں جبکہ رسول خدا نے باایمان عورت کا کافر سے نکاح حرام قرار دیا تھا اور اس بات میں تو بالکل شک ہی نہیں ہے کہ حضرت قاطرہ بہت اسد اسلام و ایمان میں سب پر سبقت لینے والی پاک دامن خاتون تھیں اور وہ آخری عمر تک حضرت ابوطالب کی ہمسری میں رہیں (شرح فتح البلاغہ ابن الہدیہ جلد ۳ ص ۳۱۲) اور نایا الحیثیت کے اکثر علماء و راوی پیغمبر اسلام کے اس قول کو

برادر سنی: ہماری اصلی کتابوں میں حضرت ابوطالب کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہیں بعض میں ان کی ایجھے الفاظ میں توصیف کی گئی ہے اور بعض میں ان کی نہ مدت کی گئی ہے۔

مؤلف: ائمہ مخصوصین کی پیروی کرتے ہوئے جو عترت الحبیت رسول تھے تمام علماء شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت ابوطالب مؤمن تھے۔

برادر سنی: اگر ایسا تھا تو ہماری کتابوں میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟

مؤلف: حضرت ابوطالب کا جرم یہ تھا کہ آپ حضرت علیؑ کے والد تھے۔ لہذا معاویہ نے دشمنی علیؑ میں دین فروش مسلمانوں کو مسلمانوں کے بیٹاں والل سے ہزاروں دیناروں دے کر حضرت علیؑ کے خلاف جعلی روایات کے دفتر کھولے ہوئے تھے جو زیادہ حد تھیں گھر گھر کر لاتا تھا اسے زیادہ انعام دیا جاتا تھا۔ بے شرمنی اس حد کو پہنچ پہنچی کہ الودھر رہ مجھے کذاب سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ نے رحلت کے وقت وصیت کی کہ حضرت علیؑ کا ہاتھ کاٹ دو۔ (شرح فتح البیان ابن الحید جلد اول ص ۳۵۸)

برادر سنی: سورۃ انعام کی آیت ۲۶ میں پڑھتے ہیں: "وَهُمْ يَهْوَنُونَ عَنْهُ وَيَنْسُونَ عَنْهُ۔" یعنی وہ لوگ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکتے ہیں۔ لہذا ہمارے بعض مفسرین کے مطابق کچھ لوگ پیغمبر اسلامؐ کا دفاع کرتے تھے اور یہ آیت حضرت ابوطالب جیسے افراد کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبر اسلامؐ کا ان کے دشمنوں سے دفاع کرتے تھے اور ایمان کی جنت سے آنحضرتؐ سے دور رہتے تھے۔

شیعہ عالم: جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دراصل معاویہ کی حضرت علیؑ سے دشمنی کا نتیجہ تھا کہ اس کی دو رحومت سے ہی منبوذوں سے مسجدوں سے حضرت علیؑ پر نامزا الفاظ کے جاتے تھے اور تقریباً ۸۰ سال تک منبوذوں سے (العیاذ بالله) حضرت پر لعن طعن کے جاتے تھے اور آپؐ کی نہ مدت میں جھوٹی احادیث گھری جاتی تھیں اور حضرت ابوطالب کو کافر ہلات کر کے حضرت علیؑ کو کافر زادہ کے عنوان سے پیش کرنا چاہتے تھے۔ وہ سرا راہزیہ تھا کہ حضرت ابوطالب کیونکہ تھیتا دوسروں سے پوشیدہ طور پر پیغمبر اسلامؐ کی حمایت کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ رسالت کے سلسلے میں آپؐ کی مدد کر سکیں اسی لئے اکثر روایات میں حضرت ابوطالبؓ کو مؤمن آل فرعون واصحاب کف سے تشییب دیا گیا ہے جو اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے زیادہ سے زیادہ وین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ امام حسن عسکریؑ سے روایت ہے کہ خداوند عالم نے پیغمبر اکرمؐ کو دھی کی کہ: "میں دو گروہ کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا ایک گروہ مخفی طور پر تمہاری مدد کرے گا جس کے سربراہ ابوطالب ہوں گے اور ایک اشکار گروہ کے ذریعے جس کے سربراہ علیؑ ہوں گے۔ (الحجۃ علی الذاهب ص ۳۶۱)

(۸۲)

ایمان ابوطالبؓ پر ایک مقالہ
مؤلف کتاب کا ایک مدرس میں سنی طالب علم سے ایمان ابوطالب پر مناظرہ اس طرح پیش آیا:

(میزان الاعتدال صفحہ ۳۹۸) اور خود ابن مبارک راوی سے نقل ہے کہ سفیان تدليس کرتے تھے یعنی جھوٹ گو تھے حق کو حق سے ملاتے تھے۔ (تہذیب جلد ۲ صفحہ ۱۱۵) اسی طرح سے ”جعیب بن اہل ثابت“ نامی راوی بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں تدليس ہوئی ہے کیونکہ اس روایت میں جعیب سے ان عباس تک کے راویوں کو حذف کیا گیا ہے۔ (تہذیب جلد ۲ صفحہ ۱۷۹) اور ان عباس جیسے مشهور و معروف شخص جو حضرت ابوطالب کے مؤمن ہونے کا یقین رکھتے تھے وہ کیوں نکر انہی روایت کریں گے؟

مطلوب چہارم یہ ہے کہ آپ کے ہقول آیت مذکور صرف ابوطالب کی شان میں نازل ہوئی ہے جب کہ جملہ ”بنہوں و یسون“ میں جمع کے صیغہ استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا بعض کی تفسیر کے تحت یہ آیت پیغمبر اکرمؐ کے پیشوائی سے متعلق ہے سوائے حضرت حمزہ، حضرت عباسؓ اور حضرت ابوطالب کے جو مؤمن تھے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ کے دس پیشوائی تھے۔ جن میں سے تین پیشوائی (۱) حمزہ، (۲) عباسؓ (۳) ابوطالبؓ مؤمن تھے، جو اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔

مزید وضاحت: خود پیغمبر اسلامؐ مشرکین سے دوری اختیار کرتے تھے جیسے خود اواب سے دوری جو کہ خود رسول خدا کا پیشوائی تھا لیکن حضرت ابوطالب کا ہمیشہ احترام کرتے تھے اور جس سال حضرت ابوطالبؓ کا انتقال ہوا۔ آپؐ نے اس سال کو ”عام الحزن“ یعنی غم کا سال قرار دیا اور آپؐ نے حضرت ابوطالبؓ کے تشیع جنازے میں فرمایا: ”واحزنال علیک کنت عبدک بمتنزلة العین من الحدقة الروح من الجسد.“ یعنی اے میرے والد میں آپؐ کے مرنے سے کس قدر

مؤلف: اولاً تو ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں جو آپ نے کئے ہیں ؟ دوسری آگر یہ معنی صحیح بھی مان لئے جائیں تو اس پر کیا دلیل ہے کہ اس گروہ میں حضرت ابوطالبؓ بھی شامل ہیں؟

برادر سئی: اس پر دلیل روایت سفیان ثوری ہے جعیب بن اہل ثابت سے کہ ان عباس نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابوطالبؓ کی شان میں نازل ہوئی ہے جو پیغمبرؐ کا دفاع کرتے تھے لیکن خود اسلام سے دور تھے۔ (تفسیر ابن کثیر جلد ۲ ص ۲۸)

مؤلف: آپؐ کے جواب میں مجبوراً ہمیں یہاں چند مطالب ذکر کرنے پڑیں گے:

مطلوب اول یہ کہ آیت کے معنی جو آپ نے کئے ہیں وہ نہیں بلکہ آیت کے قبل و بعد کے جملات سے آیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ کافرین جو لوگوں کو پیغمبر اکرمؐ کی پیروی سے روکتے تھے اور خود بھی پیغمبر اکرمؐ سے دور رہتے تھے۔ (الغدیر جلد ۸)

مطلوب دوم یہ کہ جملہ ”یسون“ کے معنی دوری کے ہیں جب کہ حضرت ابوطالبؓ ہمیشہ پیغمبر اکرمؐ کے ساتھ رہتے تھے، ان سے دور نہیں رہتے تھے۔

مطلوب سوم یہ روایت سفیان ثوری جس کی نسبت ان عباس کی طرف دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوطالبؓ کی شان میں چند وجوہات کی مارپی نازل ہوئی ہے۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سفیان ثوری حتیٰ کہ خود علماء الحسن کے نزدیک غیر موافق افراد میں سے ہیں۔

الحدث کی طرف سے ۲۳ احادیث اور شیعوں کے ذریعے ۱۹ حدیثیں نقل ہوئی ہیں۔ مشماج البر امۃ جلد ۲ ص ۳۵۰)

اب ذرا اس مناظرے کو ملاحظہ کریں جو ایک طالب علم اور مولانا کے درمیان ہوا:

طالب علم: ہم نے سنا ہے کہ امام علیؑ نے جو انگوٹھی فقیر کو دی تھی کافی گراں قیمت تھی مثلاً تفسیر برہان جلد اول صفحہ ۲۸۵ میں ہے کہ اس انگوٹھی کا نگینہ یا قوت سرخ کے پانچ مثقال سے ماہوا تھا جو کافی قیمت رکھتا تھا۔ لہذا حضرت علیؑ یہ انگوٹھی کہاں سے لائے تھے؟ کیا حضرت علیؑ جمل پرست تھے؟ کیا اتنی مہنگی انگوٹھی پہننا اسراف نہیں ہے اور دوسری طرف اسی نسبت تو امام علیؑ کی طرف دینا بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ پوشاک و مسکن اور زندگی بودی سادگی سے گزارتے تھے جیسا کہ آپؑ خود فرماتے ہیں: ”فَوَاللَّهِ مَا كَنْتُ مِنَ الْمُنْهَاجِ
وَلَا دَخْرَتْ مِنْ غَنَامَهَا وَفِرَا وَلَا أَعْوَدْتُ لِبَالِي ثُوبَيْ طَمْرَا وَلَا حَزَّتْ
مَنَارَضَهَا شَبْرَا . وَلَا أَخْدَثْتُ مِنْهُ الْأَلْقَوْتَ أَتَانِ دَبْرَةً.“ یعنی خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کچھ جمع نہیں کیا اور دنیا کے ثروتوں و شخصوں میں سے سے فردہ برابر بھی مال جمع نہیں کیا اور اس پیوند لگے لباس کا کوئی بدل جمع نہیں کیا ہے اور ایک بالشت کے دربار بھی زمین نہیں لی ہے اس دنیا سے سوائے محض خوارک کے اور کچھ نہیں لیا ہے۔ (فتح البلاع نامہ ۳۵)

مولانا: یہ سب باتیں کہ آپ کی انگوٹھی گراں قیمت تھی ہے بیجا ہیں۔ روایات متعدد اور سورۃ مائدہ کی آیت ۵۵ جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے ہرگز

غمگین ہوں، میں آپ کی آنکھوں کی محنت کھا، میں آپ کے بدن میں روح کی مانند تھا۔ (الغدر جلد ۲ ص ۳۰۳) کیا تبیر اکرمؐ کے یہ شایان شان ہے کہ وہ کسی مشرک کے بارے میں ایسے الفاظ کیں، اس کے مرنے پر غمگین کا اظہار کریں جبکہ قرآن میں کئی آیتیں ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ آپؐ مشرکین سے بیزار رہتے تھے۔

(۸۳)

کیا حضرت علیؑ گراں قیمت انگوٹھی پہننے تھے؟

سورۃ مائدہ کی آیت ۵۵ میں پڑھتے ہیں: ”إِنَّمَا وَلِكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آتُوكُمْ يَقْصُدُونَ الصَّلَاةَ وَيَرْكُونَ الزَّكُورَةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.“ یعنی یہ شک تمہارا سر پرست و رہبر خدا اور اس کا رسولؐ اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روایات متواترہ سے شیعہ و سنی سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ یہ آیت امام علیؑ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی ولایت و رہبری پر دلالت کرتی ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علیؑ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں ایک فقیر آیا اور سوال کیا جب کسی نے اسے کچھ نہ دیا تو حضرت علیؑ جو اس وقت حالت رکوع میں تھے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، سائل نزدیک آیا اور انگوٹھی ہاتھ سے ابزار کر لے گیا۔ اس طرح حالت رکوع میں آپؐ نے انگوٹھی بخواہن زکوٰۃ فقیر کو دی، جس کے نتیجے میں مذکورہ آیت آپؐ کی شان میں نازل ہوئی۔ (غایۃ الرام میں

محتاج نہیں بکھر یہ میں خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ علیٰ نماز میں خود سے بیگانہ تھے، خدا سے نہیں اور اس بات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کہ خلق خدا سے لاپرواہی خدا سے لاپرواہی ہے۔ یہ عبارت دیگر حالت نماز میں زکوٰۃ کا درینا عبادت کے ضمن میں عبادت ہے اور جب روح عبادت ہو تو وہ مسائل مادی و شخصی کی طرف توجہ کی محتاج نہیں مگر اس چیز کی طرف توجہ کرنا جس میں رضاۓ اللہ ہو جو عبادت رو جی کے ساتھ سازگار ہو۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ خدا کی عبادت میں غرق ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے احسادات کو اپنے اختیار سے دیدے بکھر اپنے ارادے سے خدا کی راہ میں انعام پانے والی ہرشے کی طرف متوجہ رہے اور جس میں خدا کی رضاۓ ہو اس سے چار ہے۔

(۸۲)

کیوں نام علیٰ قرآن میں نہیں ہے؟

پسجھ شیعہ و سنی علماء کے درمیان مجلس گرم تھی، مذہب اسلام کی حقانیت پر ہر قسم کے تعصب سے دور حس نیت کے ساتھ حد و گفتوگو ہو رہی تھی کہ ایک سنی عالم بول ائمہ کہ اگر علیٰ پیغمبر کے خلیفہ بلا فصل ہیں تو ضروری تھا کہ یہ مطلب نام علیٰ کے ساتھ قرآن میں ذکر ہوتا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ ہوتا۔

شیعہ عالم: کسی بھی صحابی رسول کا ہم قرآن میں نہیں آیا سوائے ”زید بن حارث“ کے جو ازدواج پیغمبر اکرمؐ کی مناسبت میں ذکر ہوا ہے۔ (سورۃ

اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کی انگوٹھی گراں قیمت تھی۔ اگر اس قسم کی کوئی روایت ہے تو وہ ضعیف و مرسلاً روایت ہے۔ زیادہ تراحتماً ہے کہ ایسی حدیث معاویہ کے دور حکومت میں حضرت امام علیؑ کی شان گھٹانے کے لئے گھڑی گئی ہو۔

طالب علم: جو بھی ہو انگوٹھی کو اتنی قیمتی تو ہونا چاہئے کہ ایک فقیر کو سیر کر کے ورنہ اس میں ایک فقیر سیر نہیں ہو سکے گا۔

مولانا: دراصل وہ انگوٹھی جیسا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ ”مردان عن طوق“ ہائی مشرک کی تھی جو آپ نے جنگ میں فتح پانے کے بعد مال غنیمت کے طور پر اتناز کر پیغمبر اکرمؐ کو لا کر دی تھی۔ پیغمبر اکرمؐ نے حکم دیا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے وہ انگوٹھی علیؑ کی ہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ علیؑ بعوان امین اس انگوٹھی کو اخھائیں گے اور موقع مناسب پر مستحق کو دے دیں گے۔ لہذا جب وہ انگوٹھی حضرت علیؑ نے خریدی ہی نہیں تھی تو اسراف بھی صادق نہیں آئے گا۔ (وقائع الایام ص ۶۲۷)

طالب علم: حضرت علیؑ کے بارے نقل کیا جاتا ہے کہ آپ نماز میں اس قدر حضور قلب ہوتے تھے کہ جنگ صفين میں لگئے والا تیر حالت نماز میں آپ کے پیر سے لکالا گیا مگر آپ متوجہ تک نہ ہوئے۔ اگر یہ صحیح ہے تو آپ کس طرح حالت رکوع میں فقیر کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے انگوٹھی دی؟

مولانا: جو لوگ اس قسم کا انشکال کرتے ہیں وہ اس نکتہ سے غافل ہیں کہ ضرورت مند کی آواز کو سننے اور اس کی مدد کرنے میں اس کی طرف توجہ کا

احزاب آیت ۳۲ فلماقضی زید منها و طرازو جناکها۔)

سی عالم : جس طرح ایک حکم فرشی کی مناسبت میں زید کا نام ذکر ہوا لازم تھا کہ علی کا نام ایک حکم اصلی و حرم امامت کے عنوان سے ہی ذکر ہوتا۔

شیعہ عالم : اگر حضرت علی کا نام قرآن میں ذکر ہو جاتا تو اس بات کو مد نظر رکھنے کے آپ کے دشمن کافی تھے، ایک تو ایسے ہی اس نامے میں قرآن کم تھے آپ کے دشمن قرآن کو تحریف کرتے ہوئے آپ کے نام کو قرآن سے بکال دیتے۔ لہذا بیکر تھا کہ پیغمبر اکرم آپ کے اوصاف کے ساتھ آپ کی رہبری کا اعلان کرتے اور جیسا کہ قرآن کی روشن بھی یہ ہے کہ کلی مسائل کو ذکر کرتا ہے جس کے مصادیق خود پیغمبر کے ذریعے مشخص ہوتے ہیں۔

سی عالم : قرآن میں کمال اوصاف علی ذکر ہیں؟

شیعہ عالم : دیسیوں بالکل کئی سو آیتیں قرآن میں وصف علی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مثلاً سورۃ ماکدہ ۵۵ میں آیت اطاعت، سورۃ نباء ۵۹ میں آیت مبایلہ، سورۃ آل عمران ۶۱ میں آیت تطہیر، سورۃ احزاب ۳۳ میں آیت اعلان غدیر، سورۃ ماکدہ ۶۱ میں آیت انزال، سورۃ شعراء ۲۱۲ میں آیت مودت، سورۃ شوریٰ ۲۳ میں آیت اکمال وغیرہ۔ (جس کی مزید تفصیل کتاب دلائل الصدق جلد ۲ کے صفحہ ۳۲۱ میں رجوع کریں) جن میں سے ہر ایک آیت شیعہ سی محترم روایتوں کے ذریعے امام علی کی پیغمبر اسلام کے بعد بلا فصل خلافت و رہبری کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور اس بات کی طرف بھی متوجہ رہتے ہوئے کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے: "وَمَا تاکِم الرَّسُولُ فِي خَدْنَهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَإِنْ هُوَ إِلَّا حَرَمٌ" (سورۃ حشر)

(۸۵)

نمذہب تشیع کی پیروی صحیح ہے

شیعہ عالم دین سے کہتے ہیں کہ ان پاچ نمذہب یعنی حنفی و حنبلی و مالک و شافعی و جعفری میں سے کس کی پیروی کرنا صحیح ہے؟

شیعہ عالم : اگر انصاف کی رعایت کرو تو نمذہب جعفری کی پیروی کرو کیونکہ نمذہب جعفری مکتب امام جعفر صادق اور الہیت پیغمبر سے لیا گیا ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ امام صادق احکام اسلام کو قرآن و سنت رسول اکرم سے لیتے تھے اور گھر میں جو ہو دوسروں کی نسبت گھر والے اس سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔

شیخ محمود شلتوت کا تاریخی فتویٰ:

مذہب جعفری جو شیعہ مذہب کے نام سے مشهور ہے یہ ایسا مذہب ہے کہ جس کی پیروی کرنا تمام الحست کے مذاہب کے مذاہب کی طرح جائز ہے لہذا تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بات سے آگاہ رہیں اور یہ جا یعنی مذاہب سے تصلب کرنا چھوڑ دیں۔ تمام مذاہب کے بڑے علماء مجتہد ہیں اور ان کے فتوے خدا کی بارگاہ میں قبول ہیں اور جو افراد مجتہد نہیں ہیں وہ ان بڑے علماء کی تقلید کر سکتے ہیں۔ احکام اسلام میں ان کے دینے فتوؤں پر عمل کریں چاہے عبادات کے مسائل ہوں یا معاملات کے مسائل۔ (رسالۃ الاسلام طبع دار التقریب مصر) اس کے بعد یہے ہوئے اساتذہ مثلاً دانشگاہ الازہر کے سابق استاد محمد فیض اور قاہرہ کی مساجد کے سرپرست عبد الرحمن النجاری اور مصر کے زیردست استاد و مصنف عبد الفتاح و عبد المقصود جیسے بزرگان و علماء نے شیخ محمود شلتوت کی اس مسئلے میں تائید کی ہے۔ (خدا شیخ محمود شلتوت پر رحمت کرے کہ انہوں نے اس اہم مطلب کو اہمیت دیتے ہوئے اتنی پیاری و شجاعت و ہمت سے یہ فتویٰ دیا کہ مذہب شیعہ بارہ المائی مذہب فقیہ اسلامی ہے جو قرآن و سنت کے تحت عمل کرتا ہے اور اس مذہب کی پیروی جائز ہے۔)

عبد الرحمن النجاری: سرپرست مساجد قاہرہ کہتے ہیں کہ شیخ شلتوت جو امام و مجتہد ہیں ان کے دینے ہوئے فتوے کے مطابق رائے دیتے ہیں کہ جو میں حققت ہے۔

عبد الفتاح و عبد المقصود: لکھتے ہیں کہ مذہب شیعہ بارہ المائی جو

(۸۶)

قبور کو ویران کرنے کے سلسلے میں مباحثہ

آخر بقیع کی قبور جو وہاں نے شرک و حرام کے فتوؤں سے (سن ۱۳۲۲ ہجری) میں ویران کر دی تھیں اس بارے میں ایک شیعہ اور وہاں کے درمیان یہ مناظرہ ہوا:

شیعہ: کیوں ان قبور کو ویران کیا کیوں ان کی بے حرمتی کی گئی ہے؟
وہاں: کیا آپ علیؑ کو جانتے ہیں؟

شیعہ: کیوں نہیں وہ تو ہمارے اول امام اور رسول اکرمؐ کے خلیفہ بلا فضل ہیں۔

وہاں: ہماری معتبر کتابوں (صحیح مسلم جلد ۳ ص ۲۱۔ سنن ترمذی جلد ۲ ص ۲۵۶۔ سنن نسائی جلد ۲ ص ۸۸) میں اس طرح نقل ہے: ”یعنی ابو عکر و زہیر و سعیج سے اور وہ سخیان سے اور وہ حبیب سے اور وہ اہل وائل سے اور وہ اہل الہیاج اسدی سے اور یہ حضرت علیؑ سے کہ آپؑ نے اہل الہیاج سے فرمایا: ”کیا میں تمہارے پروردہ کام کروں جو رسول خدا نے میرے پروردہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ تصاویر

کو بالکل محکر دیا کرو اور قبور کو زمین کے مساوی بنایا کرو۔“

شیعہ: یہ حدیث سند و دلالت کے اعتبار سے ضعیف و کمزور ہے سند کے لحاظ سے اس طرح کہ وکیع و سخیان و حبیب بن الی ثابت اور ابی واکل جیسے افراد مورد اطمینان نہیں ہیں۔ مثلاً احمد بن حنبل وکیع کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے پانچ سو (۵۰۰) احادیث میں خطا کی ہے۔ (تذیب التہذیب جلد ۱ ص ۱۲۵) اور اتنے مبارک سے نقل کیا جاتا ہے کہ سخیان ثوری بناؤٹ زیادہ کیا کرتے تھے۔ یعنی ناقن کو حق کی شکل میں پیش کرتے اور جب مجھے دیکھتے تھے تو شرم جاتے تھے۔ (تذیب التہذیب جلد ۲ ص ۱۱۵) حبیب بن الی ثابت کے بارے میں ابو حیان لکھتے ہیں کہ یہ ناقن کو حق کا جلوہ دے کر پیش کیا کرتے تھے۔ (تذیب التہذیب جلد ۳ ص ۹۷) اور ابی واکل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ناصی اور مخرف انسان تھا جو دشمنی علی رکھتا تھا۔ (شرح شیعۃ البالانف ابن الحمید جلد ۹ ص ۶۹)

قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام کتب صحاح ششگانہ اصل تصنی نے اس روایت کو ابوالہیاج سے نقل کیا ہے یہ مطلب خود اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ وہ اہل حدیث اور قابل اطمینان نہیں تھا۔ لہذا نہ کوہ حدیث سند کے لحاظ سے قابل اطمینان نہیں ہے اور دلالت کے لحاظ سے لفظ "مشرف" جو حدیث نہ کوہ میں استعمال ہوا ہے وہ لغت کے اعتبار سے ایک بلعدی مکان کو مکان دیگر پر بیان کرنے کے لئے آتا ہے۔ لہذا یہ لفظ ہر قسم کی بلعدی کو شامل نہیں کرے گا اور لفظ "سویتہ" لغت میں مساوی قرار دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کسی میز ہی کیز کو سیدھی کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اس پر حدیث کے معنی

نہیں ہیں کہ ہر قسم کی بلعدی قبر کو دیران کرو اور ویسے بھی قبور کو زمین کے مساوی کرنا۔ اسنت اسلام کے منافی ہے کیونکہ تمام فقہاء اسلام قبر کو زمین سے ایک باشت اونچا رکھنے کے مستحب ہونے کو کہتے ہیں۔ (الفتح علی الذہبی الاربع جلد اول صفحہ ۳۲۰) ایک دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ "سویتہ" سے مراد یہ ہے کہ قبر کے اوپری حصے کو مساوی رکھونہ کہ چھپلی کی پشت اور لوٹ کی پشت کی مانند۔ جیسا کہ یہے یہے علماء الحسن مثلاً مسلم نے اپنی صحیح اور ترمذی و نسائی نے اپنی اپنی سنن میں اس حدیث سے بھی محقق مراد لئے ہیں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث میں تین احتمال ہوئے: (۱) قبر کو دیران کرنا۔ (۲) قبر کو زمین کے برادر کرنا۔ (۳) قبر کے اوپری حصے کو مساوی قرار دینا۔ جن میں احتمال اول و دوم تو صحیح نہیں ہیں۔ احتمال سوم صحیح ہے۔ لہذا حدیث نہ کو دلالت کے اعتبار سے ہرگز قبر کے دیران کرنے پر دلالت نہیں کر رہی۔ (اقتباس و تلخیص از کتاب آئین و دہبیت ص ۵۶ تا ۵۲)

اب ہم یہاں پر ایک چیز اور اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر امام علی قبور کے دیران کرنے کو لازم جانتے تھے تو کیوں؟ اپنے دور خلافت میں انبیاء و اوصیاء کی قبور جو بیت المقدس وغیرہ میں تھیں دیران نہیں کیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی اور عصر حاضر میں اگر وہاں لوگ قبور کو دیران کرنے کے قائل ہیں تو کیوں قبر عثیہ بر اکرم و قبر ابو جہر و عمر کو دیران نہیں کرتے؟

وہاںی: قبر نبی و قبر عمر و ابو جہر کو خراب نہ کرنے کی علت یہ ہے کہ ان قبور اور نمازوں کے درمیان دیوار ہے تاکہ نمازی لوگ ان قبور کو قبل قرار دیں

اور ان قبور پر سجدہ نہ کریں۔

شیعہ : یہ کام تو ایک دیوار یا کسی بھی حائل چیز سے ممکن تھا مزید بزرگنبد کی ضرورت نہیں تھی اور اسکے اطراف میں گلدنستوں کی ضرورت نہیں تھی۔

وہابی : میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آیا ہمارے پاس قران سے کوئی دلیل ہے کہ اولیاء اللہ کی قبور کو محل و ضریح وغیرہ ہائیں؟

شیعہ : اولاً تو یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز تھی کہ مساجد وغیرہ بھی قران میں ذکر ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو قران کئی برادر وزن کا حاصل ہوتا۔ ثانیاً قران میں اس موضوع کی طرف اشارے ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ الحج کی آیت ۳۲ میں

پڑھتے ہیں کہ : "وَمِنْ يَعْظُمْ شَعَاعَرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ نَفْوِ الْقُلُوبِ۔" یعنی جو بھی شعاعِ الہی کی تعظیم واحترام کرے یہ ان کے قلوب کے تقوے کی نشانی ہے۔ لفظ شعاعِ شیخہ کی جمع ہے جس کے معنی نشانی کے ہیں اور اس آیت میں مراد وجود خدا کی نشانیاں نہیں ہیں کیونکہ پوری کائنات خدا کے وجود کی نشانی ہے بلکہ اس آیت میں مراد دین خدا کی نشانیاں ہیں۔ (تفصیر مجمع البيان جلد ۲ ص ۸۳)

اور ہر وہ چیز جو لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے ان کی قبور دین خدا کی نشانیاں ہوں گی۔ اب اگر ہم ان کی قبور کو عالیشان بنائیں اور ان کی ترمیم کریں تو ہم نے گویا دین خدا کی نشانیوں کی تعظیم کی ہے۔ لہذا قران میں جو کام خدا کے نزدیک پسندیدہ قرار دیا گیا ہے ہم نے اس کو انجام دیا ہے۔

قرآن میں دوسری جگہ سورۃشوریٰ کی آیت ۲۳ میں ارشاد ہوا: "قُلْ لَا إِسْلَامُ كُمْ

علیہ اجر الامودۃ فی القریبی۔" اس آیت کی موجودگی میں اگر ہم پیغمبر اکرمؐ کے اہمیت کی قبور کو حرین کریں تو کیا ہم نے کوئی خلاف شرع کام انجام دیا ہے؟ جس کا جواب یقیناً نعمیں ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر قرآن مجید کا ایک پارہ بھی کہیں خاک آکو دنیں پر پڑا ہو اور ہم اسے فوراً اٹھائیں تو کیا یہ اس کی توجیہ نہیں؟ اگر فرض کریں کہ توجیہ نہیں بھی ہے تو کیا اس کو ایک خوبصورت خلاف میں پیٹ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں جہاں ان پر گرد و غیرہ نہ پڑے تو کیا یہ بہتر نہیں؟

وہابی : آپ نے جو یہ سب باتیں کہیں بہت اچھی ہیں، مگر قرآن نے اس مسئلے میں صراحتاً کچھ خمیں کہا۔

شیعہ : قرآن میں اصحاب کشف کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان لوگوں نے غار میں پناہ لی تو وہیں گھری نیند سو گئے۔ وہاں کے لوگ جب ان کی خلاش میں اس غار تک پہنچے تو یہ لوگ اس جگہ کی شکل و صورت کے بارے میں بڑا کرنے لگے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ اس جگہ کو قبر نہابنا۔ میں۔ لیکن دوسرا گروہ جو ان کے راز سے آگاہ تھا کہنے لگا: "لَتَخْذَلَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجَدًا۔" (سورۃ کشف آیت ۲۱) یعنی ہم ان کے مدفن کی جگہ مسجد بنائیں گے۔ قرآن نے ان دونوں گروہوں کے نظریے کو بغیر اعتراض کے لفظ کیا ہے۔ اگر یہ دونوں نظریے یا ان میں سے کوئی ایک غلط یا حرام ہوتا تو قرآن قطعاً اسے ذکر نہیں کرتا۔ بہر حال یہ دونوں نظریے ایک طرح سے اولیاء خدا کی قبور کے احترام پر دلالت کرتے ہیں اور تین آیت مذکورہ (۱) آیت تعظیم شعاعر۔ (۲) آیت مودت۔ (۳) لوگوں کے نظریے۔ قبور اصحاب کشف کے مسئلے میں اولیاء خدا کی قبور کو حرین ہانتے کے

ہوئے ہیں۔

شیعہ عالم: اس طرح کی کوئی چیز تاریخ میں نہیں آئی ہے کیونکہ خود آپ کے بزرگ علماء مثلاً ان صاحبِ ماکی (الفصول المہم ص ۱۳)، کنجی شافعی (نور الابصار ص ۲۷)، و فیضی (کفایہ الطالب ص ۳۶۱)، و محمد بن اہل طہ شافعی (مطالب السنول ص ۱۱) کہتے ہیں کہ : "لَمْ يُولَدْ فِي الْكَعْبَةِ أَحَدٌ قَبْلَهُ۔" یعنی علیؑ سے پہلے کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا جبکہ حکیم بن حرام سن و سال میں حضرت علیؑ سے ہوئے تھے اور یہ حضرت علیؑ کے تیز چالاک کینہ پرورد شمنوں کی سازش ہے کہ آنحضرتؐ کے اس انتیاز ولادت خانہ کعبہ کو اس طرح سے جھوٹ پول کر لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیں۔

سنی عالم: خانہ کعبہ میں ولادت ہونا اس مولود کیلئے کیسا انتیاز و افتخار ہے؟

شیعہ عالم: اگر کسی عورت کے بطور اتفاق کسی مقدس جگہ پر چھہ ہوتا ہے تو اس میں یقیناً کوئی افتخار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خداوند عالم کی طرف سے اس کی مدد ہو اور عنایت و کرامات خاص اس آنے والی کی شامل حال ہو اور اس کو خود خدا مقدس جگہ کعبہ جیسے مکان میں خصوصی دروازہ بنائ کر بلائے تو یہ چیز اس عورت اور اس چھکے عظیم مقام و منزلت اور اس کی طہارت فوق العادۃ پر دلالت کرتی ہیں۔ لہذا ولادت حضرت علیؑ خانہ کعبہ میں اسی بات کی نشانگری ہے۔ چنانچہ دیوار کے شکاف ہونے کا مججزہ اور فاطمہ بنت اسد مادر حضرت علیؑ کا بلا خوف اس میں داخل ہوتا، یہ ان کی فضیلت و کرامت پر دلالت کرتا ہے۔ (دلالل الصدق جلد ۲ ص ۵۰۸)

سنی عالم: جب حضرت علیؑ تقریباً بیست سے دس سال پہلے اس دنیا

اجنبی پر دلالت کرتے ہیں۔ (اقتباس از کتاب آئین و بایت ص ۳۳ الی ۳۶) آخری بات یہ کہ بعض کتب تواریخ یارویات میں جو قبور کو بنانے سے منع ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اولیاء خدا کی قبور عبادت گاہ و سجدہ گاہ قرار نہ پائیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ مؤمن خدا پرست پورے خلوص کے ساتھ خدا کے صالح بندگان کی قبور کے کنارے نماز پڑھے تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ خدا پرستی میں اور زیادہ خلوص و تاکید کا باعث ہے۔

(۸۷)

امام علیؑ مولود کعبہ ہیں

اشارة: امام علیؑ کی زندگی کے بے نظر افتخارات و امتیازات میں سے ایک آپ کا کعبہ جیسے مقدس مقام میں متولد ہونا ہے اور یہ موضوع تاریخ شیعہ و سنی کے لحاظ سے قطعی ہے۔ جیسا کہ علامہ امین اپنی کتاب الغدیر کے چھٹی جلد میں اس موضوع کو الجلسہ کی سولہ اصلی کتابوں سے ذکر کیا ہے اور یہ موضوع تو امام علیؑ کے دوسروں پر ذاتی انتیاز کے لحاظ سے زندہ شاہد مثال ہے جو محرفین کے لئے حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حاکم اپنی کتاب مسدر ک کی جلد ۳ ص ۲۸۳ میں ادعا کرتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ یعنی اس قدر زیادہ نقل ہوئی ہے کہ اس کی صحت کے بارے میں علم حاصل ہو گیا ہے۔ اب ذرا ایک شیعہ اور سنی علماء کا اس موضوع پر مناظرہ ملاحظہ فرمائیں:

سنی عالم: تاریخ میں آیا ہے کہ : "حکیم بن حرام" بھی کعبہ میں متولد

اور خدا میزان تھا جس نے ان کو اپنے گھر میں دعوت دی تھی۔ لہذا یہ موضوعِ
لام علیٰ کیلئے ملیے اختار ہے۔ اسی لئے اس موضوع پر خصوصاً لبراءَ اسلام کے
شاعروں نے شعر کے ہیں اور اس موضوع کو ایک فوق العادۃ مجرہ وغیرہ سے تعبیر کیا
ہے۔ بعد الباقي عمری اس بارے میں لام علیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

انت العلي الذى فوق العلي رفعاً بطن مكة وسط البيت اذ وضعا
يعنى آپ علیٰ ہیں جنہوں نے بلند مقام حاصل کیا۔ شکم کہ یعنی کعبہ کے اندر
آپ کی ولادت ہوئی۔ (دلاکل الصدق جلد ۲ ص ۵۰۹) اور ایک فارسی شاعر کتاب ہے:
در کعبه شد تولد و ز محراب شد شہید
نازم به حسن مطلع و حسن ختم او
سی عالم جو گلکت کھاچے تھے مناظرہ ختم کر کے سر جھکائے اٹھ کھڑے
ہوئے اور گھر کو چل دیئے۔

(۸۸)

حدیث "اصحابی کالنجوم" کے بارے میں مکالمہ

شیعہ استاد: ہم معتقد ہیں کہ لامت و خلافت پیغمبر اکرمؐ کی جانشینی،
دین و دنیا کی عظیم ترین ذمہ داری اور سرداری ہیں۔ کیونکہ پیغمبر اکرمؐ کا جانشین اور
قائم مقام و نمائندہ ہونا و راصل اجراء احکام، حفظ شریعت اور فتنہ و فساد کو ختم
کر کے قانون الیٰ کو قائم کرتا ہے۔ چنانچہ اس عظیم مقام کی ہر ایک صلاحیت نہیں
رکھتا، سوانئے ایسے افراد کے جو تقویٰ و چماود علم و زہد و سیاست و عدالت و شجاعت

میں تشریف لائے۔ اس وقت کعبہ میں اور اس کے اطراف میں بتھرے ہوئے
تھے۔ لہذا اس وقت کعبہ کو معنوی امتیاز حاصل نہیں تھا بلکہ مت کردہ شمار ہوتا تھا۔
گویا حضرت علیؑ ایک بت کردہ میں متولد ہوئے۔ لہذا ان کے لئے کعبہ میں متولد
ہونا کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔

شیعہ عالم: کعبہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو اس زمین پر بنائی گئی ہے۔ (سورہ
آل عمران آیت ۹۶) جس کی پیاد حضرت آدمؐ نے بہشت سے آئے ہوئے پھر
محراً سود کے ذریعے رکھی۔ اس کے بعد طوفان نوع میں وہ جگہ ویران ہو گئی۔ پھر
حضرت ابراہیمؐ جو نگہبان توحید تھے انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ کعبہ کے
سلسلے میں پوری تاریخ انبیاءؐ اس بات کی شاہد ہے کہ انبیاء کرام، اوصیاء دین اور
اویماء خدا اور فرشتان مقرب کے طوف کی جگہ رہی ہے۔ اگر ایسی مقدس جگہ پر
بت پرستوں کی سلطنت میں بت پرستی کی جگہ عن جائے تو اس مقدس جگہ کا اپنا
معنوی مقام و منزلت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شراب
کی بوتل مسجد میں لے جائے یا مسجد میں لے جا کر پہنچے تو کیا اس سے مسجد کی اہمیت
کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یا اگر کوئی حالت جنہت میں مسجد آجائے تو کیا مسجد
کی عظمت میں کوئی کمی آسکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ایسے اشخاص تو خدا کے تحت
عذاب کے مستحق ہوں گے جو مسجد کی اس طرح سے بے حرمتی کریں۔ لیکن خدا
کا خود فاطمہ بنت اسد کو وقت ولادت کعبہ کی دیوار کو شق کر کے بلاانا اس کی دلیل
ہے کہ حضرت علیؑ اور ان کی مادر گرامی طہارت کے عظیم مرتبے پر فائز تھے،
نجاست ان سے دور تھی، انہوں نے یہ گناہ نہیں کیا، بلکہ وہ خدا کی مہمان تھیں

رکھتی ہے۔ مثلاً حدیث نقیین سے، حدیث خلفاء سے جو قریش کے بارہ افراد ہیں، حدیث ”عَلَيْكُمْ بِالاَنْتِهَا مِنْ اهْلِ بَيْتِيِّ“ یعنی تمہیں میرے ہبہت کے بارہ امام مبارک ہوں، حدیث ”اَهْلِ بَيْتِيِّ كَالنَّجُومِ“ کے ساتھ، حدیث سفینہ کے ساتھ کہ مثلاً ”اَهْلِ بَيْتِيِّ سَفِينَةٌ نُوحٌ“ اور حدیث الْجُوْمُ ”اَمَانٌ لِّاَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْفَرْقَ وَاهْلِ بَيْتِيِّ لِامْتِيِّ اَمَانٌ مِّنَ الْاِخْلَافِ“ یعنی ستارے الال زمین کو غرق ہونے سے نجات دینے والے ہیں اور میرے ہبہت میری امت کو اختلافات سے چانے والے ہیں۔ (مدرسہ حاکم جلد ۳ ص ۱۳۹) اور دیگر احادیث اور یہ بات بھی قبل توجہ رہے کہ اس حدیث مذکور کو مسلمانوں کے صرف ایک گروہ نے نقل کیا ہے جبکہ ان تمام احادیث کو مسلمانوں کے تمام فرقوں نے نقل کیا ہے۔

تیسرا صورت: بعد از رحلت پیغمبر اکرمؐ جو اختلافات و تکھش اصحاب پیغمبرؐ کے درمیان ہوئی وہ بھی اس حدیث مذکور کے ساتھ مناسب نہیں ہے کیونکہ بعض اصحاب مرتد ہو گئے تھے۔ (مثلاً ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے جو ”اہل رده“ مشہور ہو گئے)۔ بعض نے بعض دیگر پر اعتراضات کے مثلاً اکثر صحابہ کا حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) سے اتنا اختلاف کرنا کہ انسیں قتل نکل کر دیا۔ بعض صحابہ کا بعض دیگر کو لعن طعن کرنا جیسے معاویہ کا حضرت علیؓ پر لعن طعن کرنے کا حکم دینا۔ اس طرح مذکورہ حدیث اس اعتبار سے بھی مناسب نہیں ہے جبکہ بعض اصحاب نے بعض دیگر سے جنگ کی مثلاً طبوخ و نزیر کا جنگ جمل میں حضرت علیؓ سے جنگ کرنا اور معاویہ کا حضرت علیؓ سے جنگ ضمناً میں جنگ کرنا اور بعض صحابہ کا گناہ کبیرہ کا مر نکلب ہونا اور شراب و زنا و پوری وغیرہ کے سبب ان پر حد کا

اور وسعت قلبی میں وسعت نظری میں حسن اخلاق میں اپنے زمانے کے تمام افراد پر برتری رکھتا ہو۔ لہذا ایسا شخص بعد از پیغمبر اکرمؐ رولیات شیعہ و سنی میں سوائے علی انہی طالبؐ کے کوئی نہیں ملتا۔

سی استاد: پیغمبر اکرمؐ کا ارشاد ہے: ”اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم۔“ یعنی میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم نے جس کی پیروی کی ہدایت پاجاؤ گے۔ (صحیح مسلم کتاب الفضائل الصحابة مند احمد جلد ۲ ص ۳۹۸) لہذا اس فرمان رسول اکرمؐ کے تحت بعد از رسولؐ جس صحابہ کی بھی پیروی کی جائے اس میں نجات ہے۔

شیعہ استاد: اس حدیث کی سند سے صرف نظر کرتے ہوئے کچھ دوسرے دلائل قاطع کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی اور غیر معین ہے کیونکہ پیغمبر اکرمؐ نے اس طرح کی حدیث نہیں فرمائی۔

سی استاد: کس دلیل کے تحت؟

شیعہ استاد: اس طرح کی بیان اور جھوٹی احادیث کی بہت سی صورتیں ہیں:

صورت اول: یہ ہے کہ رات کے اندر ہیرے میں چلنے والے مسافر جب لاکھوں ستاروں کو آہماں پر مشاہدہ کرتے ہیں اگر ان مسافروں میں سے ہر ایک اپنی مرضی سے ایک ایک ستارہ کی پیروی کرتا ہوا چل پڑے تو ہر گز اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا کیونکہ ستارے را نہیں بلکہ نور کے ذریعے راہنمائے راہ ہیں۔

دوسری صورت: حدیث مذکور دوسری کی احادیث کے ساتھ تباہ

دخل معه الجمعة؟» (تمامی صحابی کیلئے اصل نام طلاقہ تھا) پر رسول وہ ہے جو
آنحضرتؐ کے ساتھ تھا اور اپنے بھائی اسحق افلاطون مگرایوس کے جانے کر صحابی
رسول وہ نبی چوہانی زنگل کے آنونی فتحیں سکے امیریات تھیں پر اکرمؐ کے مطابق
کلیں کھٹکا لایا تو اسکی روشنی کو تجہیزیں باہر کرنے والا حداود و آخروراتؐ اُنیٰ کے خارج
دھرنا تھا اس حدیث میں معلوم ہوا جو مذکور کردہ اُنہیں کوئی صحابی ہو تو اس کی اعتماد
کو تھے تجہیز اُنہیں ملیں اسکی میں اپنے اسی اکرمؐ کوئی کرکٹ ہوئی تھی بلکہ اُنہیں
اصلاح کرنے اسکا ایسا ہے کہ جو سالم پیغمبرؐ کو چڑھانے دے دے تو یہیں جو مسلمان
تک پہنچتا ہے کہ رولیات کے مطابق سوائے چند نفر مثلاً سلمان و ابوذر و معاذ اور عمر
پیغمبرؐ کے عہدہ ملہ بھوگئے رہے۔ تینوں نے اس کے پر اُن ۱۶۷: ۲۴

٤٩ (٤٩) **عَلَى شَهْرِ شَوَّالِ الْعُتْقَى إِذَا أَتَى الْمُتَّهِي**

۶۔ سید و مسلمان حق بخواهی مسیح پہنچے دوستیان اس طرح صفاتِ مطہرہ ہوں گا
نالہ نہیں حلیماتِ محکم بخوبی کام بخوبی کام بخوبی کرائے تھے نین اسلام کو علم بخوبی کرنے
کے لئے کی اکثر زندگی جگہ ماجنماد ہیں، گزروتی بجھے عظیم برکت کی روزگاری میں
لطفِ خضرات کی امدادات سے جو جنگیں تھیں اور لفڑیوں کیں تھیں اسی طبقاً تھیں حس میں
کسی قسم کی کوئی شب نہیں تھے تکلیمِ علمی کی خلافت جو تعریف یا چارشانی اور فرمادا
تک تھی جس میں کئی جنگیں ہوتیں تھیں جنگِ جمل، جنگِ صحن اور جنگِ نصر و آن
سب تبلیغاتی تھیں لبکھنے والے امنا سب یہ تحدیک آپی پیورگان قدم سے بات چیز

جاری ہوتا جیسا کہ ولید بن عقبہ اور مغیرہ بن شعیب پر حد جاری ہو۔ یا مثلاً معاویہ و علی دو توں صحابی چیخیر تھے دونوں آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے پر لعن کرتے تھے تو کس طرح ممکن ہے کہ حدیث مذکور کے تحت تمام صحابہ کی پیروی کر کے نجات پائیں؟ کیا ”بسرین ارطاة“ جو ایک صحابی رسول تھا اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بیہا چکا تھا، ان جیسوں کی اقتداء کرتا موجب ہدایت ہے؟ کیا مذاقین کی اقتداء کرنا اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہو موجب ہدایت ہے؟ کیا مروان جس نے طلحہ کو قتل کیا اس کی اقتداء موجب ہدایت ہے؟ کیا مروان کا باپ (حکم) جو اصحاب چیخیر میں سے تھا اور چیخیر اکرم کا مذاق ازیما کرتا تھا اس کی اقتداء موجب ہدایت ہے؟ لہذا اس ہدایتہ حدیث مذکور گھفری ہوتی ہے اور خدھہ آور ہے۔

سی استاد: لفظ صحابی میں صرف وہ اصحاب مراد ہیں جو درحقیقت اصحاب تھے نہ کہ جھوٹے اصحاب۔

شیعہ استاد: ایسے اصحاب جیسے سلمان، ابوذر، مقداد و عمار یا سر ہیں نہ کوئی اور لیکن آپ لوگ ان افراد کی جگہ دوسرے افراد کو لیتے ہیں۔ لہذا پھر بھی ہمارے اور آپ کے درمیان کا اختلاف دور نہیں ہو گا کیا یہ بیہر نہیں کہ ایسی احادیث کو لیں جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو؟ حدیث ثقیلین اور حدیث سفیدہ اور دوسری روایات کی مانند جو امام علیؑ کی لامت کی تصریح کرتی ہیں۔ اس لئے روایات میں آیا ہے کہ جب سلمان مدائن کے لئے روانہ ہوئے تو دو افراد اشعث و جویر سے راست میں ملاقات ہوئی وہ سلمانؑ کو نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت سلمانؑ نے اپنا تعارف کر لیا کہ میں صحابی رسول خدا ہوں اور پھر فرمایا: "انما صاحبہ من

فوقیت کے لفاظ سے پیش آنے والے مسائل تھے جن کی وجہ سے جنگ جمل و صفين کی آگ روشن ہوئی۔ جنگ جمل میں طلو و نیر جیسے افراد نے اکار اپنے آپ کو حضرت علیؑ سے برتر پکوئا چلایا۔ وہ لوگ تصریح یا کہتے تھے کہ کوفہ و بصرہ کی حکومت ہمیں دیں اور بیت المال کی کنجی ہمارے حوالے کی جائے۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ تھا کہ کسی طرح سے اپنی بزرگی و برتری و کھاکر اسلام میں بے عدالتی قائم کریں۔ حضرت علیؑ ایسے شخصی مصلحت رکھنے والے افراد کو لوگوں پر مسلط کرنے کے لئے ہرگز راضی نہیں تھے کیونکہ امام علیؑ خدا پرست تھے۔ لہذا مصالح مسلمین و بیت المال کے مسائل میں ہرگز مادہ پرست لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جنگ صفين کے موقع پر بھی معاویہ علی الاعلان حضرت علیؑ سے حکومت شام کا مطالبہ کر رہا تھا تاکہ وہ وہاں کی حکومت لے کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے پیٹ بھرے اور نسل پرستی و قوم پرستی کے لئے حکومت کرے۔ کیا حضرت علیؑ ایسے سختگر اور ہوا پرست افراد کو مسلمانوں کے جان و مال کا حاکم ہاٹکتے تھے؟ کیا معاویہ کی اس طرح کی سازش اور اسلام و مسلمین کے ساتھ خیانت کرنا صحیح تھا اور اسی زمانہ میں ”مغیرہ عن شعبہ“ جو امام علیؑ کو ”النصیحة لامر المسلمين“ کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مگر امام ان سے فرماتے تھے: ”ولم يكُن اللہ ليبراني اتحذ المسلمين عصداً.“ یعنی خدا ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں کسی گراہ شخص کو اپنا نائب بناؤں۔ (وقدۃ الصافین مصر ص ۵۸)

حتیٰ کہ خود امام علیؑ کے بعض فدائکار و مددگار اصحاب (عمران یاسر و ابوالحیثم و یتیمان وغیرہ) نے بھی اگر حالات کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ آپ موقتاً سردار ان قوم کے ساتھ کچھ امتیاز بر تین

کرتے تاکہ یہ جنگیں پیش نہ آئیں اور مسلمانوں کی خونزیزی نہ ہوتی۔ حق جو: ہم امام علیؑ کو ایک انسان کامل اور حق پرست و مخلص شخص کے عنوان سے پہچانتے ہیں جنہوں نے پیغمبر خدا کے زمانے میں مشرکین و کافرین کے ساتھ جنگیں کیں جو اسلام میں رکاوٹ نہ ہوئے تھے اور اپنی خلافت کے زمانے میں بھی ایسے افراد سے جنگیں کیں جو راه اسلام میں رکاوٹ نہ ہوئے تھے۔ مثلاً وہ منافقین جو اپنے کو اسلامی کہ کر اپنے نفسانی اہداف تک پہنچنا جاتے تھے۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو مشرکین کی نسبت ایسے لوگ اسلام کے لئے زیادہ نقصانہ ہوتے ہیں۔

حمدید: امام علیؑ اگر چاہتے تو ”ناکشین“ یعنی بیعت شکن لوگ جنہوں نے جنگ جمل کو روشن کیا، ”قاسطین“ یعنی اسلام کے حقیقی دشمن جیسے معاویہ اور اس کے حمایتی اور ”مارقین“ خوارج سے کچھ فہم اور تباہیت اندیش لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ایسے مال دیتے تاکہ وہ خاموش بیٹھے رہتے۔

حق جو: آپ کی اس طرح کی گفتگو سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام رہبر جو اپنے ذاتی اہداف کو مصالح الہی پر مقدم کرتا ہے اور ایک رہبر الہی جو فرمان خدا کو جاری کرنے میں کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی فرقہ نہیں کرتا، آپ نے ان دونوں کے درمیان کوئی فرقہ نہیں رکھا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم بطور خلاصہ امام علیؑ کے دور خلافت کی تین اصل جنگوں کے عوامل کی تحقیق کریں تاکہ یہ موضوع روشن ہو جائے:

۱۔ جنگ جمل و صفين کا اصل سبب وہی زمانہ چالیس کے اختلاف طبقات

کی تقلیل میلائیت ہے تو یہ کو رہنمای میں، المام علیٰ اپنے تھاں اکبہ، مہملہ، شخصی کو اسلام کے
نحوں کی واجہائی، مسائل کے سامنے فتویٰ کروں ہیں تاکہ ہر رفاقتی کا، مسلمانوں کیلئے، کوئی بھی
سامنے اٹھ کر رہا ہو اور کبھی خالموں کے سامنے نہ بچکے تاکہ معادیہ (ایزیور جیسے) لمحہ
اپنے اکابر کا نجی محتل پہنچیں ہے، ۱۶۷ تا ۱۷۸، ۱۷۹ تا ۱۸۰، ۱۸۱ تا ۱۸۲، ۱۸۳ تا ۱۸۴، ۱۸۵ تا ۱۸۶۔
(۹۰)

تیباً بـ اللہ، ان انجمنات ائمۃ کے بلاءہ میں مکالمہ و زمانہ۔
۱۸۷۔ اعتماد گیرنے والے ایسا بیان کیا کہ ایسی روایات پڑھا جن میں غیر یہ
کہ فالِ امام نے فلان شخص کو اتنا تالیث کیا کہ اسے رولیات، سمجھ ہے کہ اسے رولیات
نے اتنا تقدیر نہیں دیتی، یہ کوئی اس سبک کا نکار کیوں نہ کیا جائے اور کیوں نہ کیا
روایات اتنی تبادلہ نقشی ہوئی، یہ کوئی اس سبک کا نکار کیوں نہ کیا جائے اور کیوں نہ کیا
روایات کی تصدیقیں ہیں جو علم رہنمودہ ان روایات میں پیسے مل کر فلسفہ شمار روایات
فکر کرتا ہو رہا ہے اللہ؟ ۱۸۸۔ بلاءہ میں اتنا بیان ہے اور ایسا
اپنے تا یا عبد اللہ حسن رضی اپنے جرسی امام ایمان میں کسی فیض نہ کو سورہ حمد تکمیل کیو
آپ۔ اپنے اخراج کے طور پر اسیں تیار کرنے والے ہر ایمان عطا کئے اور "بھر والد"
سے ان کے منہ کو پیدا کر دیا (ستاقبِ آں ایلی طاہب جلد ۲۶) ۱۸۹۔
۱۹۰۔ اپنے فقیر اسماں امام رضا کے پاس آیا اور کہنے لگا میرزا رضا سفرِ ختم ہو گیا
ہے بھی پورت و مدن تک بھیچھے تک جائے کہچھ خود بیل اور جب میں وہن ہیچھے کیا
تو ایسا ہی مال میں آپ کی طرف سے فقرام میں تقسیم کروں گا۔ امام رضا اسے اور

تلار وہ لوگ بغاوت نہ کریں مگر امام علیٰ نے ان لوگوں کی وجہ میں فرمایا:
۱۹۱۔ اقامہ اونی اذ اطلب النظر بالجواب فیمن ولیت علیہ بِوَاللَّهِ لَا اظُرْرَبْ مَا سُمِعَ
سُمِعَ وَمَا لَمْ يُحْمَلْ فِي السَّمَاءِ تَحْمَلْتَ، یعنی کیا مجھے مجبوئی تاختت افراط پتھر و
ریشم کرنے کو کہتے ہو خدا کی قسم جب بکھر دیجتا ہے تو ہر مسلم مختار و مختار نہیں
بیچھے کر دیش کر رہے ہیں ایں ایں ہر کو ایسا کہم: نجیل کہوں کہاں علیٰ مکہ اس طرح
کہ عدل و انصاف کے سامنے ان سو میل پرست میں پرست عبیون خاچ محل نہ
کہ ایک ایسی لئے انہوں نے امام علیٰ کے سامنے بھکر جعل اور جگ صین و دوش
کہنے اور ایسی جگہ میں ایک سوران جگ نہ زوال اللہ بھی بول پا کی۔ معاولانی کی صلی طلاق اور
قرآن کو نیزوں پر بسید کرنے والے اشکر بعلی میں یعنی سیمیں بعلی سجنی۔
۱۹۲۔ "الْحَكَمُ" کا قصہ میں ایک کج فتح خوارج نہار، امام نے وفادار مجاہدین کو جن کو
خوارج کا فریضہ دے دیا تھا کہ در جان پھر پیس ہوئے لگیں جس کے نتیجے میں
بھکر شریان ہیش کی اور ان خوارج میں اسے ایں احمد جیسے ازادِ اجلی امام علیٰ کی
پورتگالیوں اکابر امام کو شہادت تک پہنچا کر ایسی چھوٹی لصڑکِ المعنی کی
ہدایتِ اصلیٰ اسے تاختت جیسا کہ لوگ خود کہتے تھے کہ: "تغلی علیٰ الشہادۃ عدله"۔
۱۹۳۔ میں اپنی مشتعل عدا افت کی خاطر خدا شدید کے کئے اس لئے امام علیٰ کے سرپرزا
جلبِ رغبتِ گئی تو اکپر نے فرمایا: "فَرَأَيَ الْكَعْبَةَ تَعْلَمُ بِرَبِّكَ لَا يَكُونُ قَبْرَكَ
کا مزار، وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مَذْكُورٌ امامٌ علیٰ تک کہ میں نہیں تھیں اور مصلحتِ ماری و
یعنی کی خاطر اسلام کی اصلیں، ایجاد و ارتقا کا ہی انہ لاؤ کھیں بھکر اپنی کی اکھیانی
لئن میں تھیں کہ تاختت تک اسلامی احکام خدا الخ توبیتی برکھیں اور تہریتیں اسی نیشن

دوزخ کی اس طویل عریض آگ سے نالہ د کرو؟ (نوح البانہ خطبہ ۲۲۳)

استاد: تم اس بات میں غلطی کر رہے ہو کہ جو تصور کر رہے ہو کہ امام کا ذریعہ معاش صرف بیت المال تھا اس طرح ایک طرف امام علیؑ کا خبر اتنا کہنا اور وسری طرف بیت المال کے مسئلے میں بختی کرنا دتوں کو آپس میں تضاد بکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اماموں کے ذرائع معاش مختلف تھے لیکن سب بیت المال کے مسئلے میں اتنی ہی احتیاط کرتے تھے جتنی امام علیؑ کرتے تھے۔ مثلاً خود امام علیؑ نے ۲۵ سال کی عمر میں جب خلافت عمر وابجز و عثمان (رضی اللہ عنہم) کے زمانہ میں دیکھا کہ شیعہ اتفاقاً میں لحاظ سے بختی کی زندگی سر کر رہے ہیں اور شیعہ کی حفاظت دراصل اسلام حقیقی کی حفاظت تھی۔ لہذا آپ ۲۵ سال کی عمر سے بھتی باڑی کے کام میں مصروف ہو گئے۔ جنگلوں کو آباد کرتے اور وہاں کی آمدی شیعوں کو خوش دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ سب کی مدد کرتے تھے اور پھر وہی آباد جگہیں اور باغ وغیرہ اپنے شیعوں کو وقف کر دیتے تھے تاکہ آپ کے شیعہ اس کی آمدی کو مسلمان فقراء اور شیعوں کی مدد میں صرف کریں۔ امام حافظ، امام باقرؑ، امام کاظمؑ اور دوسرے ائمہؑ بھی بھتی باڑی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تجارت پر آمادہ کرتے تھے کیونکہ ائمہؑ جانتے تھے کہ شیعہ فخر و فاقہ سے بخیگ آکر دوسروں سے جاملیں۔ لہذا ائمہؑ کی جو بھی آمدی ہوا کرتی تھی اس کو شیعہ کی حفاظت کرنے کے لئے صرف کرتے تھے نہ کہ بیت المال کو ہٹا کرتے تھے۔

شاعر: میں آپ کے اس منطق بیان سے بہت خوش ہوں اور قائم ہو چکا لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ اس مضمون موضوع کو تکملہ کرنے کے لئے

گھر کے اندر جا کر دوسورہم کی تھیلی لا کر اسے دی اور کہا: میں نے یہ تھیس خشی ضروری نہیں کہ وطن پہنچ کر تم اتنی ہی میری طرف سے صدقہ دو۔ (فروع کافی جلد ۲ ص ۲۳)

۳۔ امام سجادؑ نے بارہ بزرار درہم فرزدق ناہی شاعر کو زندان میں بھجے اور پیغام دیا کہ تھیس میرے حق کی قسم اس کو قبول کرو اور فرزدق نے بھی امام کا بھجنا ہوا ہدیہ قبول کیا۔ (انوار النہیہ ص ۱۲۵)

۴۔ دعلیٰ ناہی شاعر نے جب امام رضاؑ کے سامنے فضائل و مصائب الجیۃؑ میں شعر کے تو امام رضاؑ نے سو درہم کی تھیلی اسکے پاس بدیہی روانہ کی اور دعلیٰ نے وہ ساری رقم جو امامؑ کے نام پر اسے ملی تھی عراق کے شیعوں کو فروخت کی جس کے لئے ہر دینار کے بدالے سو درہم ملے۔ اس طرح اس کی زندگی خوشحال گزرنے لگی۔ (عیون الاخبار الرضا جلد ۲ ص ۲۳۲) اس طرح کی روایات بہت زیادہ ہیں۔

شاعر: اگر یہ روایات صحیح ہیں تو امام علیؑ بیت المال کے مسئلے میں اتنی زیادہ احتیاط کیوں کرتے تھے کہ سب میں مساوی تقسیم ہو؟ مثلاً خود امام علیؑ کے بھائی عقیل نے جب اپنے حصے سے کچھ زیادہ مال "جو کہ آنا تھا" طلب کیا تو آپ نے لوہے کی سلاخ کو آگ میں گرم کر کے عقیل کے جسم سے نزدیک کی جب عقیل نے اس کی گری محسوس کی اور نالہ و بکار نے لگے تو امام علیؑ نے ان سے فرمایا: "اے عقیل! ہور تیس آپ کے غم میں بخیں انسان جو اپنے ہاتھ سے آگ روشن کرتا ہے اس سے اچا گھبراتے ہو اور مجھے آتش جنم کی طرح بھجنا چاہتے ہو جو خدا جبار نے روشن کی ہے تم اس ذرا سی آگ سے نالہ و بکار کرتے ہو اور میں

میرے رہائی میں جو ایک علاوی ابتدی کی آہنی کی ایک روشنیوں کا ذکر کر رہی ہے،
استاد بیوی قمری نے بہت اچھا تفاصیل کیا ہے۔ اس میں بطور بحثنا تمہارے
لئے چند واقعات میان کرتا ہوا فرماتا ہے۔ اس نے اسی سے اس کے بعد جو
امام علی پتے تو باقاعدہ جن کو تقبیٰ میتے تاکہ کیا تعالیٰ نہ کو جو اکابر مسلمان
تھا علی دیے ہے اسی دونوں ماعونی میں ہے ایک بارگاہ امام "بیوی قمری" تھا جو یوم
باغ کا نام "یعنی" تحد العینہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں باغ میں تھا کسی لام اعلیٰ یا بغ
میں آئیے اور کھنچ لے گئے کیا تمہارے یا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تب فرشتہ جو اس پالنگ کو
اجزیت سے بخوبی کاٹا جائیں جو کھنچ میں ملکیت ہو اتھا کبھی کبھی کھا۔ امام نے فرشتہ کیا اور
کھنچ، بھاگ لے کر گڑھا کھنچتے گئے کافی درج تکمیل کھو گئی لئے کہ بھنچنے سے شر ایون
باہر آئے اور پھر جلد اتنا کھو دا کر اونچتے گئے کہ دن کا کام ہے وہی بھنچ لے کے
بعد آپ نے کہا: اے بیوی قمری! اس خدا کا گواہ قرار میا ہوں۔ جس کے قبضہ قدرت
میں میری کی جان ہے میں نے یہ کتوالا اوس باغ تکمیل و قبض کیا۔ پھر آپ نے کاغذ قلم
ہٹک کر وقف نامہ لکھ دیا۔ کہ امام حسین نے اپنے نامے میں ایک بڑا جو جس
قریوں پر ہوئے اور بھاگ ہے نے دولا کھو دیا تھا۔ اس کیا وہ باغ اور وہ جو شہر بیوی قمری
فرودخت کر دیا تھا امام حسین نے قبول نہیں کیا اور کہا ہم یہی والی نے اکد باغ و
چشمی کو بیوی قمری کے قام و قبض کیا ہے میں قیامت تک اسی صورت میں بھی اس باغ کا
کنوں کو فروخت نہیں کر دیا گا تاکہ آتشِ جنم ہے محفوظ ہوں۔ (جم المدائی)
جلد ۲ پاکستان

لام باقی ایک دفعہ بیکھر لے گئے تھے زمین پر کھو ہے میں معروف تھے کہ ایک

نامہ بھاگیں کا ہائی محکمہ ملکیت کا آجھہ پر امعنی لفڑ کرتے ہوئے جو اسی نامہ قریلہ
و غائب ہے اور کہا تھا کہ اگر اپنے اکابر مسلمانوں کی بزرگی کی موت
ہوں گلے (ایک شاد بخوبی جسے ۱۸۷۳ء میں بکار الہو سائیں جلد ۲ ص ۱۵۱) فروع کافی
جلد ۲ ص ۱۵۹ میں ہے) اس نے اسی سے اس کے بعد جو اسی نامہ
۲۔ (اویز جو بیچنے والے بھائیوں کو بھائیوں کی بزرگی و فحصلہ میں ایک بھائی
گزرے تو دیکھا کہ امام کا ظلم اس میں کام کر رہے ہیں اور آپ کا سارا جسم پینے سے
شر اور ہے۔ میں نے عرض کیا: آپ (کھاک) غلام اور دوسرے لوگ کہاں ہیں
جو آپ یہ محنت کر رہے ہیں؟ پسی کہنے فرمایا: جو احمدؑ کے لئے میرے والد سے بھی
مظہر تھا وہ بھی پتے کاہم اکیا کہستہ تھا میں نے عرض کیا اس ایسا بھی کون لوگ
تجھے ایام کا ٹھہر نے فرمایا: رسول اللہؐ اور امداد المؤمنینؐ و آیتی کلہیتؑ کا لیوا قدہ
عملیق پاکیدیم اور ہوئے ہیں عمل النبینؐ والیور سلیمانؐ والاصحیاء و الصالحینؐ۔
یعنی وہ لوگوں کو جو ایک ایسا کوئی نہیں کہا جائے اور میں نے تمام احمد اور تھوڑا تھنہ تھے کہ
کیا کرتے تھے کیونکہ کام کرنا انجام پورا میں نے اسی کا صاریحی کی خصوصیات میں
سے تھے۔ (فروع کافی جلد ۲ ص ۱۵۹) اسی سے: یاد گیریہ: ڈاکٹر یاریہ: ڈاکٹر یاریہ:
ابو نہ بشکر فی آجید کے واش و پوش اور تخلیق کنندہ میانش کا شکر ہے لیکن آپ
اہم یوں خوبی ہے اور بھی پڑائیں میان کریں ایکسر میں اور زیادہ استفادہ ہو سکوں۔
۳۔ استاد: ایک مغلب بھی واش ہے کیونکہ میانوں میں کوئی
شیوں کی پوچھ میان کے اور فقرہ فاقہ کے شکار ہوئے ہیکے تھے تھا

آئی کہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اس لئے میں نے خدا کے سامنے اس کی نعمتوں پر
شکر ادا کرنے کی خاطر سجدہ کیا۔ (حدائق الانوار جلد ۲ ص ۵۷)

سننے والے محدثین نے خطیب سے سوال کیا کہ آیا خدا کی آواز ہے جو
خیبر اکرم نے سنی؟

خطیب: خدا آواز کو کسی فضاء یا کسی مکان میں ایجاد کرتا ہے اور خیبر
اکرم اس آواز کو سنتے ہیں۔ اس سے بھی روشن تریوں عرض کروں کہ خیبر ان خدا
کا خدا سے ارتباط تین طرح کا ہوتا ہے۔

- ۱۔ القاء قلبی کے ذریعے جو کئی انبیاء کے پاس وہی ہونے کا یہ طریقہ تھا۔
- ۲۔ جرأۃ کے ذریعے وہی کا آنا، چنانچہ یہ موضوع سورۃ بقرہ کی آیت ۷۶
میں ذکر ہوا ہے۔

- ۳۔ پرده حباب کے پیچھے سے آواز کو ایجاد کرنا جیسا کہ حضرت موسیٰ کے
ساتھ خدا کا کلام کرنا کوہ طور پر جو سورۃ نساء میں اس طرح نقل ہوا کہ: ”وَكُلِّمَ
اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا.“ یعنی خدا نے موسیٰ کے ساتھ گفتگو کی اور سورۃ طہ کی آیت
نمبر ۱۱ و ۱۲ میں نقل ہوا: ”فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ أَنِّي أَنَا رَبُّكَ.“ یعنی جب
موسیٰ آگ کے قریب آئے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار
ہوں۔ لہذا وہی انبیاء کے یہ تین طریقے ہیں جن کی سورۃ شوریٰ کی آیت ۱۵ میں
تصریح کی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ خدا آواز کو فضا یا کسی مکان میں ایجاد کرتا
ہے اور خیبر ان اس آواز کو سننے چیز اور یہ بھی وہی کا ایک طریقہ ہے۔

محدثین: ہم محدثت چاہتے ہیں کیونکہ صحیح تھے کہ شاید وہی کی

لہذا بیت المال سے اس بات کے تحت کہ افراد، تقریباً ہو جائز تھا کہ اپنے لوگوں
کی مدد کی جاتی تاکہ ان کے ذریعے اسلام محمدی و علوی دشمنوں کے نیاک باتوں
سے محفوظ رہے کیونکہ مصارف بیت المال میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں اس
سے دین مسکن ہو رہا ہو اور دین کی حفاظت ہو رہی ہو۔ (سورۃ انفال آیت ۳۳ اور
وسائل الشیعہ کی جلد ۲ میں اس مسئلے کی طرف اشارہ و احادیث موجود ہیں)

(۹۱)

مقام علیٰ اور مسئلہ وہی پر مباحثہ

مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی ایک عالم دین امام علیٰ کی شان میں منگٹو
کر رہے تھے کہ درمیان میں اس روایت کو نقل کیا کہ ایک دن رسول خدا علی و
فاطمہ و حسن و حسین کے ساتھ تشریف فرماتے۔ آپؐ نے پانی منگولیا جب پانی آیا تو
آپؐ نے وہ گلاس پہلے امام حسن پھر امام حسین پھر حضرت فاطمہؓ کو دیا اور فرمایا:
”هَبِّنَا مُرِينَاللَّهِ.“ یعنی یہ لو اور اس میں سے یہ لیکن جب وہی طرف حضرت علیؓ
کے آگے پینے کے لئے بڑھایا تو فرمایا: ”هَبِّنَا مِرِينَاللَّهِ يَا وَلِي وَحْجَتِ عَلِيٍّ خَلْقِي“
یہ لو پہنچے میری طرف سے تخلوقات خدا پر ولی و حجت۔ پھر آپؐ سجدہ میں جا کر
سجدہ خدا چالائے۔ فاطمہؓ نے رسول خدا سے سوال کیا آپؐ کے اس سجدے کا راز
کیا تھا؟ آپؐ نے فرمایا: جب تم میں سے ہر ایک نے پانی پیا اور میں نے ”تو ش
جان“ کیا تو میرے کافنوں میں آواز آئی کہ تمام فرشتے اور جریں لیں بھی یہی کہہ رہے
ہیں لیکن جب علیؓ کو میں نے پانی دیا اور یہ جملہ کہا تو مجھے ذات باری تعالیٰ کی آواز

توانی " تم پر لگا مجھے بھیں وکیل کئے ہوئے۔ اسی طرح اور بھی امور دینیں جو قرآن میں روایت خدا کے بلائے ہیں ذکر ہیں نے پیش کی (مختصر تعریفہ کی آئیت ۵۵) ابدا میرا سوال اپ سے یہ سوال تھا اس کی آئیت ۵۵ کا لوز تصور کا عرف کی آئیت ۵۵ (ابدا میرا سوال اپ سے یہ پیش کر رہا تھا کہ بالغہ جسم ہے تو بھی عذاب کا دفعہ جنم تو حضرت مولیٰ علیہ السلام بعینہ بیان کیا ہے اس سوال کو ایسا جواب دیا گیا کہ اسی سوال کو ایسا جواب دیا گیا کہ اسی سوال کو ایسا جواب دیا گیا کہ اسی سوال کے پڑی چھتری اسی سوچی اور فکری اعتبار سے یقینی کامن حاصل کر رہا چاہئے ہوں جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے حقیقتِ حجامت کے سطح پر اس سوال کیجا تھا: "لیظعن قلیلی" کلام اکر معنی ہاگر میرتے تقلب کو باطلیان و یقین کامن حاصل ہو جائے گے (بیورہ بزرگ آیت: ۳۴۰) اور میسے بھی دی کلمہ شروعیت "کسی معنی لیں استعمال نہ مٹا جے اخلاق کسی اکیس کیا کر این اپنے میں فکار کام کرنے کی خواہیں نہ ادا کا دیکھا رہا ہوں جلد طلاقیت و قدرت ریکھنے والی چوریں نہیں ہیں بلکہ اس نے خدا کے آجے کو اسی حالتِ محبوس کر لیا ہوں۔ لے لائیں میں اپنے ایک ایسے طالب علم ہے اسی طرح کی تغیریت کو تیکتے ظاہری معنی کے تلاف ہے کیونکہ آئیت میں اللطف از ایل ہے یعنی بخوبی کوئی محظی نہیں۔ پیش مختارہ، حشمہ نہ از بے امر خدا بھی جو جواب دیتا ہے کرتے لیں تو ایسے یعنی تم پر گرفتاج میں دیکھ لئے اس سے ظاہر ہو جائے کہ حضرت موسیٰ کام سوال روایت ہوئی تھی اور گرامی کی طرف از

طرف ایک ہی فلم ہے اور وہ جو سلسلہ میکے ذریعے ہے لیکن آپ کی انہیں صاحب
سے یہ مطلب ہمارے لئے واضح ہو گیا اور حضراں یہ بھی بحث گئے جس پر جعلیٰ کو
پارگاہ خداوندی میں کیا مقام حاصل تھا کہ خدا علیٰ کے لئے چیزیں پیغمبر کے ہم صدا
ہو کر کے : ”ہنسنا مریتا لک“ لیکن ایک اور آپ سے سوال ہے وہ یہ کہ کیا آپ یعنی
قرآن کے علاوہ بھی کیا دوسرے مطلب پیغمبر اکرمؐ پر بہت ہے تھے ؟
خطیب : جیسا ہے پیغمبر اکرمؐ قرآن کے علماء ہی ہے اپنے کام میں کافی کیا
کرتے تھے جو کہ سب آپ کو وحی ہوا کرتے تھے وہ یہ گزر کو حل بھی بات اپنی طرف
کے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ صرف وحی بالیٰ اُنکے تحت مدارف و مظاہم اسلام کو میان
کرتے تھے جس کا سودہ بھی آج ہے ؟ لیکن میں پوچھتے ہیں ؎ یہاں پستہ
الہوی۔ ان ہو الا وحی یوحی۔ ”یعنی پیغمبر اکرمؐ اپنی ہوئی فرسیدہ کے تحت
کوئی بات نہیں کرتا جو بھی کرتا ہے وہ وحی کے ذریعے ہے ۔ ۔ ۔

(۹۲) ”الْمَلَائِكَةُ لَا يَرَى نَبِيًّا لَا يَرَى رَسُولًا لَا يَرَى الْأَنْبَاءَ لَا يَرَى
الْمُلَائِكَةَ لَا يَرَى نَبِيًّا لَا يَرَى رَسُولًا لَا يَرَى الْأَنْبَاءَ لَا يَرَى
الْمُلَائِكَةَ“۔ ”شل رویت خدا کے مسئلے کے لئے ایک مکالمہ“ (۹۳) ”
ایک محفل جس میں یہ محسوس ہے یوگ خانہ تھے ایک عالم دین اور طالب
علم میں اس طرح مناظرہ شروع ہوا: ”لے کر نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ
طالب علم“۔ ”یہ میراث امیراف کی آپستہ“۔ ”لیکن میں جسم کے پیچھے ہیں کہ
حضرت موسیٰ نے خدا سے یہ بخش کی ”رب ارني لفظ الہیت“ یعنی اپنے وہ دگار
تو ہے آپ کو مجھے دکھانا کر میں تھیں دیکھو۔ لیکن خدا ہے ان کو مجھے دیا: ”لن

گواہی روئی و نکری تھی اور دیدار باطنی مراد تھا تو ہرگز خدا کا جواب فتحی میں نہ ہوتا کیونکہ اس طرح کا دیدار باطنی تو خدا نے اپنے برگزیدہ افراد کو کرایا ہے۔

عالم دین : فرض کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اصلًا خدا کو دیکھنے کا سوال ہی تھیں لیکن جیسا کہ ظاہر آیت سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر اس واقعے کے تاریخی منظر کو ملاحظہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ سوال ان کی قوم کے شدید اصرار کی وجہ سے تھا یعنی قوم آپ سے اس قدر مختصر ہوئی کہ آپ نے مجبور ہو کر اس طرح کا سوال کر دیا۔

مزید وضاحت : یہ کہ فرمونیوں کی بلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل میں اس طرح کے واقعے پیش آئے اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک دفعہ جمع ہو کر حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نتیجتاً حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ستر (۳۷) افراد کو تیار کیا اور اپنی عبادت گاہ ”طور“ کے پہاڑ پر لے گئے اور ان کے سوال کو خدا کے سامنے عرض کیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو وحی کی ”لن ترانی“ (سورہ اعراف آیت ۱۲۳) اس جواب نے بنی اسرائیل کے سامنے تمام باتیں روشن کر دیں۔ لہذا حضرت موسیٰ نے بیان قوم اس قسم کا سوال کیا تھا کیونکہ وہ ان کے اصرار کے درمیان گرفتار ہو چکے تھے اسی لئے جب ”زلزلہ“ آیا تو وہ تمام ستر افراد جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کی:

”انہلکنا بما فعل السفهاء هنا۔“ (سورہ اعراف آیت ۱۵۵) یعنی کیا ہمیں ہمارے

ان سخنہوں لوگوں کے سوال کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔

خاتمه گفتگو : یہ کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ سے کہا: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے لیکن اس کوہ طور کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ لہذا جب پروردگار عالم نے کوہ طور پر اپنے نور کا ذرا سما جلوہ دیکھایا تو وہ پہاڑ پور چور ہو کر زمین پر ڈھیر نما ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے ہوش ہو کر زمین پر گرے، جب ہوش آیا تو کہنے لگے: ”سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔“ یعنی بے شک تو مژہ ہے (اس سے کہ دیکھا جائے) میں تھوڑے توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مؤمن ہوں۔ (سورہ اعراف آیت ۱۲) جلوہ الہی کا پہاڑ پر رونما ہونا ایک شدید موج و زلزلہ کی مانند جس سے پہاڑ کے ذرے ذرے ہو گئے اور موسیٰ اور ان کے حواری مدد ہوش ہو کر رہ گئے۔ خدا اپنی اس قدرت نمائی کے ذریعے موسیٰ کے ہمراہیوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تم خدا کے آثار میں سے اس ذریعہ سے اثر کو دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے تو کیوں کر خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تم ہرگز اس مادہ والی آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے اس خدا کو جو مجرد مطلق ہے۔ یعنی وہ مادے وغیرہ سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کا توبہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے لوگوں کے کئے پر لوگوں کی نمائندگی میں رویت خدا کا سوال کیا تھا لہذا شہ کو دور کرنے کے لئے ضروری تھا کہ موسیٰ اپنے ایمان کو آشکار کر دیں تاکہ ان کے حواری جان لیں کہ اس طرح کا ہے ہودہ اور برخلاف ایمان سوال خود ان کی طرف سے نہیں تھا بھی وہ سوال خود ہمراہیوں کی نمائندگی کی وجہ سے تھا۔

طالب علم : آپ کی اس وضاحت کا شکر گزار ہوں بے شک میں قانع

ہادیان قوم کی جانب سے تھا۔ (تفسیر فخر رازی جلد ۷ ص ۹)
 واضح عبارت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی جاہل قوم کے اصرار اور
شدید دباؤ سے مجبور ہو کر یہ سوال کیا تھا تاکہ خدا روز روشن کی طرح اس قوم کی
ہدایت کر دے۔ اور حضرت موسیٰ کے ہاتھوں میں شیشیوں کا نٹ جانا اگرچہ ایک
سادہ سا واقعہ تھا اور ممکن ہے کہ قوم موسیٰ میں ایسے افراد موجود تھے جو اس قسم
کے سوالات کی حکمرانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ بھی ان کی ہدایت کی
خاطر خدا کے سامنے ایسے سوالات پیش کرتے تھے تاکہ میں جوابات سے ان کی
قوم اس گمراہی سے نجات پا جائے۔

(۹۳)

مسئلہ مر پر حوث

طالب علم : ہم نے بارہا سنائے کہ اسلام تاکید سے عورتوں کے زیادہ
مر قرار دینے سے منع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا: "شوم المرءة
غلاء مهروها۔" یعنی بخس قدم ہے وہ عورت جس کا مر زیادہ ہو۔ (وسائل الشیعہ
جلد ۱۵ ص ۱۰) اور فرمایا: "افضل نساء امتی اصبعن وجهها واقلهن مهروا۔" یعنی
میری امت میں بھرپور عورتیں وہ ہیں جو خوش اخلاق ہوں اور ان کا مر کم ہو۔
(وسائل الشیعہ جلد ۱۵ ص ۱۰)۔ لیکن قرآن میں دو مقامات ایسے ملتے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ گویا قرآن نے زیادہ مر قرار دینے کو اچھا قرار دیا ہے۔

عالم دین : قرآن میں ایسا کہاں ہے؟

ہوا امید ہے کہ اسی طرح کی متعلق توضیحات سے ہدایت المدارسِ تشبیفاتِ حور ہوں
جائیں گے ایک اونچا جگہ ہے جو الشفاعة اللہ تعالیٰ کے سرخی سوالاتِ غزوہ کا جگہ
شیخ ہے تا بعائد بدریت کا رطابیہ کی باتیں لا دینا ہے اکہ المختص کے اکہ فہریں آئیہ
ایکڑی (ابحورۃ الفرقۃ ۵۵ ص ۶۴) میں اسی مذکورہ مطلب کی ماہرین قصہ المثل کرنے ہیں جسیں
کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا انکے سے سوال کیا
کہ کیا یہاں اپنے اپنے ملک سے متسلسل ہے (ایمانی ایسی میثاقیہ متوالی کیا) خداوند عالم نے فرشتوں
کو کوئی کسی جزو کی کوہ سلطنت نہیں دیتا بلکہ اگر بخوبی قرضت میوائی فتح کو "تمن مرفعجا
پخولب لئے الیہ لا کیا اور سختے نہیں لیتا جبکہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ کو اپنے گھنی کا
احسان ہو رہا ہے اور سو ناپلائی ہیں تو وہنی اللہ کے تحت پانی کی سفری اور ہشیقیان
میں اسکتھا تھا جن میں ایں اللہ ان کو پھر دیں۔ مکن آزادہ فرشتوں پر گلاہیں پڑھ لجھا
انہیں گزندے تھے کہا حضرت موسیٰ نے کوئی بھی آئنی اور شیخیں ان کے سامنے ہوتے گی کہ
نٹ کیں۔ ڈھنڈنے پا ہمچنان موسیٰ کو ہوتی کہ کہ نٹ لازمی و مسماں نے کوئی اپنی قدرات
سے نٹ دو سکے ہوتے ہوں: "فَلَمَّا مُخْلِلَنِي عَوْمَ اَوْ فَلَمَّا لَوَّعَهُ اَوْ فَلَمَّا لَوَّحَهُ اَوْ فَلَمَّا
عَلَمَ اَوْ اَلْمَعَنَ مَعَهُ بَقَرَ بَلْيَنِي جَلَدَهُنْ حَفْرَهُ هَذَا" تفسیر فخر رازی جلد ۷ ص ۹
یعنی گل رنجھنے نہیں لیں گوں کی اگستودین و کلمن غلاظ ہو کر لادہ جائیں گے رہا۔
نہ نا سائبیاں پوچھیں اسی احوال اسوان پسے کہ حضرت نے فرشتوں کے سامنے طریق کا
سوال کیا کہا جیکہ اور پھر اسی احوال اسوان پسے تھے کہ غلکو جسم نادی کی تاہنلہ کی کمی بھی
نہیں آتی۔ فخر رازی پاس سوال کئے طلبہ میں فرشتوں تھیں کہ مگر انہیں دو دو یہ
فہ کوئی کوئی نہیں تھی تو میزرا لیے کتاب پہنچنے گلکا اضطریت نہیں کہیا احوال ان کی

پس پر دہ تخفی ہوئی عورت میں بھی عمر سے زیادہ قابل ہیں۔ (تفہیر الدوائل التور جلد ۲ ص ۳۳۳۔ تفسیر ابن کثیر جلد اول ص ۳۶۸۔ تفسیر قرطبی و تفسیر کشاف وغیرہ)

عالم دین: اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ اگر کوئی اپنی سابقہ بیوی کو طلاق دے کر دوسرا شادی کرتا تو اپنی پہلی بیوی کو مردے پکا ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ اس پر زبردستی کرتا، ڈراتا، دھمکاتا تاکہ وہ خود مرد اپس کر کے طلاق طلب کر لے اس طرح وہ پہلی بیوی سے مر لے کر دوسرا بیوی کو دے دیتا تھا جو کہ عام طور پر پہلے دے دیا جاتا تھا۔ لہذا آیت مذکور نے اس کام کو شدت سے منع کیا ہے۔ اسی لئے قرآن فرماتا ہے کہ: ”چاہے تم نے اس مال کثیر ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے اس سے جبرا کچھ نہیں لے سکتے۔“ لہذا جو چیز اسلام کی نظر میں اچھی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ مرد کو زیادہ قرار دیا جائے۔ لیکن اگر یہ نیک کام ترک ہو گیا اور مرد زیادہ رکھ دیا گیا تو اب عورت کی اجازت کے بغیر اسے کم نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا انہوں کو آیت کا مرد کم رکھنے کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہیں ہے۔ عمر کے قصہ اور عورت کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ عورت نے صحیح کہا، کیونکہ عمر (رضی اللہ عنہ) نے کہا تھا کہ اگر مرد چار سو درہم سے زیادہ ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر حد جاری کروں گا اور چار سو درہم سے زائد مال اپس لے کر بیت المال میں شامل کر دوں گا۔ منبر کے قریب بیٹھی ہوئی ایک عورت نے عمر (رضی اللہ عنہ) سے کہا: کیا تم ہمارے لئے چار سو درہم سے زیادہ مر قرار دینے سے منع کرتے ہو؟ اور زائد تم ہم سے اپس لے لو گے؟ عمر نے کہا: ہاں۔ عورت نے کہا: کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی: ”واتیم احدها هن قنطراء فلا تأخذوا منه شيئاً.“ یعنی اگر تم چاہو کہ دوسرا شادی کرو تو جو مال کثیر پہلی بیوی کو باطور مردے پکے ہو اسے واپس نہ لینا۔ کیونکہ لفظ ”قنطراء“ مال کثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہزاروں دینار کے ہیں۔ لہذا قرآن کی اس آیت میں لفظ ”قنطراء“ استعمال ہونے کا مقصد یہ ہوا کہ عورت کا مرد زیادہ قرار دینا صحیح ہے۔ ورنہ قرآن کو اس سے منع کرنا چاہئے تھا۔ اسی بناء پر روایات میں آیا ہے کہ عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ مرد زیادہ رکھتے ہیں تو منبر پر جا کر لوگوں سے خطاب کیا اور اس پر اعتراض کیا کہ کیوں تم لوگ لڑکیوں کا مرد زیادہ رکھتے ہو اور دھمکی دی کہ آج کے بعد میں نہیں سنوں کہ کسی کی جوی کا مرد چار سو درہم سے زیادہ ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر حد جاری کروں گا اور چار سو درہم سے زائد مال اپس لے کر بیت المال میں شامل کر دوں گا۔ منبر کے قریب بیٹھی ہوئی ایک عورت نے عمر (رضی اللہ عنہ) سے کہا: کیا تم ہمارے لئے چار سو درہم سے زیادہ مر قرار دینے سے منع کرتے ہو؟ اور زائد تم ہم سے اپس لے لو گے؟ عمر نے کہا: ہاں۔ عورت نے کہا: کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی: ”واتیم احدها هن قنطراء فلا تأخذوا منه شيئاً.“ یعنی جب عورت کو مرد میں زیادہ مال دیا گیا تو وہ اس سے واپس نہ لو بکھ سارا اس کو دے دو۔ عورت کی اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے اپنے کے پر توبہ کی اور کہنے لگے: ”کل الناس افقه من عمر حتى المحرمات في العحال.“ یعنی تمام لوگ حتیٰ کہ

نتیجہ یہ کہ اسلام میں احتجاب تاکیدی ہے کہ مرد کم سے کم رکھا جائے

طالب علم: پسلا سورۃ نساء کی آیت ۲۰ میں ہے کہ: ”وَإِنْ ارْدَتُمْ أَسْتِدَالَ زَوْجَ وَآتِيَتُمْ أَحْدِيْهِنَ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُو مِنْهُ شَيْئًا.“ یعنی اگر تم چاہو کہ دوسرا شادی کرو تو جو مال کثیر پہلی بیوی کو باطور مردے پکے ہو اسے واپس نہ لینا۔ کیونکہ لفظ ”قَنْطَارًا“ مال کثیر کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہزاروں دینار کے ہیں۔ لہذا قرآن کی اس آیت میں لفظ ”قَنْطَارًا“ استعمال ہونے کا مقصد یہ ہوا کہ عورت کا مرد زیادہ قرار دینا صحیح ہے۔ ورنہ قرآن کو اس سے منع کرنا چاہئے تھا۔ اسی بناء پر روایات میں آیا ہے کہ عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب دیکھا کہ لوگ مرد زیادہ رکھتے ہیں تو منبر پر جا کر لوگوں سے خطاب کیا اور اس پر اعتراض کیا کہ کیوں تم لوگ لڑکیوں کا مرد زیادہ رکھتے ہو اور دھمکی دی کہ آج کے بعد میں نہیں سنوں کہ کسی کی جوی کا مرد چار سو درہم سے زیادہ ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر حد جاری کروں گا اور چار سو درہم سے زائد مال اپس لے کر بیت المال میں شامل کر دوں گا۔ منبر کے قریب بیٹھی ہوئی ایک عورت نے عمر (رضی اللہ عنہ) سے کہا: کیا تم ہمارے لئے چار سو درہم سے زیادہ مر قرار دینے سے منع کرتے ہو؟ اور زائد تم ہم سے اپس لے لو گے؟ عمر نے کہا: ہاں۔ عورت نے کہا: کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی: ”واتیم احدها هن قنطراء فلا تأخذوا منه شيئاً.“ یعنی جب عورت کو مرد میں زیادہ مال دیا گیا تو وہ اس سے واپس نہ لو بکھ سارا اس کو دے دو۔ عورت کی اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے اپنے کے پر توبہ کی اور کہنے لگے: ”كُلُّ النَّاسِ افْقَهَ مِنْ عُمَرَ حَتَّى الْمُحْرَمَاتِ فِي الْحَجَّالِ.“ یعنی تمام لوگ حتیٰ کہ

جانی چاہئے کہ حضرت موسیٰ کی، حضرت شعیب کی لڑکی سے شادی کوئی معمولی شادی نہیں تھی بلکہ ایک مقدمہ تھا تاکہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب کے پاس جائیں اور ان سے کسب علم و کمال کریں اگرچہ یہ صحیح ہے کہ حضرت موسیٰ نے کئی سال مردا کرنے کے عنوان سے حضرت شعیب کے پاس کام کیا لیکن حضرت شعیب نے بھی حضرت موسیٰ اور ان کی زوجہ کے اخراجات زندگی برداشت کئے۔ لہذا اگر حضرت موسیٰ اور ان کی اہلیہ کے اخراجات زندگی حضرت موسیٰ کی اجرت سے کم کریں تو بہت کم مال پچھے گا جو ہلکا مر شمار ہو گا۔ لہذا اگرچہ ظاہراً ان کا مر زیادہ معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل وہ مقدمہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی معنوی و مادی زندگی سر کرنے کا جو حضرت شعیب نے اپنی مر رضی اور بیشی کی رضاہیت سے قرار دیا تھا۔ اس سے بھی روشن عبارت کے ذریعے اس طرح سے کہا جائے کہ حضرت شعیب نے اس طرح کے ظاہری عکین مر کے ذریعے چاہا کہ حضرت موسیٰ کو تنائی لور دبردی کی زندگی سے نجات دیں اور ان کا ہدف حضرت موسیٰ پر ختنی کرنا نہیں تھا بلکہ ان کے لئے آسمان اور آسمائش والی زندگی چاہتے تھے۔ اسی لئے حضرت شعیب نے فرمایا: ”وما اريد ان اشق عليك.“ یعنی تم پر ختنی یا زحمت ذاتی کا راداہ نہیں رکھتا جیسا کہ عنقریب تمیں معلوم ہو جائے گا کہ میں ایک قردار صاحب ہوں۔

طالب علم: آپ کے اس شیریں و مدلل بیان کا شکر گزار ہوں پیغمبر حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کے ساتھ ایسا کر کے بہت بڑی نیکی کی ہے۔

لیکن اگر اس منتخب فضل کو ترک کر دیا جائے اور زیادہ مفرکہ دیا جائے تو پھر عورت کی اجازت کے بغیر اسے کم صیغہ کیا جاسکتا ہے۔

طالب علم: آپ کے اس منطقی اور قانون جواب کا شکر یہ اگر اجازت ہو تو دوسرا سوال کروں؟

عالم دین: لسم اللہ!

طالب علم: قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کی حالات زندگی میں ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعونیوں کے ڈر سے مصر کے شر (مدین) گئے اور حضرت شعیب کے گھر میں پناہ لی اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے کہا: ”انی ارید ان الکھلک احدی ابنتی هاتین علی ان تاجرونی ثھانی حجج فان اتممت عشرًا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك مستجدلني ان شاء الله من الصابرين.“ (سورۃقصص آیت ۷۲) یعنی میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح میں دینا چاہتا ہوں ایک شرط کے ساتھ وہ شرط یہ ہے کہ میری لئے آٹھ سال کام کرو اگر دس سال کام کیا تو تمہاری طرف سے میربائی و محبت ہو گی میں عکین کام تمہاری دوش پر نہیں ڈالنا چاہتا انشاء اللہ تم مجھے افراد صالح میں سے پاؤ گے۔ اور حضرت موسیٰ نے بھی ان کی شرط قبول کی اور یہ بات واضح ہے کہ آٹھ سال کام کرنا عکین مر ہے، جسے دو چینیوں نے تسلیم کیا ہے اور قرآن بھی ان کی تائید میں یہ قصہ نقل کر رہا ہے۔ قرآن کا اس بات کو رد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود قرآن زیادہ مر چاہتا ہے۔

عالم دین: حضرت موسیٰ لور حضرت شعیب کے واقعے میں یہ بات

(۹۲)

کیا معاویہ پر لعن کرتا جائز ہے؟

مرحوم آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شیرازی نے فرمایا کہ جس سی افراد جو خراسان کے علاقے تربتِ جام سے حج پر آئے ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں ہمارے ساتھ باغِ صفائی رکے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ ہی بعض اصفہانی حاجی نے مجلس امام حسینؑ کا انعقاد کرتا چلا کیونکہ لیام عاشوراً نزدیک تھے۔ چونکہ تربتِ جام والے برادران الحست کے پاس کافی جگہ تھی۔ لہذا ہم نے ان سے بڑی جگہ پر مجلس رکھنے کی گزارش کی جو انہوں نے قبول کر لی اور ہماری مدد بھی کی۔

اتفاق سے ان کے پاس کچھ مدینہ کے سی علماء ملنے آئے ہوئے تھے جن سے فضائلِ علیؑ پر میری لفظ ہوئی وہ لوگ نہ صرف میری باتیں مان رہے تھے بلکہ خود بھی فضائلِ علیؑ میں احادیث پیغمبر اکرمؐ کا ذکر کر رہے تھے۔

مثلاً پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کے بارے میں فرمایا: "لهمك لحمي و دمك دمي۔" یعنی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے تمہارا خون میرا خون ہے اور وہ روایت کہ علیؑ کا دوست پیغمبر اکرمؐ کا دوست ہے اور دشمن علیؑ دشمن رسول اکرمؐ ہے۔ یہاں تک کہ بات لعن معاویہ تک پہنچی۔

وہ لوگ کہنے لگے: معاویہ پر لعن کرتا جائز نہیں، ہاں بیزید پر لعن کرتا جائز ہے کیونکہ اس نے امام حسینؑ کو شہید کیا۔

میں نے کہا: خود آپ کے مذہب کے تحت معاویہ پر لعن کرتا جائز ہوتا چاہئے۔ آپ کے اہمی کے فرمان کے مطابق جو آپ نے حضرت علیؑ کے

بارے میں نقل کیا کہ پیغمبر اکرمؐ نے علیؑ کو دعادیتے ہوئے فرمایا: "اللهم عاد من عاداه۔" یعنی خداوند! علیؑ کے دشمن کو دشمن قرار دے۔ (حدیث غدیر کے ذیل میں) اور یہ بات مسلم ہے کہ معاویہ علیؑ کا سخت دشمن تھا، اپنی آخری عمر تک علیؑ سے دشمنی کرتا رہا اور توبہ نہیں کی جب کہ اس کے لئے بعض علیؑ و دشمنی علیؑ ختم کرنا آسان تھی مگر نہیں کی۔

لہذا پیغمبر اکرمؐ نے جو دشمنان علیؑ کے لئے نفرین کی اس میں معاویہ بھی شامل ہے۔ لہذا اس پر لعن کرتا آسان ہونا چاہئے۔ (اقتباس از الاحتجاجات العفرة احتجاج نمبر ۵)

مزید وضاحت یہ کہ خود سنیوں کے معتبر مدارک کے ذریعے یہ بات ثابت ہے کہ خود پیغمبر اکرمؐ نے ابوسفیان، معاویہ اور بیزید پر لعنت کی۔ (تاریخ طبری جلد ۱۱ ص ۱۳۵ تا ۱۳۶ تذكرة الخواص ص ۲۰۹) حتیٰ کہ آپؐ نے اس حد تک فرمایا کہ معاویہ کو جب بھی منیر پر دیکھو قتل کرو۔ (تاریخ بغدادی جلد ۱۲ ص ۱۸۱) شرح نجیب البلاغہ ابن حمید جلد ۲ ص ۳۳) اور جیسا کہ خود معاویہ کے حمایتی لوگوں کا کہنا ہے کہ معاویہ اجتہاد کی رو سے امام علیؑ سے دشمنی کرتا تھا۔ تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ کے صریح کلام کے سامنے اجتہاد کرنا ہرگز جائز نہیں اور کیونکہ پیغمبر اکرمؐ معاویہ کے تباک ضمیر سے واقف تھے اس پر لعنت بھی۔

الحست کے مدارک کے اعتبار سے پیغمبر اکرمؐ نے ایک دن معاویہ، عمر اور عاص کے لئے اس طرح نفرین کی کہ: "خدا! معاویہ، عمر اور عاص کو آتش دوزخ میں ڈال دے۔" (کتاب الصنیف ابن مزاحم ص ۲۱۹۔ مندرجہ ذیل حبل،

امام حسین پر گریہ و بکا

ایک واعظ منبر پر تشریف فرم مصائب امام حسین پر گریہ کرنے کے ثواب کے بارے میں مختلف احادیث ذکر کر رہے تھے۔ تمثیلہ ان احادیث میں سے ایک یہ حدیث نبوی انسوں نے نقل کی کہ: "کل عین باکیہ یوم القيمة الآعين بکت على مصاب الحسين فانها ضاحكة مستبشره بنعيم الجنة." (خار جلد ۲۲ ص ۳۹۳) یعنی ہر آنکھ روز قیامت گریہ کرے گی، سوائے اس آنکھ کے جو مصائب امام حسین پر گریہ کرتی رہی ہے، وہ آنکھ روز قیامت بمشتی نعمتوں سے سرفراز خوش و خندال ہوں گی۔ جب واعظ تقریر سے فارغ ہو کر نیچے آئے تو سنن والوں نے کہا کہ مصائب امام حسین پر گریہ کرنے کا اتنا سارا اثواب کیوں؟ البتہ یہ حقیقت ہے کہ امام حسین نے کربلا میں جانشیری سے دنیا میں بھی سربندی اور کامیابی حاصل کی اور اپنے جوش مارتے خون سے بیزیدیوں کو ذلیل و رسوایا کیا اور آپ نے آخرت میں بھی بہترین مقام حاصل کیا۔ ابھی عالم برزخ کی بہشت میں خدا کی نعمتوں سے ببرہ مند ہیں اور سورۃ آل عمران کی آیت ۱۶۹ کی رو سے آپ زندہ ہیں۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے: "ولاتحسین الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربيهم يرزقون۔" یعنی اے چیخبر! اجوراہ خدا میں قتل کردیئے گئے ہیں ہرگز انہیں مردہ نہ کجھو بکھر وہ زندہ ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے۔

واعظ: بہت سی روایات میں انکی ہیں جن میں مصائب امام حسین پر

جلد ۲ ص ۲۲۸) اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام نے جو الحست کے نزدیک بھی قابل قبول ہیں، معاویہ کے بارے میں بڑی سخت باتیں کی ہیں جس کی شرح آپ کتاب الغدیر کی جلد ۱۰ کے صفحہ ۱۳۹ سے صفحہ ۱۷۱ تک ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

شیخ حرم عاملی (متوفی ۱۱۰۳) رد غزالی پر اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ غزالی نے جو لکھا ہے کہ بیزید و حاجج کو لعن کرنا جائز نہیں ہے، غزالی کی خاندان رسالت سے دشمنی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گی جس کا انسوں نے خود اتمہار کیا ہے۔ جبکہ روایات سنی و شیعہ سب میں نقل ہوا ہے کہ ایک دن ابوسفیان اونٹ پر سوار تھا اور معاویہ اس اونٹ کے مہار پکڑے کھینچتا جا رہا تھا، بیزید اونٹ کو پیچھے سے ہاک رہا تھا، چیخبر اکرم نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ نے فرمایا: "لعن الله الراكب والقادن والسائل۔" یعنی خدا کی لحت ہو اس سوار پر اور ان آگے پیچھے چلنے والوں پر۔

اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں کہ کیا خداوند عالم سورۃ نباء کی آیت ۹۳ میں یہ ارشاد نہیں فرماتا کہ: "ومن يقتل مؤمناً معتمداً فجزله جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعده عذاباً اليما۔" یعنی جو کسی مؤمن کو عمدًا قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا، اس پر خدا غضبناک ہوتا ہے اور لحت کرتا ہے اور ایسے شخص کے لئے وردہاک عذاب ہے۔ "تو کیا غزالی معتقد ہے کہ امام حسین مؤمن نہیں تھے؟ جو بیزید پر لعت کرنے کو جائز نہیں جانتا؟ وائے رے بے انصافی۔ (الاثنی عشریہ فی رد الصوفیہ تالیف شیخ حرم عاملی ص ۱۶۳)

وہ شخص کئے لگا: اللہ اکبر! کیوں میرے جنازے کو دفن نہ کیا جائے جبکہ میں مسلمان ہوں اور امت مسلمہ کے درمیان ہوں۔

امام سجادؑ گریہ کرنے لگے اور فرمایا: "واسفہ علیک یا ابناہ تبیقی ثلاثة ایام بلا دفن وانت ابن بنت رسول اللہ." واصحیحاً! اے بیا آپ کا جنازہ تین دن تک بے گور و کفن خاک پر پڑا رہا جبکہ آپؑ فرزند فاطمہؓ بنت رسول اللہ تھے۔ (مساواۃ الحسین تالیف الخطیب شیخ عبدالواہب الکاشی ص ۱۵۲)

دوسری نکتہ: تاریخ میں آیا ہے کہ منصور دوانیٰ (دوسرا خلیفہ عباسی) نے جب مدینہ میں اپنے نائب کو پیغام بھیجا کہ امام صادقؑ کے گھر کو آگ لگادی جائے تو مدینہ کے سردار کو جیسے ہی یہ پیغام ملا اس نے حکم دیا کہ لکڑیاں لائی جائیں اور امام صادقؑ کے گھر کو آگ لگادی جائے۔ چنانچہ جب آگ لگادی گئی اور آگ کے شعلے امامؑ کے گھر کے دالان سے اٹھنے لگے اور امام صادقؑ کے گھر کی خواتین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو امام صادقؑ نے اپنی پوری کوشش سے آگ کو محملہ اس کے دوسرے دن جب آپؑ کے کچھ شیعہ آپ کی احوال پر سی کے لئے آئے تو دیکھا کہ آپؑ کے کچھ شیعہ آپ کی احوال پر سی کے آپ کیوں گریہ فرمادے ہیں؟ آپؑ اس پر گریہ کر رہے ہیں کہ دشمن نے آپ کے ساتھ اس طرح کی گستاخی کی ہے جبکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ دشمن نے آپ کے آپ کے خاندان کے ساتھ ایسا کیا ہو؟ امام صادقؑ نے جواب میں فرمایا: میرا گریہ کرنا کل کے ولقتے پر نہیں ہے بھی میں نے جب دیکھا کہ میرے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور سید انیاں ایک کرے سے دوسرے کرے کی طرف جاتی

گریہ کرنے کے سلسلے میں تاکید کی گئی ہے اسی طرح عزاداری کرنے کے سلسلے میں شیعہ و سنی روایات میں آیا ہے کہ جب روز قیامت ہو گا حضرت زہراآبادگاہ خداوندی میں عرض کریں گی: "اللهم اقبل شفاعتی فیمن يکثی علی ولدی الحسین." یعنی خداوند! میری شفاعت ان لوگوں کے لئے قبول فرمائو جو میرے بیٹے حسینؑ پر گریہ کرتے رہے اور اسی روایت کے ذمیل میں آیا ہے کہ: "فِيَقْبَلَ اللَّهُ شَفَاعَتَهَا وَيَدْخُلُ الْمَاكِينَ عَلَى الْحَسِينِ فِي الْجَنَّةِ." یعنی خداوند عالم حضرت زہراآکی شفاعت کو قبول کرے گا اور حسینؑ پر گریہ کرنے والوں کو بہشت میں داخل کرے گا۔ متعدد روایات کے اعتبار سے انبیاء ماسیق اور مخبر اسلام و ائمہ علماء السلام سب نے مصائب امام حسینؑ پر گریہ کیا ہے اور عزاداری کی ہے تو کیا ان سب اولیاء کرام کی اتباع کرتے ہوئے اگر ہم امام حسینؑ پر گریہ کرتے ہیں تو کیا اس میں کوئی اشکال ہے؟ نہ صرف کوئی اشکال نہیں بھجے ایسی سنت کو زندہ رکھنا اچھا کام ہے اور پیغمبر اکرمؐ اور ائمہؑ کی اقتداء ہے اور عظیم ثواب کے مستحق ہوں گے۔

یہاں پر ہم مصائب امام حسینؑ پر گریہ کرنے کو ائمہؑ نے جو اتنی اہمیت دی ہے اس کے دو تاریخی نکلنے بیان کرتے ہیں:

نکتہ اول: امام سجادؑ نے ناکہ ایک شخص بازار میں آواز لگا رہا ہے کہ: "انا الغریب فارحمنوی." یعنی میں غریب ہوں میری مدد کرو۔

امام سجادؑ اس کے پاس گئے اور فرمایا: اگر تمیری لقدر میں یہ ہو کہ اسی شر (مدینہ) میں مر جائے تو کیا تمیرے جنازے کو یوں ہی بدون خصل و کفن کے چھوڑ دیا جائے گا؟

دیں۔ لہذا ہمارا سوال یہ ہے کہ مصحاب امام حسین پر گریہ کرنے کا فلسفہ اور ہدف کیا ہے؟

واعظ : مصحاب امام حسین پر گریہ کرنے کے فلسفے اور فوائد و آثار کے سلسلے میں چند امور قابل ذکر ہیں:

۱۔ تعظیم شعائر:

کسی مؤمن کا کسی دوسرے مؤمن کے مرنے پر گریہ کرنا ایک قسم کا اس کا احترام کرنا ہے اور اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ معاشرے میں اس کی جگہ خالی ہو گئی ہے اب اس کا وجود نہیں رہتا کہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ گریہ کرنا اپنے باطنی احساسات کی نشاندہی ہے کہ مرنے والے مؤمن کا وجود تمام لوگوں کے لئے مایہ خیر و برکت تھا اور یہ ایک امر طبیعی ہے کہ انسان جتنا ہی بڑا ہو اس کے مرنے پر گریہ کرنا اور زیادہ ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان مر جائے اور کوئی بھی اس پر گریہ نہ کرے تو یہ ایک قسم کی اس کے ساتھ ہے احترامی ہے۔ کسی نے امام علی سے پوچھا: اخلاق نیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "ان تعاسرو الناس معاشرة ان عشتم حتو اليکم وان متم بکو عليکم۔" یعنی لوگوں کے درمیان اس طرح سے زندگی بصر کرو کہ وہ لوگ تمہاری طرف جذب ہوں تم سے محبت کریں اور اگر تم مر گئے تو تمہارے لئے گریہ کریں۔ اور ہر ملت و قوم کے درمیان یہ رسم ہے کہ اگر ان میں سے کسی بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مر جانے پر گریہ کرتے ہیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی جانوز شہادت جو دین کی حفاظت کیلئے ہوئی ایک بہت بڑا

ہیں تاکہ آگ ان پر اڑانداز نہ ہو جبکہ میں بھی ان کے ساتھ گھر میں تھا تو "فخذ کرت روعہ عیال جدی الحسین، یوم عاشوراء لما هجم القوم عليهن و منادیهم بنادی احرقو بیوت الظالمین۔" یعنی اس وقت میں اپنے جد حسین مظلوم کے گھرانے کی اس روز عاشورا کی وحشت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب دشمن نے خیام ال حرم پر حملہ کیا تو دشمنوں کا ایک منادی نما کر رہا تھا کہ خالموں کے گھروں کو جلا دو۔ (مساہ الحسین ص ۱۳۵)

لہذا ان دونوں نہ کورہ حکایات اور دسیوں دوسرے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے انہم چاہتے تھے کہ ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے یادِ حسین کی تجدید کریں اور لوگوں کے احساسات کو اس سلسلے کی رو سے زندہ کریں۔ لہذا ہم پیغمبر اکرم ﷺ اور انہم کی پیروی کرتے ہوئے مصحاب امام حسین کا ذکر کر کے گریہ کرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کے بدالے ہمیں عظیم ثواب ملے گا بلکہ مصحاب امام حسین پر گریہ کرنا اور اظہار عقیدت کرنا کے سلسلے اتنا مقدس اور قیمتی ہے کہ امام زیاد (ؑ) امام حسین پر درود و سلام کے ضمن میں فرماتے ہیں: "السلام على الجيوب المضرجات۔" (الواقع والحوادث جلد ۳ ص ۳۰) یعنی میر اسلام ہو ان سینوں پر جو سوگ امام حسین میں چاک چاک ہوتے ہیں۔

سنن والے : آپ کے ان روشن بیانات کا شکریہ ہے شک ہمیں اولیاء خدا اور انہم کی روشن کو اپنا شعار زندگی بنا چاہئے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے تمام احکام یقیناً حکمت و مصلحت اور ہدف رکھتے ہیں۔ لہذا اکیا ہی بیکثر ہو کہ ہم ہمیں معرفت کے ساتھ انجام دیں۔ صرف انہی تقلید کے تحت انجام نہ

حادثہ ہے اور ان پر گریہ کرنا ایک قسم کا احترام اور ان کے اس مقدس ہدف کو زندہ کرنا ہے اور اپنے احساسات باطنی کا اظہار ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے: "وَمِنْ يَعْظُمْ شَعَافُ اللَّهِ فَانَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ۔" یعنی جو بھی شاعرِ الٰہی کی تعظیم و احترام کرتا ہے اس قسم کا کام ان کے دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے۔ (سورہ حج آیت ۳۲)

۲۔ گریہ عاطفی:

یعنی ایک ہی دن میں امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شادوت انسان کے دل کو جلا کر رکھ دیتی ہے اور ہر انسان کو خالموں کے خلاف ابھارتی ہے۔ واقعہ کربلا اس حد تک دلوں میں پہنچ چکا ہے کہ جوزمانہ کے ساتھ ساتھ پرانا نہیں ہو سکتا اور نہ ہے بھلایا جا سکتا ہے۔ (بطور مثال) مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کے دشمنوں نے ان کو سولی پر لٹکا کر قتل کر دیا ہے لیکن اگر آپ ملاحظہ کریں تو اس وقت پوری دنیا کے سچی موضوع صلیب کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ صلیب کی علامت ہر جگہ قبر تک پر لگاتے ہیں۔ اپنے لباس، اپنی پیشانیوں پر جبکہ اس حادثہ کو ہزاروں سال گزر گئے ہیں مگر مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیحی قتل کئے گئے ہیں۔ لہذا ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جبکہ واقعہ کربلا اور شادوت امام حسین جو سید الشہداء ہیں عظیم ترین واقعہ ہے۔ لہذا عز اواری امام حسین برپا کرنا اور امام حسین پر گریہ کرنا عوامل باطنی کے زندہ ہونے کا سبب اور امام کے عالی ترین اهداف تک پہنچنے کا اعلان ہے ہوں ایک استاد کے کہ: بیشہ زبان عقل کی ترجیحی کرتی ہے مگر عشق کی ترجیح آنکھیں ہیں، جب بھی کسی کے آنکھ سے کسی کے لئے اظہار

احساسات کرتے ہوئے آنسو نکل آئیں تو یہ سے کے عشق و محبت کی ترجیحی کرتے ہیں۔ مگر وہ زبان جو اپنے گرو گردش سے کے حقیقی جملے ہاتی ہے وہ عقل حاضر ہے۔ لہذا جس طرح منطقی استدلال اس کے ان رہبران مکتب سے ہم بھی کوہیان کرتے ہیں اسی طرح ایک قطرہ آنسو بھی اپنے رہبر کے مکتب کے دشمنوں سے جگ عاطفی کا اعلان کرتا ہے۔ (انگلیزہ پیدائش مذہب ص ۱۵۰) لہذا ہمیں ہرگز عوامل باطنی پہلو کو اپنے محبوب کے اعلیٰ اہداف تک پہنچنے اور دشمن کے خاتمه کے لئے فراموش نہیں کرنا چاہئے جو ایک آئے والے انقلاب کا سرمایہ ہے۔

۳۔ گریہ تائید:

مصطفیٰ امام حسین پر گریہ کرنا ایک قسم کا قیام امام حسین کی تائید کرنا ہے اور ان کے اہداف عالیٰ کی تصدیق کرنا ہے اور اپنے گھرے احساسات کو ہر دشمن اور علیگر کے خلاف ابھارتا ہے جس کے محتی یہ ہیں کہ اے حسین آپ کے لئے ہمارے قلب و جان میں جگہ ہے۔

جیسا کہ فارسی شاعر کرتا ہے:

زندہ در قبر دل مابدن کشته تو امت
جان مائی و تورا قبر حقیقت دل حالست

- یہ ہے شیعوں کی زبان حال جو زمان و مکان میں تین پاپوں پر استوار ہے:
- ۱۔ ہمارا قلب اس مبداء پر ایمان رکھتا ہے جس کی خاطر حسین شہید ہوئے۔
- ۲۔ ہمارے کان حسین کی سیرت و گفتار کو سن رہے ہیں۔
- ۳۔ ہماری آنکھیں آنسو بھا بھا کر حسین کے خونی واقعہ کربلا کی تصدیق کرتی

تو یہ نبی عن المعر کے درجہ اور ظالموں کے خلاف صفت جہاد کا درجہ رکھتا ہے جو کہ بہترین ذریعہ ہے۔

سنن والی: آپ کے ان منطقی اور جامع جواب کے ہم بہت بہت شکرگزار ہیں۔

واعظ: اب یہاں پر میں اس حدث کو سمجھیل کرتے ہوئے اس بات کا اضافہ کروں گا کہ اسلام کے بعض احکام سیاسی پسلو رکھتے ہیں۔ لہذا فلفہ عزاداری میں حتیٰ کہ رونے جیسی شکل تک بنانے میں حکمت مسائل سیاسی کو عزاداری و گریہ کے ذیل میں بیان کرنا ہے جیسا کہ پہلے مناظرہ نمبر ۸۱ میں گزر اکہ امام باقرؑ کی وصیت کے اعتبار سے عزاداری امام حسینؑ دس سال تک سر زمین مٹنی کے موسم حج میں بیان ہوئی ائمہ چاہتے تھے کہ عزاداری کے ضمن میں حق و باطل مشخص ہو جائے اور لوگ غفلت سے نکلیں اور میدار ہو جائیں اسی لئے ائمہؑ ہر موقع سے استفادہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا کو زندہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام کا فلم فرماتے ہیں کہ ہمارے جدا مجدد حضرت امام سجادؑ کی انگوٹھی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا: "خزی و شفی قاتل الحسن ابن علی علیہ السلام۔" (مشنی الامال جلد ۲ ص ۳) یعنی امام حسینؑ کا قاتل رسواد بدخت ہو گیا۔ لہذا امام سجادؑ کا انی انگوٹھی پر اس طرح کا جملہ نقش کرنا اس لئے تھا کہ آپؑ چاہتے تھے کہ واقعہ امام حسینؑ زندہ رہے جب لوگ آپؑ کے پاس آئیں اور ان کی نظریں اس لکھنے پر پڑیں تو ہو امیہ کے مظالم یاد آجائیں اور ان کے خلاف لوگوں کے ذہن میدار ہوں۔

خلاصہ گفتگو: یہ ہے کہ امام حسینؑ پر گریہ کرنا و عزاداری کرنا دو قسم کا

ہیں لہذا جب گریہ ان تین ہاپر ہو تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس انسان کی فطرت سالم ہے نہ صرف یہ کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں بلکہ مقاصد امام حسینؑ کے سلسلے میں بہت سے فوائد کا موجب ہوتا ہے۔
۳۔ رسواؤ کرنے والا اور پیغام پہنچانے والا گریہ:

جو انسان بھی شادوت امام حسینؑ میں سخا ہے کہ آپؑ تین دن کے بھوکے پیاسے اپنے بھوی پھوں کے سامنے کربلا کے پتھے صحراء میں بے یار و مدد و گار مارے گئے، تو یہ اختیار اس کا قلب محلب ہو جاتا ہے اور بیزید و بیزیدیوں کی قیادت قلبی کو درک کرتا ہے۔ لہذا امام حسینؑ پر گریہ کرنا دشمن کے خلاف فریاد ہے جو بر طاغوت زماں کے لئے ہے اور ایک قسم کا امریہ معروف و نبی از منکر ہے اور دشمن کو سر کوب کرنے اور خدا کے نیک بدوں کے ادب ایک کو پھیلانے کے لئے ہے یہ ایک قسم کا نبی عن المعر ہے اور استقامت دین کے لئے عمدتاً مسے عملی ہے اور ہر ظالم و ظلم کے خاتمے کا اعلان عام ہے۔

خلاصہ: یہ کہ گریہ بھی کئی قسم کا ہے: (۱) خوف سے گریہ کرنا۔ (۲) شوق محبت میں گریہ کرنا۔ (۳) گریہ عاطلی۔ (۴) پیغام پہنچانے والا گریہ وغیرہ وغیرہ اگر گریہ کی یہ تمام اقسام ہوں تو یہ پسندیدہ گریہ ہے ہاں ایک قسم کا گریہ مذموم ہے جو انسان کی تھکست کی دلیل ہے وہ گریہ ذات ہے جو پست اور گرے ہوئے انسانوں کا گریہ ہے اور ہرگز اولیاء خدا یا بندگانِ مؤمن اس قسم کا گریہ نہیں کرتے۔ لہذا اجھو عاگریہ دو قسم کا ہے۔ (۱) ثابت۔ (۲) مخفی اور جو مذموم ہے وہ گریہ مخفی ہے جو نقصاندہ ہوتا ہے جبکہ گریہ ثابت کے فوائد ہوتے ہیں بھی بعض اوقات

کو ذکر کرنے کے بعد تو قیامت تک ہر نئے پیدا ہونے والے دین کو باطل قرار دے دیا ہے۔

بھائی: مثلاً کوئی آیت قرآنی اس بات کو صراحتاً ذکر کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرمؐ آخری پیغمبر تھے؟

مسلمان: سورۃ الحزاب کی آیت نمبر ۳۰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ:

”ما کانَ مُحَمَّدًا إِلَيْهِ أَنْدَلَعَ الْأَنْبَاءُ“ یعنی محمدؐ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور سلسلہ نبوت انبیاء کے آخری نبی ہیں، بے شک خدا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لہذا اس آیت میں ”خاتم النبیین“ کا جملہ اس بات کی روشن دلیل ہے۔ پیغمبر اسلامؐ آخری پیغمبر ہیں کیونکہ جملہ خاتم کو جس طرح بھی پڑھیں اس کے معنی اختتام ہی کے ہیں۔ لہذا یہ آیت صراحتاً پیغمبر اسلامؐ کے آخری پیغمبر ہوتے اور ان پر نبوت کے ختم ہونے اور ان کے بعد دوسرے پیغمبر نہ آئے اور دوسرا دین و شریعت نہ آئے پر دلالت کرتی ہے۔

بھائی: خاتم تو انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں جو انگلی کی زینت ہوتی ہے۔ لہذا اس آیت مذکور میں ملکن ہے پیغمبر اکرمؐ کو زینت پیغمبران کے حوالے سے یاد کیا گیا ہو؟

مسلمان: لفظ خاتم کے حقیقی معنی وہی ختم ہونے کے ہیں اور اصل ای چیز آج تک نہیں دیکھی گئی ہے کہ لفظ خاتم کو انسان کے لئے استعمال کیا گیا ہو اور اس سے زینت کے معنی کا ارادہ کیا جاتا ہو اور جب ہم لفظ کی کتابوں میں دیکھتے

ہے: (۱) منفی گرید و عزاداری یعنی شخص دکھاواجو مادی اغراض کی خاطر ہوں، قابل نہیں اور (۲) ثابت گرید جس میں عزت و شجاعت و صفات و صفات و بیداری کا پس منظر ہو اور اس قسم کا گرید، کرتا اور عزاداری کرنا شرعاً مقبول ہے۔

(۹۶)

خاتمت پیغمبر اسلامؐ پر مباحثہ
ضروریات دین و امور قطعی میں سے ایک مسئلہ خاتمت پیغمبر اکرمؐ کا ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ ہو گا اور آپؐ کی شریعت روز قیامت تک باقی رہے گی قرآن کی کئی آیات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں: مثلاً سورۃ الحزاب کی آیت ۳۰، سورۃ فرقان کی آیت ۱، سورۃ فصلت کی آیت ۱۹، ۳۲ و ۳۴، سورۃ انعام کی آیت ۱۹، سورۃ سباء کی آیت ۲۸ وغیرہ اور پیغمبر اکرمؐ و ائمہ اطہار سے اس مطلب پر بہت سی روایات ہیں لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرمؐ کے بعد ہر زمانے کے زر خرید افراد نے پیغمبر بنانے کی کوششیں کیں تاکہ خاتمت پیغمبرؐ کو ملادیں اور قادریانی مذہب کو جامع اسلامی میں راجح نہ کریں۔ اب آپؐ اس مناظرے پر توجہ کریں جو ایک مسلمان اور ایک بھائی شخص کے درمیان ہو۔

مسلمان: تم لوگ جو اپنی کتابوں میں اسلام و قرآن کو قبول کرتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ مذہب اسلام نئی ہو گیا ہے اور اس کی جگہ دوسرا آئیں آیا ہے میں آپؐ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ اسلام ایک جاودائی مذہب ہے جو تاقیامت قائم رہنے والا ہے اور مسئلہ خاتمت

جو ہم کسی لفظ کے اصلی معنی سے مجازی معنی کی طرف جائیں اور یہاں پر کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں۔

بیہائی: آیت میں پیغمبر اسلام کے لئے "خاتم النبین" استعمال ہوا ہے۔ "خاتم المرسلین" استعمال نہیں ہوا ہے کہ پیغمبر کے بعد رسول کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہو۔

مسلمان: اگرچہ قرآن میں لفظ "رسول" اور لفظ "نبی" میں فرق ہے۔ مثلاً خداوند عالم نے قرآن میں حضرت اسماعیل کو رسول بھی کہا ہے اور نبی بھی۔ (سورہ مریم آیت ۵۲) اسی طرح حضرت موسیٰ کو رسول و نبی دونوں ناموں سے پکارا ہے۔ (سورہ مریم آیت ۱۵) لیکن یہ مطلب ہرگز جملہ خاتم النبین میں شبہ ایجاد نہیں کر سکتا کیونکہ "نبی" یعنی جس کو خدا کی جانب سے دعیٰ ہوتی ہو چاہے وہ لوگوں تک پہنچانے پر مامور ہو یا نہ ہو مگر "رسول" وہ ہے جس کے پاس آسمانی کتاب اور شریعت ہوتی ہے۔ لہذا ہر رسول نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں۔ نتیجہ یہ تکاکہ اگر کہا جائے کہ پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء ہیں یعنی ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو گایا اس فرض کی بنا پر کہ ہر رسول پیغمبر ہے تو بھی نتیجہ یہی لگائے گا کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو گا۔ بعوان مثال نبی و رسول مثلاً ایک عام انسان اور ایک پڑھے لکھے انسان کی مانند ہیں اصطلاح منطق کے اعتبار سے ان میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے جب بھی میں نے کہا کہ آج انسان میرے مگر نہیں آیا یعنی پڑھا لکھا انسان بھی نہیں آیا اسی طرح ہم اس مورود حث مسئلے میں جب کہا جاتا ہے کہ رسول خدا کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا یعنی رسول بھی نہیں آئے گا۔

ہیں تب بھی خاتم کے معنی وہی ختم کرنے کے ملتے ہیں۔ لہذا ایک لفظ کو اس کے لغوی معنی کے علاوہ استعمال کرنے کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ یہاں اس قسم کا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ خاتم کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو اختیار کیا جائے۔ لہذا اب ذرا صاحبان لغت کے لفظ خاتم کے معنی کے بارے میں نظریات ملاحظہ کریں:

فیروز آبادی کتاب "قاموس اللغت" میں فرماتے ہیں کہ ختم کے معنی مر گانے کے ہیں جسکی مثال "ختم الشی" سے دیتے ہیں یعنی کسی چیز کا ختم اور مکمل ہوتا۔ جوہری اپنی "صحاح اللغت" میں فرماتے ہیں کہ ختم یعنی آخر تک پہنچ جانا: "خاتمه الشی" یعنی اس چیز کا آخر۔

ابو منظور لغت لسان العرب میں فرماتے ہیں: "خاتم القوم" یعنی قوم کا آخری فرد اور "خاتم النبین" یعنی آخری نبی اور راغب اپنی کتاب لغت مفردات میں "خاتم النبین" یعنی پیغمبر اسلام نے اپنے آنے سے نبوت کو اختتام تک پہنچایا۔ نتیجہ یہ کہ لفظ خاتم سے زینت کے معنی لینا خلاف لغت ہے جس کے لئے دلیل کی ضرورت ہے جبکہ یہاں اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔

بیہائی: لفظ خاتم کے معنی تصدیق کرنے کے ہیں۔ لہذا "خاتم النبین" سے مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام گزشتہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے۔

مسلمان: پہلے والے سوال کے جواب میں ہی واضح ہو گیا کہ لفظ خاتم کے اصلی معنی وہی آخری کام کے ہیں اور یہ بات تو کہیں نہیں سنی گئی ہے کہ لفظ خاتم سے تصدیق کے معنی سمجھے جاتے ہوں مگر یہ کہ اس پر کوئی دلیل یا قرینہ ہو

ہے مگر یہ کہ "الف" اور "ل" عمد پر کوئی دلیل ہو اور کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تمام پیغیر مراد ہیں۔

(۹۷)

قاتلان امام حسینؑ کے بارے میں مکالمہ

وہاںی: یہ جو شیعہ امام حسینؑ کیلئے عزاواری و ماتم کرتے ہیں اور اتنی محبت و احساسات کا انتصار کرتے ہیں یہ اپنے اجداد کے گزشتہ کے ہوئے مظالم کا ازالہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اجداد نے امام حسینؑ کو شہید کیا اور پھر توبہ کر لی۔ لہذا باب یہ لوگ "توابینؓ" کے عنوان سے اپنے گزشتہ گناہوں کا جبران کرتے ہیں۔

شیعہ: اس طرح کی تہمت اور نسبت تم کس دلیل کی پاپ دے رہے ہو؟

وہاںی: جو لوگ کربلا میں امام حسینؑ سے جنگ کرنے آئے تھے وہ شام، حجاز اور بصرہ کے نہیں تھے بلکہ سب الٰل کوفہ تھے اور اس وقت کوفہ میں اکثر شیعہ تھے۔ لہذا انہوں نے کربلا آ کر امام حسینؑ کو شہید کر دالا۔

شیعہ: اولاً اگر بالفرض محل کچھ شیعہ ڈر و خوف یا فریب میں آکر کربلا میں امام حسینؑ کے خلاف جنگ میں شریک ہو بھی گئے ہوں تو یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ نہ ہب شیعہ اور اس کے تمام بیرون کار مخرف ہو گئے ہوں اور یہ زید کی راہ پر چلے ہوں اگرچہ ممکن ہے کہ کسی قوم دلت میں سے کچھ لوگ مخرف ہو جائیں مگر ان کا یہ عمل اس پورے نہ ہب پر دلیل نہیں قرار پاسکتا۔ ثابتًا اس قسم کی نسبت ہی دینا بے جدال ہے۔

بھائی: نبی و رسول کے درمیان جائز کی تہمت ہے جہاں نبی ہو گا رسول نہیں ہو گا جہاں رسول ہو گا وہاں نبی نہیں ہو گا۔ لہذا میرا اشکال اپنی جگہ پر باقی ہے۔

مسلمان: رسول و نبی کے درمیان اس طرح کا فرق کرنا آیات و روایات و اقوال بزرگان کے برخلاف ہے اور سراسر مخالف ہے کیونکہ اپنی موردنہ حث آیت ہی میں پڑھتے ہیں کہ : "ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین"۔ یعنی محمد رسول خدا بھی ہیں اور آخری نبی بھی۔ اسی طرح حضرت موسیؑ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ : "و کان رسول نبیا"۔ (سورۃ نبأء آیت ۱۷) یعنی موسیؑ رسول بھی تھے اور نبی بھی اور پھر اسی سورے کی اسی آیت میں حضرت عیسیؑ کو رسول کے نام سے پکارا ہے۔ اور پھر سورۃ مریم کی آیت ۳۰ میں نبی کے نام سے۔ اگر بقول آپ کے ان دونوں میں جائز ہوتا تو پیغیر اکرمؓ اور حضرت موسیؑ و عیسیؑ کو ان مقاصد صفتیں سے خطاب نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بہت سی روایات کے ذریعے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیغیر اسلامؓ کو "خاتم النبیین" "ولیس بعدی رسول" "و خاتم رسالت" وغیرہ کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے۔

بھائی: جملہ "خاتم النبیین" ممکن ہے اختتام پیغیری کے لئے استعمال کیا جائے مگر تمام پیغیروں کو شامل نہیں کرتا۔

مسلمان: آپ کا یہ اعتراض تو پسلے والے اعتراضوں سے زیادہ پسا دینے والا ہے کیونکہ جو ذرا ای بھی ادبیات عرب سے آشنا تر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ جب بھی کسی کلمہ پر "الف" اور "ل" جمع ہوں تو وہ کلمہ عمومیت پر دلالت کرتا

وہاںی: کیوں اور اس پر کیا ویلیں ہے؟

شیعہ: وہ سپاہی جو کوفہ سے کربلا امام حسین سے جنگ کے لئے آئے تھے وہ ہرگز شیعہ نہیں تھے بلکہ خوارج اور اموی اور منافقین تھے جو امام علی اور امام حسن سے فکست کھا پکے تھے اور ان کے سردار بھی وہی لوگ تھے جن کو امام علی نے اپنے دور حکومت میں ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا تھا اور ان زیاد بھی ایسے لوگوں سے استفادہ کر رہا تھا اور بہت سے تو ان میں گروہ "مرتزہ" والے تھے یعنی جو غیر عرب تھے اور مزدوری پر ان کو لا یا گیا تھا کہ حکومت بھی شیعہ نہیں تھا۔ اسی لئے امام حسن نے انہیں "ولکم یا شبقة آل الی سفیان" کہ کر بد عادی تھی۔ (ابو فیض ابن طاووس ص ۱۲)

مزید وضاحت یہ کہ اگرچہ امام علی کے زمانے میں کوفہ میں شیعوں کی اکثریت تھی مگر امام علی کی خلافت کے بعد معاویہ کے ظلم، تم سے شیعہ منتشر ہو گئے تھے اکثر کو شہید کر دیا گیا یا شر بدر کر دیا گیا تھا۔ معاویہ کے معین کروہ عراق کے ولی زیاد عن الیہ کے زمانے میں شیعہ کثرت سے شہید کئے گئے یا زندانوں میں ڈالے گئے یا کوفہ سے نکال باہر کئے گئے۔ معاویہ کے زمانے میں اگر کوئی کافر یا مشرک ہوتا تو اس کو امن و امان ملتی مگر شیعان علی کے خون بھائے جاتے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا جاتا تھا۔ زیاد عن الیہ جو سمیہ روی کا پہنا تھا جب یہ معاویہ کی طرف سے کوفہ کے دارالامارہ کا داروغہ ہا تو معاویہ نے اس کو خط لکھا کہ: "سب سے پہلے تم محبان علی کو قتل کرو اور ان کے گلزارے گلزارے کرو۔" زیاد نے

لوگوں کو مسجد کوفہ میں جمع کیا اور حضرت علی پر لعن کرنے کو کہا۔ جو بھی اس سے انکار کرتا اس کی گردان اڑاوی جاتی تھی۔ (مرودج الذہب جلد ۲ ص ۲۹۔ شرح نجاح البالغہ عن ابی الحمید جلد ۳ ص ۱۹۹۔ الغدیر جلد ۱۱ ص ۳۹۳۲)

موقول ہے کہ زیاد عن الیہ "سعد بن سرح" نبی محتب علی کو حلاش کر رہا تھا تاکہ ان کو قتل کرے تو امام حسین نے زیاد کو خط لکھا کہ "سعد بن سرح" ایک بے گناہ مسلمان ہے تم کیوں اس کے قتل کے درپے ہو؟ زیاد نے امام حسن کو جواب میں لکھا کہ میں اس کو آپ کے والد کی دوستی کی ہا پر قتل کرنا چاہتا ہوں۔ (شرح نجاح البالغہ عن ابی الحمید جلد ۳ ص ۷۲۰)

زیاد عن الیہ کے مظالم میں سے ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ اس نے "سرہ عن جذب" جیسے خالم شخص کو کوفہ و بصرہ میں اپنا جانشین بیٹا اور پھر زیاد عن الیہ کے مرلنے کے بعد معاویہ نے بھی "سرہ" کو کوفہ کے داروغہ کے طور پر باتی رکھا۔ "سرہ" نے ایک ہی دفعہ میں ۸۰ ہزار شیعیان علی کا قتل عام کیا۔ (تاریخ طبری جلد ص ۱۳۲۔ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۸۳)

ایو سوار عدوی کہتے ہیں کہ "سرہ" نے ایک دن صحیح میری قوم کے ۲۷۴ افراد کو جو حافظ قرآن تھے ہے رحمان طور پر قتل کیا۔ (تاریخ طبری جلد ۶ ص ۱۳۲۔ کامل ابن اثیر جلد ۳ ص ۱۸۳) جن میں مجرمین عدی اور ان کے ساتھی، مالک اشتر، محمد بن ابی بجر اور عمرو بن حصہ بھی ہیں جو رگان شامل تھے، جو معاویہ کے زر خرید مزدوروں کے ذریعے درجہ شادت کو پہنچ معاویہ کی وحشیانہ حکومت اس طرح کی تھی کہ "عمرو بن حصہ" کے سر کے لئے حکم دیا گیا کہ ان کے سر کو اس

گئے جس کے نتیجے میں خود سلیمان اور بہت سے ان کے ساتھی اس جگہ میں شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت کو پہنچے۔

علامہ مامقانی لکھتے ہیں کہ امام حسینؑ کے عراق پہنچنے سے پہلے ملن زیاد نے ۲۵۰۰ شیعوں کو قید میں ڈال دیا تھا جن میں سلیمان بن صرد خراصی جیسے افراد بھی تھے جو تقریباً چار سال زندان زیاد میں رہے۔ لہذا جو معروف ہے یا ان اشیر سے منقول ہے کہ یہ لوگ اس وقت اپنی جان وال کے خوف سے امام حسینؑ کی مدد کو نہیں جائسکے تاہم امام حسینؑ کی شہادت کے بعد پیشیاں ہوئے اور پھر سلیمان کی رہبری میں ”توابین“ یعنی توبہ کرنے والا گروہ تشکیل پیلا تاکہ گزشتہ کا جریان کیا جائے اور خون حسینؑ کا بدلہ لیا جائے۔ (تحقیق المقال جلد ۲ ص ۶۳) (لہذا قاتلین امام حسینؑ میں کوئی شیعہ نہ تھا بلکہ سب خوارج و مرتدین و مخالفین اور امام علیؑ کی دور حکومت میں اپنے عمدوں سے معزول لوگ تھے یا امام حسینؑ کی حکومت سے فرار ہوئے تھے یا وہ غیر عرب لوگ تھے جو کرانے کے قاتل تھے۔

(۹۸)

آیت ہلاکت پر ایک مکالمہ

قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت ۱۹۵ جو آیت ہلاکت کے نام سے معروف ہے وہ یہ ہے: ”وَالْفَقُورُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تَلْقُوا بَايْدِيكُمُ الى التَّهْلِكَةِ وَاحسِنُوا اَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.“ یعنی رواہ خدا میں اتفاق کرو اپنے ہی باتوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، بے شک خدا احسان کرنے

کی زوجہ کے پاس لے جیا جائے جو خود اس وقت زندان معاویہ میں تھی۔ معاویہ کے دور حکومت میں حالات ایسے ہو گئے کہ کوئی اپنے نزدیکترین رشتہ دار پر بھی اعتقاد نہیں کرتا تھا اس احتمال کی بنا پر کہ کہیں یہ معاویہ کا جاوسہ نہ ہو۔

علامہ امینؒ تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ زندان ایسے خود کو نے کا تھا اور امام علیؑ کی خلافت کے وقت سے شیعیان علیؑ کو پہچانتا تھا بلکہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کمال اور کتنے ہیں۔ اسی لئے وہ گوشہ کنار سے بھی محبان علیؑ کو نکال لاتا، ان کے ہاتھ پر کاٹ دیتا، ان کی آنکھیں نکال دیتا اور پھر انہیں پھانسی دے دیتا یا قید میں ڈال دیتا، حتیٰ کہ اس نے کوئے میں کسی ایک شیعہ کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ (الغدیر جلد ۱۱ ص ۲۸)

خلاصہ گفتگو یہ کہ امام حسینؑ کی امامت کے دور میں کوئی شیعہ کو نے میں باقی نہیں رہا سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے جن کی تعداد چار ہزار یا پانچ ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ ان زیاد جب کوئے کا دروغ نہ ہنا تو اس نے سب سے پہلے انہیں لوگوں کو پکڑوا کر امام حسینؑ کے عراق کے لئے نکلنے سے پہلے قید کر دیا تھا۔ اس دور میں پورے کوئے میں صرف اتنے ہی شیعہ تھے جنہوں نے ملن زیاد کے بصرہ سے چلے جانے کے بعد اور مرگ یزید کے بعد قید خانوں کے دروازے توڑے اور اس طرح خود کو قید وہنہ سے آزاد کر لیا اور امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے عنوان سے قیام کیا اس وقت تک امام حسینؑ کی شہادت کو چار سال گزر چکے تھے اور ابھی قیام مختار ہڑوں نہیں ہوا تھا یہ لوگ ”سلیمان بن صرد خراصی“ جو خود ۹۳ سال سے تھے ان کی سربراہی میں شامیوں سے جنگ کرنے

والوں کو پسند کرتا ہے۔

اب ذرا مناظرہ کو ملاحظہ کریں جو ایک استاد اور شاگرد کے درمیان ہوا۔
شاگرد: جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو
ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہذا اس آیت کے مطابق ایسے قیام اور ایسے نبی عن المحر جن
میں جان کا نقصان ہوان کے لئے اقدام نہ کیا جائے کیونکہ جانی نقصان خود ایک
قسم کی ہلاکت ہے۔ لہذا نان کو چاہئے کہ خود سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے اور
اس جگہ قیام امام حسین، ان کا جنگ کرنا اور شہید ہو جانا اور ان کے اصحاب و انصار
کا قیام کس طرح اس آیت سے سازگار ہے؟

استاد: یہ آیت جیسا کہ اس کے آغاز سے معلوم ہوتا ہے کہ راه خدا
میں اتفاق گویا مالی جہاد ہے اور اتفاق نہ کرنا یا تفریط کرنا گویا خود کو ہلاکت میں ڈالنے
کے برخلاف ہے۔ لہذا حکم ہے کہ اتفاق میں افراط و تفریط نہ کرو۔ لہذا اسی بنا پر تفسیر
درمیور میں اس آیت ہلاکت کے ذیل میں اسلام انہی عمران سے نقل ہے کہ وہ
کہنے ہیں کہ ہم قسطنطینیہ (جو انتہی کے نام سے ترکی میں واقع ہے) میں تھے "عجہہ
بن عاصر" جو کہ مصر کا تھا اور "فضلة من عبید" جو شام کا رہنے والا تھا ان کی
سربراہی میں ایک بڑا لکھر مسلمانوں سے جنگ کرنے آیا ہم نے بھی فوراً اپنی صفوں
کو منظم کیا اسی اثناء میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے لکھر روم پر حملہ کر دیا تو
دوسرے مسلمان چلا اٹھے کہ یہ شخص خود کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ ابواب
انصاری رسول خدا کے معروف صحابی اٹھے اور کہنے لگے: اے لوگوں! تم نے اس
آیت: "ولَا تلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ الى التَّهْكِةِ." کے نامناسب معنی کئے ہیں، یہ آیت ہم

گروہ انصار کے لئے نازل ہوئی ہے جب دین خدا کا میا ب ہوا اور دین کے حاوی
لوگ بہت ہو گئے تو ہم میں سے بعض تخبر اکرمؐ کے سامنے بھض دیگر سے کہتے
تھے کہ خدا نے اسلام کو کامیابی عطا کی مگر ہمارا مال و اسباب ضائع ہو گیا اگر اپنے
مال کی حفاظت کرتے تو ہرگز ضائع نہ ہوتا۔ اس وقت خداوند عالم نے ہماری ان
گفتار کی رو میں اس آیت کو نازل کیا۔ لہذا ہلاکت سے مراد مال کی حفاظت کرنا اور
راہ جہاد میں مال کا اتفاق نہ کرنا مراد ہے۔ (تفسیر المیزان جلد ۲ ص ۷۲)

شاگرد: کیا حرج ہے کہ اگر اصل آیت کو اتفاق کے مورد میں فرض
کریں اور جملہ "ولَا تلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ الى التَّهْكِةِ" کو اسلام میں ایک قاعدة کلی کے
عنوان سے لیں کہ تمام موارد میں اس قائدے کی رعایت کی جائے؟

شاگرد: اگرچہ کوئی حرج نہیں ہے مگر اس قاعدے کو ضروری ہے کہ
اس طرح سے تحریر کیا جائے کہ: "جن موارد میں ہلاکت شارہ ہو خود کو اپنے
ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔" یعنی ہے جا موارد میں جن میں خود کو ڈالنے سے
کوئی اہم فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو، لیکن جب بھی قانون "اہم و مهم" کا ان موارد
میں لحاظ کیا جائے جہاں فائدہ کو حاصل کرنے کے لئے خطرناک کام کئے جاتے
ہیں۔ لہذا فائدہ حم کو حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا نہ
صرف اشکال نہیں رکھتا بلکہ بعض موارد میں تو ضروری واجب ہو جاتا ہے اور
اصول اسلام کے بہت سے احکام میں مثلاً جہاد و نبی عن المحر اور دفاعی موارد میں
خطرناک کاموں میں ہاتھ ڈالنا اس لحاظ سے کہ اس طرح کے خطرناک کام بہت
کی بڑی سعادتوں کے لئے وسیلہ ہیں جیسے اقدام کرنا مناسب ہے۔

ایران میں شیعیت کا فروغ

اشارہ: اگرچہ کہ خلافت دوم ہی کے زمانے میں ایران میں اسلام آپکا تھا لیکن پھر بھی کیوں ایران میں شیعوں ہی کی اکثریت ہے؟ ایران میں تشیع کی تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایرانی قرن اول سے قرن ہفت تک تدریجی شیعہ ہو رہے تھے اور ہر دفعہ یہ منظر لوگوں کے لئے چشم گیر ہوتا جاتا تھا۔ اب ذرا ان دو دو نشندوں کے مناظرے کو ملاحظہ فرمائیں جو تشیع ایران کے راز پر ہوا:

وانشمند آتش پرست: میری نظر میں ایرانیوں کے کثرت سے شیعیت کی طرف جانے کے ہم تین عوامل چار چیزیں تھیں: (۱) ایرانی سابقہ عادت کے تحت سلطنتی و ارثی حکومت اور ارشاد امامت کو قبول کرتے تھے۔ (۲) ایرانی زمانہ قدیم سے سلطنت کو حق آسمانی اور عطاۓ الہی جانتے تھے جیسا کہ اس حتم کا عقیدہ شیعیت سے ہم آپنکے ہیں۔ (۳) امام حسنؑ کا ملی ہی شربانو سے ازدواج کرتا جو اس وقت کے شاہ ایران کی بیشی تھیں ایرانیوں کے شیعہ بننے کا سبب ہوئی۔ (۴) ایرانیوں کی اعراب کے مقابلہ تھا ایک مذہب تشیع تھا تاکہ اس کے سامنے میں آتش پرستی کو باقی رکھا جاسکے۔ لہذا مذہب تشیع ایرانیوں کی ایجاد کردہ فکر ہے۔

وانشمند مسلمان: ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایرانیوں کے شیعہ ہونے کی علت و راز نہیں ہے کیونکہ شیعیت زمانہ پیغمبر اسلام سے وجود میں آئی اور پیغمبر اسلامؐ کی رحلت کے بعد بنی ہاشم اور دیگر افراد مثلاً

اس سے روشن تر عبارت یہ ہے کہ بلاکت وہاں خطرہ ہے جہاں یہ بلاکت بد بختی کا موجب ہو لیکن جہاد جیسے کام کے لئے اقدام کرنا جو ایک معاشرے کے لئے سعادت کا موجب ہے خود ایک سعادت ہے نہ کہ بد بختی۔ یہی مقدس مقصد قیام امام حسنؑ اور ان کے اصحاب میں ہے اسی لئے انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا کیونکہ وہ لوگ اس کے بہت سے درخشاں نتائج دیکھ رہے تھے جو قیامت تک باقی رہنے والے تھے۔ لہذا اس قسم کا اقدام کرنا سعادت ہے نہ کہ بد بختی۔ لہذا اپنے آپ کو بلاکت میں ڈالنا نہیں کھلانے گا۔

شما اگر کوئی ایسے خطرناک کام میں ہاتھ ڈالے جس کے خاطر کچھ لوگ بھی قتل کئے جائیں ہزاروں دینار کا مالی خسارہ بھی ہو مگر اس کام سے ہزاروں لوگ انحرافی زندگی اور تدریجی موت سے آزاد ہو رہے ہوں اور دسیوں ہزار دینار کا دوسرا طرف فائدہ بھی ہو رہا ہو تو آیا اس طرح کا اقدام کرنا خود کو بلاکت میں ڈالنا ہے؟ اگر ایک کشاور جو قیمتی چاول خرید کر جو زمین میں ڈالتا ہے اور ہل وغیرہ چلاتا ہے تاکہ اس کے کئی گناہ زیادہ کمائے تو کیا اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیوں تم اتنے قیمتی چاول اس میلان میں ڈال رہے ہو؟ اسی لئے قرآن فرماتا ہے: "ولولا دفع اللہ الام بعضهم ببعض لفسدت الأرض" (سورہ بقرہ آیت ۲۵)

یعنی اگر خدا لوگوں میں سے بعض کو بعض دیگر سے ہدایت نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔

شاغرد: آپ کی ان تسلی خوش توضیحات کا بہت بہت شکر یہ۔

مرحلہ دوم :

امامت امام علیٰ جب کوئے میں تھی تو ایرانیوں کی وہاں آمد و رفت زیادہ تھی۔ لہذا امام علیٰ کی عدالت و محبت اور قبیلہ پرستی کا مقابلہ دوسرا صمیم عامل تھا جو ایرانیوں کے شیعہ علوی جو کہ خالص اسلام محمدی تھا، سبب ہوا۔

مرحلہ سوم :

جهش امام حسین اور آپ کے خطابات اور ایرانیوں کے بینی اسریہ کی فاسد حکومت سے بچنے کا سبب ہوا کہ انہوں نے ظالم حکومت کو پہچانا اور اس سے تنفس ہوئے اور الہیت پیغمبر کی طرف متوجہ ہونے اور خود حادثہ کر بلہ ایک نوری جھلک تھی جو آمادہ دلوں کو حق کی طرف اور خاندان رسالت کے آسمیں (تشیع) کی طرف لے جائے۔

مرحلہ چارم :

امام صادقؑ کا عظیم کام یعنی چار ہزار طلبہ کے لئے حوزہ علیہ کی تشکیل جن میں سے ہر ایک چنا ہوا مبلغ تھا اور تشیع کی ترویج کے لئے اور ایرانیوں کے دلوں میں تشیع کی محبت ایجاد کرنے میں اصل عامل تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی مدائیں کے نزدیک تھا اور بصرہ ایران کی حدود سے ملا ہوا تھا۔ امام صادقؑ کے بہت سے شاگرد جو کوئے اور اس کے اطراف کے رہتے والے تھے کوئے کی بڑی مسجد میں فتحہ تشیع کی تبلیغ میں مشغول رہا کرتے تھے۔

مرحلہ پنجم :

سرزمیں قم عراق سے بھرت کرنے والے شیعوں کیلئے بہترین پناہ گاہ

سلمان، ابوذر، مقداد، عمار جیسے لوگوں کے تحت تھی نہ کہ ایرانیوں کے لئے مخصوص تھی اور شاہ ساسانی کے لوگوں کے ساتھ بھرے برتاؤ اور ظلم و ستم اس بات پر گواہ ہیں کہ ایرانی سلطنت ارثی سے بیزار ہو چکے تھے اور ایک عادل حکومت کے طالب تھے تاکہ انہیں خالموں کے ظلم سے نجات دلانے اور امام حسین کا ملی ملی شریانو سے ازوایح کرنا خود ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں کافی اثر انداز تھا مگر یہ سب عالی اصلی اور رازِ حقیقی نہیں تھے۔

وانشند آتش پرست : اگر مذکورہ چار عوامل ایرانیوں کے شیعہ ہونے کے نہیں ہیں تو پھر کونے عوامل ہیں جو ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں اثر عین رکھتے ہیں؟

وانشند مسلمان : یہ کافی بھی داستان ہے مگر ان کو گیارہ مرافق میں خلاصہ کر کیا جاسکتا ہے جو ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں ریشه اصلی ہیں:

مرحلہ اول :

قرن اول سے ایرانیوں کا اسلام قبول کرنا کیونکہ یہ لوگ شاہ ساسانی کے قلم و ستم سے بچنے آچکے تھے اور ایک آزادی ٹھش اور عادلانہ حکومت چاہتے تھے جس میں حضرت سلمان کا جیادی گردار تھا جنہوں نے مدائیں کو جو شاہ ساسانی ایران کا پا یہ تخت تھا اسلام کی نشر و اشاعت اور شیعوں کا مرکز قرار دیا تھا۔ حضرت سلمان نے اسلام کا تعارف کرنے کے لئے امام علیؑ کی شخصیت کو چنا تاکہ محمد صلی اللہ وآل و سلم کو فراموش نہ کیا جاسکے ایرانیوں نے اسلام کو پہچاننے کے لئے حضرت سلمانؓ کو چنا تاکہ حضرت علیؑ و پیغمبر اکرمؐ کو فراموش نہ کر سکیں۔

اور قدیم آثار نے اور دوسرے ملکوں میں ان علماء کی طرف سے مدرسے اور اسلامی
مراکز کے قیام نے اس مذهب کے پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

مراحل نہم:

من ۲ و ۵ جنگی میں آل بیہ (ولیلہ) جو شیعہ تھے کی حکومت بھی سیاسی
و اعتقادی لحاظ سے تشیع کے لئے کافی اہم تھی اور اس کے اس سلسلے میں ان کی
کوششیں کافی مؤثر و مفید رہیں۔

مراحلہ دہم:

آنچوں بھری میں علامہ حلبی کے ہاتھوں شاہ خدا بندہ کا شیعہ ہونا اور
سارے ایران میں مذهب جعفری کو سرکاری قرار دینا ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔

مراحلہ یازدہم:

من دس و گیارہ بھری میں صفوی حکومت کا آنا اور بادشاہ کا ہے ہوئے
علماء مثلاً علامہ مجتبی، شیخ یہمانی اور میر دلاد جیسے بزرگ علماء کی رہنمائی میں ایران
میں مذهب تشیع کو فروغ دینا۔

ان قوی عوامل کے سبب تمام ایران میں مذهب تشیع کی ترویج ممکن ہوئی۔
وانشمند آتش پرست: ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں بڑوںی عوامل
تھے یاد اخلي یادوں نوں؟

وانشمند مسلمان: ضروری ہے کہ کما جائے کہ دونوں عوامل مؤثر تھے
کیونکہ ایک طرف ایرانیوں کی عدالت و صداقت و ایثار و دوسری فضائل اخلاقی اور
ظالم حکومتوں سے نفرت یہ سب داخلی عوامل تھے دوسری طرف ایک عادل و

تحمی سرزی میں یہ خود کافی مؤثر نقش تھا ایرانیوں کے شیعہ ہونے میں۔

مراحلہ ششم:

امام رضا کا مدینہ سے خراسان ہجرت کرنا اور بنی عباس حکومت کے
ساتویں خلیفہ مامون کا آزاد رکھنا تاکہ الحست کے بڑے علماء سے مناظرہ کرایا
جائے یہ خود ایرانیوں کے شیعہ ہوتے میں کافی اثر انداز تھا اور اس بات کی طرف
متوجہ رہتے ہوئے کہ امام رضا نے نیشاپور میں جب حدیث سلسلہ الذهب جو توحید
و امامت الہیئت پر شامل تھی بیان کیا تو یہ میں ہزار بھکھ ایک دوسری روایت کے
مطابق چوپیس ہزار افراد امام رضا کے کلام کو لکھنے والے تھے۔ (اعیان الشیعہ جلد ۲
ص ۱۸ جدید) جبکہ اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد ان پڑھ لوگوں کی نسبت کم
تھی۔ لہذا جب صرف لکھنے والوں کی تعداد ۲۳ ہزار تھی تو یقیناً دوسرے لوگ تو
اس کے کئی گناہوں گے۔

مراحلہ ہفتم:

امام زادگان کا امام رضا سے ملاقات کے لئے جہاز سے ایران کی طرف آئنا
اور ایران کے مختلف شرکوں میں پھیل جانا اور لوگوں کا ان سے استفادہ کرنا یہ بھی
ایران میں تشیع کی وسعت کا سبب ہے۔

مراحلہ ہشتم:

اکابر ایرانی علماء مثلاً شیخ سکلینی، شیخ طوسی، شیخ صدق اور شیخ مفید وغیرہ
جو اسلام و تشیع کو ہذہ کرنے والے تھے ایران میں مذهب جعفری کی پیشرفت کا
سب سے بڑا سبب تھا۔ اسی طرح حوزہ علمیہ نجف میں ہزار سے زیادہ رسالہ عملیہ

استاد: کلام خدا میں ہرگز اختلاف نہیں ہے اور آیات قرآنی میں بھی کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ خود قرآن کے سورہ نساء کی آیت ۸۲ میں ارشاد ہوتا ہے: "ولو کان من عند غير الله لوحدو فیه احْلَافًا كثیراً۔" یعنی اگر قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو تم لوگ اس میں بہت اختلاف پاتے یہ آیت خود قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے اور یہ خود اختلاف نہ ہوتا قرآن کے مجرم نما ہونے کی زندہ دلیل ہے اور اس بات پر گواہی ہے کہ قرآن نکر بھر کی پیداوار نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ناصل ہوا ہے۔

شاگرو: تو میں کس طرح جب آیات کو ایک دوسرے سے موازنہ کرتا ہوں تو انہیں مختلف پاتا ہوں؟

استاد: اپنی موازنہ کی ہوئی آیات کے ایک دو موردنہ تاکہ اس میں دیکھا جائے کہ اختلاف ہے بھی یا نہیں؟

شاگرو: بعوان مثال دو موردنہ کو ذکر کرتا ہوں: قرآن نے بعض آیات میں انسان کے مقام کو اس قدر بلند بیان کیا ہے کہ فرماتا ہے۔ "فَإِذَا صَوَدَ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُولَهُ سَاجِدِينَ۔" (سورہ حم آیت ۲۷) اور سورۃ محج (آیت ۲۹) یعنی جب آدم کو تحریک کرچکا اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم لوگ اس کے آگے سجدہ کرنا۔

اور بعض دیگر مقامات پر انسان کے مقام کو اس قدر گرایا کہ اس کو جاری پایوں سے بھی پست تر تعبیر کیا ہے جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۲۹ میں ارشاد ہوتا ہے:

معصوم رہبری جو صرف شیعہ میں مل سکتا ہے ایرانیوں کے مذهب جعفری کی طرف جذب ہونے کے عوامل تھے اور کیونکہ ایرانیوں نے امام علیؑ کے وجود میں عدالت و صداقت و ایثار جیسی چیزوں پر ایک جگہ دوسرے مخالفین میں اس کے ضد چیزوں پر ایک تو ایرانیوں کے لئے صرف دو را ہیں تھیں: خاندان رسالت سے پیوست ہو جانا جو اسلام حقیقی تھا لہذا کیونکہ ایرانیوں کے قلوب پہلے سے آمادہ تھے اس لئے وہ اسلام و تشبیح سے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر داخل ہونے لگے جس کی وجہ سے ایرانیوں میں ایک نئی فکر آئی جو بھرپور راہ اسلام تھی کہ مذهب جعفری کو اختیار کیا جائے جس کے بارے میں یخیبر اکرمؐ نے علم غیر سے اس بارے میں خبر دی ہے کہ: "اسعد العجم بالاسلام اهل فارس۔" یعنی غیر عرب میں اسلام سے ہمکنار ہونے کی وجہ سے سعادت مند ترین لوگ ایرانی ہیں۔ (کنز الصمال حدیث ۳۲۱۲۵) اور مزید آپؐ نے فرمایا: "اعظم الناس تصيباً في الاسلام اهل فارس۔" یعنی مسلمانوں کے درمیان اسلام سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والے ایرانی ہیں۔ (وہی مدرک گزشتہ)

(۱۰۰)

بعض آیات قرآنی میں ظاہری اختلاف

شاگرو: جب قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں بعض دیگر آیتوں کے بالکل مقابل میں ہیں اور دونوں میں ایک قسم کا اختلاف ہے اس کی علت کیا ہے؟ کیا کلام خدا میں اختلاف پایا جاتا ہے؟

ما طاب لكم من النساء هنثى و ثلاث وربع فان خفتم الا تعذلوا فواحدة۔“
یعنی پاکیزہ عورتوں سے نکاح کر دو سے یا تین سے یا چار سے لیکن اگر ڈرتے ہو کہ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ لہذا اس آیت کے مطابق اسلام میں چار تک شادیاں کرنا جائز ہیں عدالت رکھنے کی صورت میں بلکہ اسی سورۃ کی آیت ۱۲۹ میں پڑھتے ہیں کہ : ”ولن تستطعوا ان تعذلوا بین النساء ولو حرصتم۔“ یعنی تم جتنی بھی کوشش کر لو ہرگز اپنی ازواج کے درمیان عدالت نہیں کر سکتے۔ پیچھا پہلی آیت کے مطابق متعدد شادیاں کرنا جائز ہے عدالت کی رعایت کرتے ہوئے لیکن دوسری آیت کے مطابق کیونکہ متعدد ازواج کے درمیان عدالت ممکن نہیں ہے۔ لہذا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا اس طرح سے ان دونوں آیات کے درمیان ایک طرح کا اختلاف پایا جاتا ہے۔

استاد: اتفاقاً اسی طرح کا سوال امام صادق علیہ اسلام سے منکر خدا ان انبیاء وجاهتے کیا تھا اور اس کا جواب امام کے صحابی ہشام بن حکم نے امام کی طرف سے اس کا جواب دیا تھا اور وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ جواب یہ تھا کہ پہلی آیت میں عدل کے معنی رفتار و کردار اور زوج کے حقوق میں انصاف سے کام لینے کے ہیں لیکن دوسری آیت میں عدل کے معنی قلبی میلان میں عدل کرنے کے ہیں۔ لہذا اس طرح ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے اگر کوئی اپنی متعدد ازواج کے رفتار و کردار میں عدل کر سکے اگرچہ وہ ان کے قلبی میلان میں عدل نہ کر سکے تو وہ متعدد شادیاں کر سکتا ہے۔

شاگرد: عدل کی ان دونوں آیتوں میں وہ طرح کے معنی کیوں کریں بلکہ

”ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفهمون بها ولهم اعين لا يصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون۔“ یعنی ہم نے بہت سے جن و انس کو جنم کیلئے غلق کیا ہے کیونکہ ان کے قلوب سمجھتے نہیں ہیں آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں کانوں سے سمعت نہیں یہ لوگ چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گراہ ہیں اور غافل ہیں۔

استاد: ان دونوں آیتوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ان آجتوں نے انسانوں کو دو دستوں میں تقسیم کیا ہے اچھے اور بدے۔ اچھے لوگوں کا خدا کی بارگاہ میں اتنا بader مقام ہے کہ فرشتہ ان کے لئے سجدہ کرتے ہیں اور خدا نے ان فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے وجود کی وجہ سے ان کے لئے سجدہ شکر چالاؤ بلکہ بدے لوگ اس حد تک پست ہیں کہ حیوانات سے بھی پست تر ہیں کیونکہ ان کے پاس عقل جیسی نعمت ہوتے ہوئے بھی انسوں نے حیوانات کی راہ کو اختیار کیا ہے۔ لہذا آیت اول انسان کی اعلیٰ صفات و خوشخبری دیتی ہے اور دوسری آیت انسان کے بروئے کار لانے کی وجہ سے بھارت و خوشخبری دیتی ہے اور دوسری آیت انسان کے پاس اعلیٰ استعداد و اختیار ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کرنے اور غرائض نفسانی کے چیزوں کا درکار ہونے کی وجہ سے ان کو ڈرارہی ہے۔

شاگرد: آپ کے تسلی خش بیانات کا بہت بہت شکریہ۔ لہذا اگر اجازت ہو تو دوسرا مطلب ذکر کروں۔

استاد: کو جو کہنا چاہتے ہو۔

شاگرد: ہم سورۃ النساء کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ : ”فانکحوا

عدل کے ایک ہی معنی ہیں؟

استاد: عربی ادب کے لحاظ سے اگر کسی لفظ میں کوئی قرینہ ہو تو اس سے دو معنی کا ارادہ کیا جاسکتا ہے ایک معنی ظاہری دوسرے معنی باطنی۔ جیسا کہ ان دو آیتوں کے درمیان قرینہ ہے کہ پہلی آیت میں عدالت سے مراد رفتار و کردار کی عدالت ہے جیسا کہ ظاہر آیت اسی مطلب کو سمجھا جائی ہے لیکن دوسری آیت ذیل میں آگے پڑھتے ہیں کہ: «فلا تعملو كل الميل فتدروها کا المعلقة». یعنی اپنے تمایلات کو ایک ہی بیوی کے لئے مخصوص نہ کرو کہ دوسری گویا جنمائی محسوس کرے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عدالت کی استطاعت نہ ہونے کا ذکر جو شروع آیت میں آیا ہے وہ تمایلات قلبی میں عدالت کرتا ہے نہ کہ رفتار و کردار میں عدالت کرنا جو کہ ازواج کے حقوق میں رعایت کرتا ہے لہذا ان دونوں آیتوں میں کسی قسم کا کوئی تباہ و اختلاف نہیں ہے۔

شاگرد: آپ کے اس منطقی اور تسلی خوش جواب کا شکر گزار ہوں۔

(۱۰۱)

امام زمان (ؑ) کے ۳۱۳ سالہ

جیسا کہ امام زمان کے بارے میں جو روایات آتی ہیں ان میں مختلف تعبیرات سے یہ ملتا ہے کہ امام زمان کے ظہر کے وقت آپ کے ۳۱۳ سالہ ہوں گے جو کعبہ کے اطراف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے امام زمان جن کے انتظار میں ہیں اور ۳۱۳ افراد وہ ہوں گے جو سب سے پہلے امام زمان کے ہاتھ

پر بیعت کریں گے اسی وقت سے امام مددی کا قیام شروع ہو گا اور یہ ۳۱۳ افراد تمام کائنات میں امام مددی کی طرف سے حاکم ہوں گے۔ اب ذرا ایک اسلامی محقق اور تازہ جستجو کرنے والے کے درمیان مناظرہ ملاحظہ کریں:

جستجوگر: مردے مرباں میرے لئے امام مددی کے ۳۱۳ انصار نقل کریں۔

محقق: یہ حدیث مختلف تعبیرات کے ساتھ نقل ہوئی ہے ایک حدیث نہیں ہے بحد ایسی دسیوں حدیثیں ہیں جو کہ تمام ان ۳۱۳ انصار امام مددی کے بارے میں ہیں یہ روایات اس قدر کثرت سے نقل ہوئی ہیں کہ ان کی صحت کا یقین ہو جاتا ہے اور اس نتیجہ پر پونچھتے ہیں کہ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کچھ جھوٹے لوگوں نے دھوکہ دینے کے لئے ایسی حدیثیں گھڑی ہوں۔

جستجوگر: ہوں شاعر مولانا کے:

آب دریا را اگر توان کشید پس بد قدر تشنگی باید چشید
یعنی اگر دریا کے پانی کو کھینچا غمیں جاسکتا تو کم از کم پیاس بخانے کی حد تک تو پہنچا جائے۔ لہذا آپ اطور نمونہ ایک دو ان میں سے احادیث نقل کریں جو ان ۳۱۳ افراد کے بارے میں ذکر ہیں۔

محقق: سورہ ہود کی آیت ۸۰ کی تغیریں آیا ہے کہ حضرت اوط نے اپنی سرکش اور باغی قوم سے فرمایا: «لَوْلَا لَيْ بَكُمْ قُوَّةٌ أَوْ أَوْيَ إِلَيْ رَكْنٍ شَدِيدٍ»۔ یعنی کاش کے تم سے مقابله کے لئے میرے پاس قدرت ہوتی یا میری پشت حکم ہوتی تو تم دیکھتے کہ میں تمہارا کیا خشر کرتا۔ لہذا امام صادق فرماتے ہیں: «قوہ» سے آیت میں مراد امام زمان ہی ہیں اور ”رکن شدید“ سے مراد امام زمان

یعنی وہ لوگ تجزیہ و سریع اپنے تمام امکانات کے ساتھ مدد میں جمع ہو جائیں گے۔ امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ : ”وَكَانَى انظَرَ لِي الْقُشْ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ وَحَوْلَهُ اصحابُهُ ثَلَاثَمَةٍ وَثَلَاثَ عَشَرَ دَجْلَ عَدَّةً أَهْلَ الْبَدْرِ وَهُمْ اصحابُ الْأَلوَى وَهُمْ حُكَّامُ اللَّهِ فِي الرَّضَهِ عَلَى خَلْقِهِ“ (خوار جلد ۵۲ ص ۳۲۹) یعنی گویا میں امام قائم کو کوفہ کے منبر پر دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ۳۱۳ انصار جگ بدرا کے جگہ بھروسوں کی طرح آپ کے اطراف میں کھڑے ہیں یہ لوگ امام زماں کے پرچم جوار ہیں اور زمین خدا پر خدا کی طرف سے حاکم ہیں۔

لہذا احادیث کے تحت وہ ۳۱۳ افراد علم و کمال و شجاعت اور اسلامی درجات سے ہمکنار ہوں گے۔ مثلاً اگر تمام کائنات کو ۳۱۳ ریاستوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اس کی رہبری کر سکے ہوں کسی بزرگ کے کہ مثلاً وہ ۳۱۳ افراد امام شیعیٰ چیزے ہوں جنہوں نے ایران کی حکومت اپنے ہاتھ میں لی اور صحیح رہبری کی لہذا ان ۳۱۳ افراد میں سے بھی ہر ایک اتنی قدرت و صلاحیت کا مالک ہونا چاہئے تاکہ امام زمانہ کی حکومت بھانی کے کسی حصے پر اگر حاکم بنالیا جائے تو وہ اس کی صحیح رہبری کر سکے۔

جبتوگر: اب اس مسئلہ کی حقیقت واضح ہوئی کہ ابھی تک وہ ۳۱۳ افراد اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ دنیا میں نہیں ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں زینہ سازی غیق و دقيق طریقے سے کرنی چاہئے تاکہ تمام جمانت امام مددی کے ظہور کے منتظر ہوں اور خود کو آمادہ کریں جس طرح پیغمبر اسلامؐ کو اپنے مقدس اهداف کو لوگوں تک پہنچانے کیلئے ہوشیار، سیاستدان، شجاع اور پر صلاحیت افراد کی ضرورت تھی اسی

کے ۳۱۳ انصار ہیں۔ (تفصیر بہان جلد ۲ ص ۲۲۸۔ اثبات البہانہ جلد ۷ ص ۱۰۰)

ایک دوسری روایت امام باقرؑ فرماتے ہیں : ”لَكَانَى انظَرَ لِي الْبَهَمِ مُصْجَدِينَ مِنْ نَجْفَ الْكُوفَةِ ثَلَاثَ مَاهٍ وَبَضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا كَانَ قُلُوبَهُمْ زَبَرُ الْحَدِيدِ“ یعنی میں ان ۳۱۳ انصار حضرت مددیؑ کو دیکھتا ہوں کہ جو کوفہ و نجف سے بھی آگے بڑھ جائیں گے ان کے قلوب لوہے کے تکڑوں کی مانند ہیں۔ (خوار جلد ۵۲ ص ۳۲۳)

جبتوگر: کیا ابھی تک وہ ۳۱۳ افراد تیار نہیں ہو سکے ہیں تاکہ وہ امام زمانہ کی خدمت میں جائیں اور آپؑ کا ظہور ہو اور دنیا اس ظلم و تم میں نجات پائے؟

محقق: یہ ۳۱۳ افراد رویات کے مطابق خاص خصوصیات کے حامل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک دنیا میں ایسی لیاقت رکھنے والے افراد نہیں ہیں جو کہ ظہور امام کا سبب ہیں۔

جبتوگر: مثلاً ان کی کیا خصوصیات ہوں گی؟

محقق: جیسا کہ امام سجادؑ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مددیؑ مکہ میں لوگوں کے درمیان اپنے آپ کا تعارف کرائیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے بعض لوگ امام زماں کے خلاف قیام کریں گے تاکہ امام کو قتل کر دیں۔ ”فِيَقُومٍ ثَلَاثَمَةٍ وَنِيفَ فِيمَنْعُونَهُ مُنْهَ“ پھر یہ ۳۱۳ افراد قیام کریں گے اور امام زماں کو علی لغین سے محفوظ رکھیں گے۔ (خوار جلد ۵۲ ص ۳۰۶) دوسری روایات میں ایسے افراد کی توصیف میں آیا ہے کہ : ”يَجْمَعُهُمُ اللَّهُ بِمَكَّةَ قَرْعَا لِقَرْعَ الْخَمْرِيفِ“ خداوند عالم ان لوگوں کو مکہ کے گرد جمع کرے گا جس طرح خزان کے موسم میں پتوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ (اعیان الشیعہ۔ جدید جلد ۲ ص ۸۲)

ہلاک کر دے۔ (ابیات الہدۃ جلد ۷ ص ۱۱۳۔ اعیان الشیعہ جلد ۲ ص ۸۲)

جیتو گر: انصار ان امام مددی کے سلسلے میں کیوں صرف مردوں کی بات ہوتی ہے خواتین کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟

محقق: یہ جو مردوں کی زیادہ گفتگو ہوتی ہے وہ اس لئے کہ آنماز سے اب تک جہاد کے سلسلے میں زیادہ تر مرد میدان میں جاتے تھے لیکن خواتین بھی مختلف مجاہدوں سے امام مددی کے اہداف کا دفاع کریں گی۔ بعض روایات میں امام مددی کے ۳۱۳ انصار میں خواتین کا بھی ذکر ہے تمہلہ ان روایات میں سے امام باقرؑ سے جو روایت ہے کہ: ”وَيَحْيَ اللَّهُ ثَلَاثَ مَاهٍ وَبِضُعْفَةِ عَشْرِ رِجَلٍ فِيهِمْ خَمْسُونَ اَمْرَنَةٍ يَجْتَمِعُونَ بِمَكَّةَ عَلَى غَيْرِ مَيعَادٍ فَرَعَا كَعْزَعُ الْخَرِيفِ۔“ (حدائق الہدۃ جلد ۲ ص ۸۲۔ اعیان الشیعہ جلد ۲ ص ۵۲) یعنی خدا کی قسم ان ۳۱۳ انصار میں تین سو سے کم مرد اور پچاس خواتین ہوں گی جو کہ میں جمع ہوں گے۔ پہلے سے اعلان کئے بغیر موسم خزاں کے بھرے ہوئے پتوں کی طرح۔ مفضل امام صادقؑ سے نقل کرتے ہیں کہ: ”امام مددی کے ساتھ تیرہ خواتین ہوں گی۔“ مفضل کہتے ہیں: میں نے عرض کیا کہ مولا! خواتین امام مددی کے ساتھ کس لئے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا: زخمیوں کا مدد ادا کرنے اور جگلی ہماروں کی چیزوں کی تحریک کے لئے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرمؐ کے زمانے میں بھی خواتین یہی کام انجام دیا کرتی تھیں۔ (ابیات الہدۃ جلد ۷ ص ۱۵۰ اور ص ۱۷۱)

جیتو گر: ایسے مردوں اور عورتوں کی تعداد جو امام مددی کے ہمراہ ہوں گے کم ہوگی؟

طرح امام زمان کو بھی ایسے انصار کی ضرورت ہے تاکہ امام کے ظہور میں تاخیر نہ ہو۔ میراول چاہ رہا ہے کہ ان ۳۱۳ افراد کے بارے میں مزید گفتگو سنوں۔

محقق: سورۃ هرہ کی آیت ۱۳۸ میں ہم پڑھتے ہیں کہ: ”اَيْنَ مَا تَكُونُو یَاتٌ بِکَمِ اللَّهِ جَمِيعًا۔“ یعنی تم لوگ جہاں کیسی بھی ہو گے خدا جمیں حاضر کریگا۔ امام صادقؑ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مراد امام زمان ہے اس انصار ہیں خدا کی قسم وہی امت محدودہ ہیں اور خدا کی قسم یہ لوگ ایک گھنٹے کے اندر جمع ہو جائیں گے جس طرح خزاں کے موسم میں بھرے ہوئے تیرہ ہواں سے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ (نور النّقیلین جلد اول ص ۱۳۹) ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ لوگ دور ترین ممالک و شہروں سے مکہ میں جمع ہو جائیں گے۔ (ابیات الہدۃ جلد ۷ ص ۶۷) اور امام مددی مکہ سے ایک فرخ کے فاسطے پران ۳۱۳ افراد کے انتظار میں توقف کریں گے تاکہ وہ سب آجائیں اوس بمل کر کعبہ کے اطراف میں جمع ہوں۔ (ابیات الہدۃ جلد ۷ ص ۹۲) یہی وہ افراد ہوں گے جو سب سے پہلے امام زمان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ (حدائق الہدۃ جلد ۲ ص ۳۱۶) وہ لوگ امام مددی کی طرف سے امداد نہیں سے ہمکنار ہوں گے امام مددی اور ان پر خدا کی طرف سے رحمت ہوگی۔ چنانچہ امام سجادؑ فرماتے ہیں کہ گویا میں ویکھ رہا ہوں کہ امام مددیؑ اور ان کے ۳۱۳ انصار پشت کوقد سے نجف میں شرف ہوئے ہیں جو بریکل ان کے دامیں طرف اور میکاٹل ان کی بائیں طرف اور اسرائیل ان کے آگے آگے پیغمبر اکرمؐ کا پرچم لئے ہوئے چل رہے ہوئے اور اس پر چم کو کسی بھی اسلامی گروہ کے مخالفین کے سامنے مستحیل نہیں کریں گے مگر یہ کہ خدا ان مخالفین کو

عاشر ایام کریں گے۔

۳۔ امام حباد کا ارشاد گرائی ہے: "إذا قام قيتمنا اذهب الله عزوجل عن شيعتنا العاهة وجعل قلوبهم كثيرو الحديد و جعل قوة الرجل متهم قوة أربعين رجلاً ويكونون حكام الارض وستا مها." یعنی جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو خداوند عالم ہر قسم کی وحشت و آفت کو آپ کے شیعوں سے دور کر دے گا اور ان کے قلوب لوہے کی مانند حکم ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک شخص چالیس افراد کی قوت رکھے گا اور وہ لوگ تمام زمین پر حاکم ہوں گے۔ (خار جلد ۵۲ ص ۳۱۷)

۴۔ امام باقرؑ کا ارشاد گرائی ہے: "فَإِذَا وَقَعَ امْرُنَا وَخْرَجَ مَهْدِيَنَا كَانَ أَحَدُهُمْ أَجْرِيَ مِنَ الْبَيْتِ أَمْضِيَ مِنَ السَّانِ وَبِطَا عَدُوَنَا بِقَدْمِيهِ وَيَقْعُلُهُ بِكَفِيهِ." یعنی جب ہمارا امر آئے گا اور ہمارا مددی خروج کرے گا تو ہمارے شیعوں میں سے ہر ایک شر سے زیادہ دلیر اور نیزے سے زیادہ تیز جو دشمن پامال کر دے اور اپنے باتخواں سے اسے قتل کر دے۔ (ابنات الہادۃ جلد ۷ ص ۱۱۳)

۵۔ امام صادقؑ کا ارشاد گرائی ہے: "لَعْدَنْ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَانِمِ وَلَوْ سَهِمَّا." یعنی تم میں سے ہر ایک کو قیام قائم کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ ایک عدو تیر ہی میا کر کے تیار رہے۔ (غیرۃ الحسکا ص ۱۷۲)

۶۔ امام صادقؑ ہی کا یہ بھی ارشاد ہے: "يَذْلِلُ لَهُ كُلُّ صَعْبٍ." یعنی امام مددی کے سامنے تمام دشواریاں اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ (خار جلد ۵۲ ص ۲۸۳)

حققت: ایسے لوگ ابتداء ظہور سے امام مددیؑ کے ہمراہ ہوں گے اور پھر روزہ روزان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔

مزید وضاحت: کہ یہ افراد خاص خصوصیات کے حامل ہوں گے جو عالمگیر حکومت تنظیل دیں گے جیسا کہ خود روایت میں آیا ہے: "۳۶۰ افراد مجرم اسود اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان امام مددیؑ کے باتخواں پر بیعت کریں گے اور یہ افراد امام مددیؑ کے وزراء ہوں گے جو عالمگیر حکومت کی سخت ترین ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے اور اس کا انتظام چلا کیں گے۔"

ایک اور روایت ملتی ہے کہ: "فتح روم کے موقع پر امام مددیؑ کے انصار شرکت کریں گے اور ان کی پہلی صدائے تکمیر سے ایک تماقی روم فتح ہو جائیگا اور دوسری تکمیر سے ایک تماقی روم اور فتح ہو جائیگا اور پھر تیسرا تکمیر سے تمام روم آزاد ہو جائیگا۔" (الجاسالیہ "سید محسن جبل عالمی" جلد ۵ ص ۱۱۷ و ۲۳۷ و ۲۳۸)

ایک اور روایت میں امام باقرؑ سے تقلیل ہے کہ ستر ہزار افراد امام مددیؑ کے چھ فدائیں اہل کوفہ ہوں گے۔ (خار جلد ۵۲ ص ۳۹۰)

اس مناظرے کے اختتام پر بعض زینت خش مطالب کے سلسلے میں چند حدیثیں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ امام صادقؑ کا ارشاد گرائی ہے: "إِنَّ الْقَانِمَ صَلَوَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْادِي بِاسْمِهِ لِيَلَةَ ثَلَاثَةِ وَعَشْرِينَ وَيَقْوِمُ يَوْمَ عَاشُورَةِ يَوْمِ قَتْلِ فِيْهِ الْحَسِينِ." (ارشاد مفید ص ۳۲۱۔ خار جلد ۵۲ ص ۲۹۰) یعنی حضرت مددیؑ جن پر خدا کی طرف سے درود و سلام ہوں ۲۳ رمضان کی شب کو آپ کے نام کی آواز آئے گی اور آپ روز